

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ



محمد حسین ہیکل

مترجم: شیخ محمد زبانی پتی

اسلامی کتب خانہ

عزراؤ کر صدیق

محل حسین ہیکل

مترجم: شیخ (محمد) پانی پتی

اسلامی مکتب خانہ

فضل الہی مارکیٹ ۰ چوک اردو بازار ۰ لاہور

Ph: 7223506-7230718

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ————— حضرت ابو بکر صدیق

مؤلف ————— محمد حسین ہیکل

ترجمہ و شرح ————— شیخ (محمد) پانی پتی

ناشر ————— اسلامی کتب خانہ

طابع ————— ممتاز احمد

پرنٹر ————— لٹل سٹار پرنٹرز

نوٹ

قارئین سے درخواست ہے کہ ہماری تمام ترکوشش (اچھی پرنٹنگ، معیاری پرنٹنگ) کے باوجود اس بات کا امکان ہے کہ کہیں کوئی لفظی غلطی یا کوئی اور غامی رہ گئی ہو تو ہمیں مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں اس غلطی یا غامی کو دور کیا جائے۔ شکریہ! (ادارہ)

فہرست

17.....	حرف اول	
39.....	ابوبکرؓ رسول اللہؐ کی زندگی میں	پہلا باب:
39.....	ابتدائی حالات	
39.....	قبیلہ	
40.....	نام، لقب اور کنیت	
41.....	بچپن اور جوانی	
41.....	پیشہ، حلیہ اور اخلاق و عادات	
42.....	رسول اللہؐ سے تعلق اور قبول اسلام	
44.....	بلا ترد و قبول اسلام کا سبب	
44.....	جرات ایمانی	
46.....	خادم اولین	
46.....	غریب، مساکین اور مظلوموں کی امداد	
47.....	رسول اللہؐ کی تائید و حمایت	
48.....	اسراء کے موقع پر	
49.....	اسراء کے بعد	
50.....	کمزور مسلمانوں کی حفاظت	
52.....	ہجرت کی تیاری اور ہجرت	
53.....	غار ثور میں گھبراہٹ کی وجہ	

- 55..... مدینہ میں
- 56..... غیرت ایمانی
- 57..... رومیوں کے غلبے کی پیش گوئی
- 58..... جنگ بدر
- 60..... اسیران بدر کی سفارش
- 62..... جنگ بدر کے بعد
- 62..... جنگ احد
- 64..... صلح حدیبیہ
- 65..... امیر الحج
- 66..... حجۃ الوداع
- 66..... نماز پڑھانے کا حکم
- 68..... ابو بکرؓ رسول اللہؐ کی نظر میں
- 70..... بیعت خلافت
- 70..... وفات رسول اللہؐ پر مسلمانوں میں سراسیمگی
- 72..... ابو بکرؓ کا ضبط نفس
- 73..... مسئلہ خلافت
- 73..... انصار اور مہاجرین میں اختلاف
- 76..... سقیفہ بنی ساعدہ
- 76..... سعد بن عبادہ کی تقریر
- 77..... انصار کی پہلی کمزوری
- 78..... اوس و خزرج کی موروثی عداوت
- 79..... اہل یثرب میں اتحاد
- 80..... عمرؓ اور ابو عبیدہ میں گفتگو
- 81..... عمرؓ اور ابو بکرؓ سقیفہ بنی ساعدہ میں

دوسرا باب:

- 82..... سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع کی اہمیت
- 83..... حاضرین سقیفہ سے ابو بکرؓ کا خطاب
- 85..... بعض انصار کی مخالفت
- 86..... حباب بن منذر انصاری
- 86..... حضرت عمرؓ کی تقریر
- 87..... حضرت عمرؓ اور حباب میں جھڑپ
- 88..... بعض منافقین کی شرارت
- 88..... بشیر بن سعد کی تقریر
- 89..... عمرؓ اور ابو عبیدہ کی بیعت ابو بکرؓ
- 90..... بشیر بن سعد اور دوسرے انصار کی بیعت
- 91..... سعد بن عبادہ کا انکار بیعت
- 93..... بیعت پر انصار کا قیام
- 93..... مسجد نبوی میں بیعت عامہ
- 94..... خلافت کا پہلا خطبہ
- 95..... ابو بکرؓ کی بیعت بالا جماع
- 95..... بیعت سے مہاجرین کبار کی علیحدگی
- 96..... منافقین کا اجتماع
- 97..... انکار بیعت کی مشہور ترین روایت
- 100..... انتخاب متفقہ کے متعلق روایات
- 102..... بیعت علیؓ کے متعلق درمیانی رائے
- 102..... بنو امیہ کی فتنہ کوئی
- 103..... میراث کا مطالبہ
- 106..... ابو بکرؓ کی پرامن خلافت
- 107..... مسلمانوں کا تصور خلافت

108.....	اسلام کا نظام حکومت	
109.....	عرب، رسول اللہؐ کی وفات کے وقت	تیسرا باب:
109.....	اہل مکہ ارتداد کے دروازے پر	
110.....	فتنہ ارتداد اور قبیلہ ثقیف	
111.....	دیگر قبائل عرب کا طرز عمل	
112.....	بغاوت اور ارتداد کے عوامل	
112.....	جغرافیائی عوامل	
113.....	اجنبی عوامل	
114.....	منکرین زکوٰۃ کی منطق	
115.....	مدعیان نبوت کا خروج	
116.....	اسود غسی کا فتنہ	
117.....	یمن میں فتنہ اسود	
118.....	اسود غسی کے فتنے کا آغاز	
119.....	فتنہ غسی کے عوامل	
120.....	فتنہ کا مقابلہ	
121.....	اسود غسی کے عہدیدار	
121.....	اسود غسی کے خلاف بغاوت	
124.....	اسود کا قتل	
125.....	جنوبی عرب میں بغاوت	
125.....	مسلمہ کا دعوائے نبوت	
127.....	رسول اللہؐ کی حکمت عملی	
128.....	عرب اور فتنہ مدعیان نبوت	
129.....	مدعیان نبوت کی عارضی کامیابی	
131.....	فتنہ ارتداد اور مستشرقین	

131.....	ارتداد میں اجنبی ہاتھ	
133.....	اسامہ کی روانگی	چوتھا باب:
133.....	خلیفہ اول کا پہلا حکم	
134.....	رسول اللہؐ کی ہدایات	
134.....	اسامہ سے رسول اللہؐ کی محبت	
135.....	اسامہ کی امارت پر اعتراض	
137.....	ابوبکرؓ کی ناراضگی	
137.....	لشکر کو روانگی کا حکم	
138.....	روانگی لشکر کی تیاریاں	
139.....	لشکر کو نصیحتیں	
140.....	لشکر کا بلقاء کی جانب کوچ	
140.....	اسامہ کی کامیاب واپسی	
141.....	لشکر کا استقبال	
144.....	منکرین زکوٰۃ سے جنگ	پانچواں باب:
144.....	مدینہ میں بغاوتوں کی خبر	
145.....	صحابہ سے مشورہ	
147.....	دشمن قبائل کے وفود	
147.....	وفود کی ناکام واپسی	
148.....	ابوبکرؓ کی ہدایات	
148.....	عہد صدیقی کا پہلا معرکہ	
150.....	جنگ ذی القصرہ اور جنگ بدر میں مشابہت	
151.....	ابوبکرؓ کا عزم و ثبات	
152.....	مشورہ صحابہؓ کے عدم قبول کی وجہ	
153.....	بیرونی مسلمانوں کی ادائے زکوٰۃ	

- 154.....شام سے اسامہ کی واپسی
- 154.....دوبارہ جنگ
- 155.....شکست خوردہ قبائل کی روش
- 157.....مردین سے جنگ کی تیاریاں
- 157.....جنگ کی تیاری
- 159.....قیام مدینہ کی وجہ
- 159.....مہاجرین کی قیادت کا سبب
- 160.....ابو بکرؓ کی بے تعصبی
- 162.....خالد بن ولید
- 164.....مردین کو آخری پیش کش
- 165.....مردین کے نام خطوط
- 166.....ہدایت کی کوشش
- 167.....بہترین سیاست کا کرشمہ
- 168.....جنگ ہائے ارتداد کی اہمیت
- 169.....طلحہ اور جنگ بزاخہ
- 169.....طلحہ کا دعوائے نبوت
- 171.....مردین کی سرکوبی اور ضرارؓ کی روانگی
- 172.....عمینہ اور مسلمانہ کا الحاق
- 173.....مردین کو ابو بکرؓ کی دھمکی
- 173.....عدیؓ کی سعی و جہد
- 174.....بنی طی کا دوبارہ قبول اسلام
- 176.....مقابلے کے لیے طلحہ کا اصرار
- 176.....طلحہ کے خلاف پیش قدمی
- 177.....مسلمانوں میں اضطراب

چھٹا باب:

ساتواں باب:

- 177..... بنی طی کا اظہار معذرت
- 178..... آغاز جنگ اور فرارِ طلحہ
- 180..... طلحہ کا دوبارہ قبولِ اسلام
- 181..... دوسرے مرتد قبائل کا استیصال
- 181..... بقیہ مرتد قبائل
- 183..... قاتکوں پر خالدؓ کی سختی
- 184..... خالدؓ کی روش پر ابو بکرؓ کی خوشنودی
- 185..... مرتد قیدیوں کو ابو بکرؓ کی معافی
- 185..... قرہ بن ہبیرہ
- 186..... علقمہ بن علاشہ
- 187..... فجاہ ایاس
- 187..... ابو شجرہ
- 188..... ام زمل کا خروج
- 190..... ام زمل کی شکست
- 190..... جنوبی حصے کے مرتدین
- 192..... آٹھواں باب: سجاح اور مالک بن نویرہ
- 192..... بنو عامر اور ان کے مسکن
- 192..... ادائے زکوٰۃ سے انکار
- 193..... تمیم میں سجاح کا ورود
- 194..... سجاح کے آنے کی غرض
- 194..... بنی تمیم کا طرزِ عمل
- 195..... سجاح اور مالک بن نویرہ
- 196..... مالک بن نویرہ کے اوصاف
- 197..... سجاح کی شکست

- 198..... سجاح اور مسيلمہ کی شادی
- 199..... سجاح کا مہر
- 200..... مالک کی پریشانی
- 201..... خالدؓ کا کوچ
- 202..... مالک کا اپنی قوم کو مشورہ
- 203..... مالک بن نویرہ کی گرفتاری
- 204..... قتل مالک پر مختلف روایتیں
- 207..... خالدؓ سے ابوقحادہ کی ناراضگی
- 208..... خالدؓ کے بارے میں ابو بکرؓ کا موقف
- 209..... یمامہ پر خالدؓ کی چڑھائی
- 211..... جنگ یمامہ
- 211..... مسيلمہ کے خلاف خالدؓ کی چڑھائی
- 212..... مسلمانوں کی غیر معمولی کامیابی
- 213..... عکرمہ کی ہزیمت
- 214..... مسيلمہ کی قوت کا سبب
- 215..... مسيلمہ کی اطاعت کیوں قبول کی گئی؟
- 216..... شرحبیل کی شکست
- 217..... خالدؓ سے مجاہد کی مڈبھیڑ
- 218..... خالدؓ اور مسيلمہ میں جنگ
- 219..... ابن مسيلمہ کی آتش بیانی
- 219..... مسلمانوں پر بنی حنیفہ کا دباؤ
- 220..... بہار الرجال کا قتل
- 220..... خالدؓ کی حکمت عملی
- 220..... مجاہدین اسلام کا عزم و ثبات

نواں باب:

- 222..... خالد قتل مسیلہ کے درپے
- 223..... مسیلہ کا تردد و اضطراب
- 223..... مسیلہ کا فرار
- 224..... باغ کا محاصرہ
- 225..... بنی حنیفہ کا قتل
- 225..... مسیلہ کا قتل
- 226..... مفرورین کا تعاقب اور محاصرہ
- 227..... صلح کی بات چیت
- 228..... مجاہد کی چال بازی
- 228..... خالدؓ اور بنو حنیفہ میں صلح
- 229..... بنی حنیفہ ابو بکرؓ کی خدمت میں
- 230..... مجاہد کا فریب اور خالدؓ کی مصالحت
- 230..... بنی حنیفہ کے مقتولین کی تعداد
- 231..... مسلمان شہداء کی تعداد
- 231..... مسلمانوں کا حزن و الم
- 231..... بنت مجاہد سے خالدؓ کی شادی
- 232..... اس شادی پر ابو بکرؓ کی ناراضگی
- 234..... بقیہ محارب بات ارتداد
- 234..... بحرین، عمان، مہرہ، یمن، کندہ اور حضر موت
- 234..... جنوبی قبائل کا اصرار بغاوت
- 235..... جنوبی عرب میں ایرانی اثر و نفوذ
- 237..... جنگی کارروائی کا آغاز
- 238..... بحرین میں ارتداد کا آغاز
- 239..... علماء بن حضرمی کی روانگی

دسواں باب:

- 239..... مرتدین بحرین کی شکست
- 241..... دارین میں مفرورین کی پناہ
- 241..... دارین کی فتح
- 242..... بحرین کو علماء کی واپسی
- 243..... عراق کی جانب پیش قدمی
- 243..... عمان میں جنگ وجدل
- 244..... عمان میں فتنہ ارتداد کا بانی
- 244..... مسلمانوں کی کامیابی
- 245..... مہرہ میں جنگ
- 246..... یمن میں قیام امن کی مساعی
- 246..... یمن میں بغاوت کے اسباب
- 247..... شورش یمن کا پہلا سبب
- 248..... اسود کے بعد مددگاروں کی سرگرمیاں
- 249..... شورش واضطراب کا دوسرا سبب
- 249..... قیس کی فتنہ انگیزی
- 250..... معاونین غسی سے قیس کی استمداد
- 251..... داذویہ کا قتل
- 251..... صنعاء پر قیس کا تسلط
- 252..... ابناء سے قیس کا سلوک
- 252..... قیس کی شکست
- 253..... یمن اور حجاز کی دیرینہ دشمنی
- 253..... عمرو بن معدی کرب کی بغاوت
- 254..... عکرمہ اور مہاجر یمن میں
- 254..... قیس اور عمرو میں پھوٹ

- 254.....قیس اور عمرو کی گرفتاری
- 255.....ابو بکرؓ کی جانب سے معافی
- 255.....یمن میں امن و امان کا قیام
- 256.....ایرانیوں کی حمایت کا سبب
- 257.....کندہ اور حضرموت میں جدال و قتال
- 257.....مہاجر کی امارت کندہ کا واقعہ
- 257.....اہل کندہ کا ارتداد
- 258.....مسلمانوں سے اشعث کی جنگ
- 259.....کندہ کو عکرمہ و مہاجر کی روانگی
- 259.....قلعہ بنجر کا محاصرہ
- 260.....اپنے قبیلے سے اشعث کی بد عہدی
- 261.....اشعث کی روانگی مدینہ
- 262.....ابو بکرؓ کی جانب سے اشعث کو معافی
- 263.....حضرموت اور کندہ میں امن
- 264.....مہاجر کی امارت یمن
- 264.....بنت نعمان سے عکرمہ کی شادی
- 265.....عرب کی بغاوتوں کا اختتام
- 265.....آئندہ اقدام
- 267.....گیارہواں باب: اسلامی فتوحات کی ابتداء
- 267.....عرب کی شمالی حدود
- 268.....صحرائے شام کی جانب نقل مکانی
- 270.....عربی طرز معیشت سے وابستگی
- 271.....ایرانیوں اور رومیوں سے تعلقات کی نوعیت
- 275.....اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ

- 276..... شاہان حیرہ
- 277..... عیسائیت
- 280..... لخمی اور غسانی اوج کمال پر
- 282..... سلطنت حیرہ کے آخری دن
- 284..... غسانی سلطنت کے آخری دن
- 285..... رومیوں اور ایرانیوں کے حملے
- 286..... ابو بکرؓ کا موقف
- 291..... شعی بن حارثہ اور عراق
- 298..... فتح عراق: بار ہواں باب:
- 298..... خالدؓ کی روانگی عراق
- 301..... ہرمز سے مقابلہ
- 306..... جنگ نزار
- 308..... جنگ ولجہ
- 310..... جنگ الیس
- 314..... حیرہ
- 322..... انبار
- 323..... عین التمر
- 325..... دومۃ الجندل
- 330..... خالدؓ کی عراق میں واپسی
- 331..... ہصید، خنافس اور مضج
- 332..... فراض
- 335..... خالدؓ کا خفیہ حج
- 338..... شام پر حملے کے اسباب: تیر ہواں باب:
- 338..... رومیوں کو تشویش

341	فریقین کی جنگی تیاریاں
344	ابوبکرؓ کی مصروفیات اور ذمہ داریاں
349	جہاد اور غنیمت
351	روانگی شام
357	چودہواں باب: فتح شام
357	اسلامی فوجوں کی پیش قدمی
358	اسلامی لشکروں کی روانگی
365	یرموک: رومی فوجوں کی چڑھائی
368	خالدؓ کی روانگی شام
381	جنگ کا آغاز
385	فتح یرموک
389	فتح شام کے تعلق دوسری روایات
402	پندرہواں باب: شنی عراق میں
402	عراق میں شنی کے لیے مشکلات
405	ایران میں دوبارہ خلفشار
408	سولہواں باب: جمع قرآن
408	غزوہ یمامہ کے اثرات
409	حضرت عمرؓ کا مشورہ
412	دیگر روایات
413	قرآن جمع ہونے کا زمانہ
422	حضرت عثمانؓ کے عہد میں جمع قرآن
424	ابن مسعودؓ کی ناراضگی
428	زید کا طریق کار
430	سورتوں کی ترتیب

433.....	جمع قرآن کی تکمیل
434.....	حضرت ابو بکرؓ کا سب سے بڑا کارنامہ
436.....	ستر ہواں باب: خلافت ابو بکرؓ
436.....	خلافت کا تصور
438.....	حضرت عمرؓ کا لقب
440.....	عرب کا سیاسی نظام
442.....	مہاجرین و انصار اور خلافت
445.....	اسلام میں حکومت کا نظام
450.....	ابو بکرؓ اور عرب کی سیاسی وحدت
451.....	اسلام کی طاقت کا سبب
454.....	ابو بکرؓ کا نظام حکومت
460.....	اٹھارہواں باب: حضرت ابو بکرؓ کی وفات
461.....	موت کے بارے میں روایات
462.....	جانشینی کا مسئلہ
471.....	محاسبہ نفس
473.....	وظیفے کی واپسی
476.....	تجہیز و تکفین کے متعلق وصیت
477.....	وفات
482.....	حرف آخر

حرف اول

عالم اسلام کی تاریخ کا آغاز حقیقتاً اس وقت سے ہوتا ہے جب رسول اللہؐ اپنے اہل وطن کے مسلسل مظالم سے نہایت درجہ پریشان ہو کر مکہ کی سرزمین سے ہجرت کرنے اور مدینہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس عظیم الشان واقعے کو اسلامی تاریخ کا مبدأ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ ترقی اسلام کی بنیاد اسی وقت سے پڑی، اللہ کی تائید و نصرت نہایت شاندار طور پر ظاہر ہوئی اور کفار مکہ کو جو مسلسل تیرہ سال تک اسلام کی سخت مخالفت کرنے اور اپنے مقصد میں ناکام رہنے کے بعد بالآخر رسول اللہؐ کے قتل پر متفق ہو چکے تھے، ایک بار پھر زبردست ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس موقع پر ابوبکرؓ واحد شخص تھے جنہیں رسول اللہؐ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے کے دس برس بعد جب رسول اللہؐ مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لاسکے تو آپؐ نے اپنی جگہ جس شخص کو امامت کے لیے منتخب کیا وہ بھی ابوبکرؓ ہی تھے۔ یہ عظیم الشان شرف ایسا تھا جو حضرت عمرؓ بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔

رسول اللہؐ نے ہجرت جیسے نازک موقع پر ابوبکرؓ کو اپنا ساتھی کیوں چنا اور مرض الموت میں اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، ابوبکرؓ ہی سب سے پہلے آپؐ کی رسالت پر ایمان لائے تھے اور دین حق کی خاطر جان، مال اور عزت کی قربانی دینے میں بھی ان کا قدم دوسرے تمام مسلمانوں سے آگے رہا تھا۔ وہ قبول اسلام سے رسول اللہؐ کی وفات تک کے طویل عرصے میں برابر آپؐ کی اعانت، دین اسلام کی اشاعت اور کفار کے مظالم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے میں ہمہ تن مشغول رہے تھے۔ رسول اللہؐ کے ارشاد کو انہوں نے اپنے ہر کام پر مقدم رکھا تھا۔ رسول اللہؐ کے لیے اپنی جان تک کی

مطلق پروانہ کی تھی اور ہر جنگ میں آپ کے دوش بدوش کفار سے مقابلہ و مقاتلہ کیا تھا۔ نہایت پختہ ایمان کے علاوہ ان کے اخلاق حسنہ بھی کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اسی حسن خلق کی بدولت وہ بے حد ہر دلعزیز تھے اور ہر مسلمان ان سے محبت کرتا تھا۔

ابوبکرؓ کے دینی مرتبے اور ان سے لوگوں کی حد درجہ عقیدت ہی کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہؐ کی وفات کے بعد جب آپ کی جانشینی کا سوال مسلمانوں کے سامنے آیا تو ان کی نظر انتخاب انہیں پر پڑی اور سب نے انہیں کو بالاتفاق پہلا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اپنے مختصر عہد خلافت میں اسلام کی سر بلندی کے لیے انہوں نے جو اوالعزمانہ کوششیں کیں ان کی نظیر عالم اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ابوبکرؓ ہی کے مبارک زمانے سے اس اسلامی سلطنت کا آغاز ہوا۔ جس نے پھلتے پھلتے دنیا کے کثیر حصے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اس عظیم الشان مملکت کے کنارے ایشیا میں ہندوستان اور چین تک، افریقہ میں مصر اور تونس و مراکش تک، اور یورپ میں اندلس و فرانس تک پھیل گئے۔ یہی سلطنت تھی جس نے انسانی تہذیب و تمدن کو پروان چڑھانے کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیئے جن کا اثر رہتی دنیا تک رواں دواں رہے گا۔

اپنی کتاب ”حیات محمد“ اور ”فی منزل الوحی“ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسلامی سلطنت کی تاریخ اور اس کے عروج و زوال کے اسباب کے متعلق بھی کچھ تحقیقی کام کروں۔ اس خیال نے اس وجہ سے اور بھی شدت اختیار کی کہ اسلامی سلطنت کا قیام کلیۃً رسول اللہؐ کا رہن منت ہے۔ رسول اللہؐ نے انسانیت کی بقا اور ہدایت کے لیے جو بے مثال تعلیم پیش کی وہی اس عظیم الشان سلطنت کے قیام کا باعث بنی اور اس تعلیم کے مظاہر ہمیں جا بجا اسلامی حکومت کے مختلف ادوار میں نظر آتے ہیں۔

فی الواقع ماضی، حال اور مستقبل آپس میں کچھ اس حد تک مربوط ہوتے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ کسی قوم کے مستقبل کا اندازہ کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ اس کے ماضی کا بغور مطالعہ کیا جائے۔ قوم میں جو خرابیاں راہ پا جاتی ہیں انہیں دور کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایام گزشتہ پر نظر دوڑائی جائے اور زمانہ حال سے ان کا مقابلہ کر کے خرابیوں کے ازالے کی کوشش کی جائے، بالکل اسی طرح جیسے

کسی مریض کے مرض کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے مرض سے پہلے کے حالات کی اچھی طرح چھان بین کرنی ضروری ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں پر بھی انحطاط کا دور دورہ ہے۔ جو قوم صدیوں تک بڑی شان سے دنیا کے ایک بڑے خطے پر حکومت کر چکی ہے۔ وہ آج قصر مذلت میں پڑی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم بھی چودہ سو برس پہلے کے واقعات و حالات کا بہ نظر غائر جائزہ لے کر وہ اسباب ڈھونڈیں جو ہمارے انحطاط کا باعث بنے اور وہ راستے تلاش کریں جن پر گامزن ہو کر ہمیں آج بھی اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت اور قدرو منزلت حاصل ہو سکتی ہے۔

میں انہیں افکار میں غلطاں و پیچاں تھا کہ میرے بعض کرم فرماؤں نے میری کتاب ”حیات محمد“ پڑھ کر مجھ سے بہ اصرار کہا کہ میں اسی طرز پر رسول اللہؐ کے خلفاء اور اسلام کے جلیل القدر فرزندوں کے سوانح حیات بھی معرض تحریر میں لاؤں۔ میں تو پہلے ہی اس امر کے متعلق سوچ رہا تھا۔ دوستوں کے اصرار نے میرے سمند شوق کے لیے تازیانے کا کام کیا اور میں نے اس کام کا بیڑا اٹھالیا اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام مجھ اکیلے کے بس کا نہیں بلکہ اسے انجام دینے کے لیے اہل علم کی ایک پوری جماعت کی ضرورت ہے۔

حضرت عمرؓ بن خطاب کے متعلق تو تحقیقی کام بہت بڑا چکا ہے اور ان کی بیشتر سوانح عمری موجود نہ تھی اس لیے میں نے سب سے پہلے انہیں کے سوانح حیات کی طرف توجہ کی۔ ابو بکرؓ رسول اللہؐ کے قدیم جاں نثار رفیق اور آپ کے کامل متبع تھے۔ پھر انتہائی پرسوز دل اور بے نظیر صفات کے مالک تھے۔ عالم اسلام میں پھیلے ہوئے لاکھوں مسلمان ان سے منسوب ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ابو بکرؓ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسول اللہؐ کی وفات کے بعد انہیں بالاتفاق مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ جب مرتدین کے ہاتھوں اسلام اپنے نازک ترین دور میں سے گزر رہا تھا، صرف ابو بکرؓ کی شخصیت تھی۔ جس نے مسلمانوں کو تباہی کے غار میں گرنے سے بچایا۔ ایرانی اور رومی سلطنتوں پر فوج کشی کر کے انہوں نے اس عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کے اثرات آج تک اقوام عالم کے دلوں سے محو نہیں ہو سکے۔ اسی لیے میں اپنی اس کتاب میں جو کچھ بیان کروں گا اس کا تعلق محض سیرت و سوانح سے نہ ہوگا بلکہ یہ اصل میں اسلامی سلطنت کی تاریخ ہوگی جس کی ابتداء حضرت ابو بکر صدیقؓ

کے عہد سے ہوئی۔

اس بابرکت عہد کے جو واقعات ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں وہ انتہائی تعجب خیز اور مرعوب کن ہیں اور ان سے حضرت صدیقؓ کی عظیم شخصیت کے عجیب و غریب پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف یہ مرد حق غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے ہر لحظہ بے چین نظر آتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس جیسا درد مند انسان دنیا کے پردے پر کوئی نہ ہوگا۔ دوسری طرف اعلاء کلمۃ الحق اور اسلام کی سر بلندی کی خاطر وہ بڑے سے بڑا خطرہ قبول کر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے اس کے عزم و ارادہ سے باز نہیں رکھ سکتیں۔ عزم و استقلال کا یہ عظیم پیکر تردد اور ہچکچاہٹ کے نام سے بھی نا آشنا تھا۔ اس عظیم الشان انسان کو لوگوں کی مخفی صلاحیتوں کو بھانپ کر انہیں اجاگر کرنے اور ان سے ان کی استعداد کے مطابق کام لینے کا بہترین ملکہ حاصل تھا۔

رسول اللہؐ کے عہد میں ابوبکرؓ نے ایک عاشق صادق کی طرح زندگی بسر کی۔ جب قریشی رسول اللہؐ کو ایذاؤں اور مظالم کا نشانہ بنا رہے تھے تو کفار کے مقابلے میں ابوبکرؓ ہی سینہ سپر ہوتے تھے۔ رسول اللہؐ کی دعوت پر جس شخص نے سب سے پہلے لبیک کہا وہ ابوبکرؓ ہی تھے۔ ابوبکرؓ ہی نے ہجرت کے نازک ترین موقع پر غار ثور سے یشرب تک پوری جاں نثاری سے رسول اللہؐ کی رفاقت کی۔ مدینہ میں رسول اللہؐ کو یہود کی مکاریوں اور منافقین کی ریشہ دوانیوں سے واسطہ پڑا اور قریش مکہ اور یہود مدینہ کی پے درپے کوششوں کے نتیجے میں سارا عرب آپ کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوا تو ابوبکرؓ ہی نے آپ کے خاص الخاص مشیر کار کے فرائض انجام دیئے۔

اسلام کی سر بلندی کے لیے جو موقف ابوبکرؓ نے اختیار کیا اور رسول اللہؐ کی رفاقت کے ذیل میں جو بلند پایہ خدمات انہوں نے انجام دیں وہ نہ صرف مجموعی طور پر آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک ابوبکرؓ کے نام کو ابد الابد تک زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابوبکرؓ کی رفعت شان کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن ہی نہیں کیونکہ اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر جو قربانیاں انہوں نے پیش کیں ان کا تعلق اصل میں دل سے ہے اور یہ علم خدا ہی کو ہو سکتا ہے کہ ابوبکرؓ کے دل میں اسلام اور رسول اللہؐ کی محبت کے جو

جذبات موجزن تھے وہ ظاہر کے مقابلے میں کتنے شدید تھے اور ان کا اندرونی اخلاص ظاہری اخلاص سے کتنا زیادہ تھا۔

رسول اللہؐ کی وفات کے بعد، ابوبکرؓ کے عہد خلافت میں جو واقعات پیش آئے ان سے ان کا حسن بصیرت اور دور رس مزید آشکارا ہو گئی۔ مرتدین عرب سے فراغت پانے کے بعد جب آپؐ نے ایران اور روم پر توجہ مبذول کی تو سب سے بڑا ہتھیار جو انہوں نے ان دونوں سلطنتوں کے خلاف استعمال کیا وہ مساوات کا تھا جسے اسلام نے اصل الاصول کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس ہتھیار کا سامنا ایرانی سلطنت کر سکتی تھی نہ رومی مملکت۔ ایران اور روم کے باشندے شخصی اقتدار کی چکی میں پس رہے تھے، رعایا کے درمیان مختلف طبقات قائم تھے، نسلی امتیاز کی لعنت بری طرح مسلط تھی، حکمران طبقہ ملک میں بسنے والے دوسرے طبقوں کو اپنے سے کم تر بلکہ اچھوت سمجھتا تھا، اور انہیں ہر لحاظ سے دبانا فرض خیال کرتا تھا۔ عین اس وقت اسلام نے عدل و انصاف اور مساوات کا علم بلند کیا۔ ابوبکرؓ نے ایران اور روم جانے والی افواج کے سپہ سالاروں کو خاص طور پر ہدایات فرمائیں کہ وہ عدل و انصاف کا دامن کسی طرح ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور مفتوحہ ممالک کے تمام لوگوں سے بلا امتیاز مذہب و ملت، مساوی سلوک کریں۔ اس طرح جو ہاشیے ایک عرصے سے ظلم و ستم اور عدم مساوات کا شکار چلے آ رہے تھے وہ اسلام کے منصفانہ اصولوں کی جھلکیاں دیکھ کر اس کے گرویدہ ہو گئے اور ان سلطنتوں کو اپنی زبردست عسکری قوت اور عظیم الشان مسلح افواج کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ظاہر ہے کہ ظلم و تشدد اور نسلی امتیاز رو کر کھنے والی سلطنت، خواہ اس کی ظاہری طاقت کتنی ہی ٹھوس اور اس کی فوج کتنی ہی منظم ہو، ایسی قوم کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹھہر سکتی جو عدل و انصاف اور مساوات کی نہ صرف علمبردار ہو بلکہ جس کی زندگی انہیں سانچوں میں ڈھلی ہو۔ یہ طرز زندگی رسول اللہؐ کے بعد کامل طور پر ابوبکرؓ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔

عہد رسالت اور خلافت ثانیہ کے اتصال کے باعث حضرت ابوبکر صدیقؓ کا دور ایک خاص انفرادیت کا حامل ہے۔ رسول اللہؐ کا عہد ارشاد و اصلاح کا عہد تھا۔ آپؐ کے عہد میں شریعت کا نزول ہو رہا تھا، اللہ کی طرف سے بندوں کو ہدایت کے لیے اپنے رسولؐ کو

مسلل احکام دیئے جا رہے تھے۔ اس کے بالمقابل حضرت عمرؓ کا عہد تنظیمی تھا۔ نوزائیدہ اسلامی سلطنت کے انتظام و انصرام کے لیے اصول و قواعد مرتب کیے جا رہے تھے اور مختلف محکموں کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا۔ ابو بکرؓ کا دور جہاں ان دونوں دوروں کی درمیانی کڑی تھا وہاں ان غیر معمولی حالات کی وجہ سے جو آپ کے عہد میں پیش آئے ان دونوں سے بڑی حد تک مختلف بھی تھا۔

اپنے مختصر دور میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کو جن مشکلات..... اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان کے باعث اسلام کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا۔ رسول اللہؐ کی وفات کے معاً بعد اس وحدت عربیہ میں انتشار کے آثار نظر آنے لگے جسے آپ نے تیس برس کی محنت شاقہ کے بعد قائم کیا تھا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ انتشار کے آثار رسول اللہؐ کی زندگی کے اواخر ہی میں نظر آنے لگے تھے۔ مسلمان بن حبیب نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنے قاصدوں کے ہاتھ آپ کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ مجھے بھی اللہ نے نبوت کے مقام پر سرفراز کیا ہے اس لیے عرب کی نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی۔

مسلمان کی دیکھا دیکھی اسود غنی بھی نبی بن بیٹھا اور شعبدے دکھا دکھا کر اہل یمن کو اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ طاقت حاصل ہونے پر اس نے جنوب کا رخ کیا اور رسول اللہؐ کے عمال کو وہاں سے نکال کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کے بعد وہ نجران کی طرف بڑھا اور وہاں بھی تسلط قائم کر لیا۔ یہ حالات دیکھ کر رسول اللہؐ کو مجبوراً اپنے عمال کو ان باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کرنا پڑا۔ اصل بات یہ تھی کہ عرب گو تو حید کے قائل ہو چکے تھے اور بت پرستی بھی انہوں نے ترک کر دی تھی لیکن ان میں سے بیشتر کو اس حقیقت کا علم نہ تھا کہ دینی وحدت اور سیاسی اتحاد میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور اسلام قبول کرنے کا مطلب مدینہ کی حکومت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اہل عرب آزاد منش انسان تھے اور کسی منظم حکومت کے آگے سر جھکانا اور دل و جان سے اس کی اطاعت کرنا ان کی سرشت کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جوں ہی رسول اللہؐ کی وفات کی خبر پھیلی، عرب کے اکثر قبائل نے اسلام سے ارتداد اور مدینہ کی حکومت سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔

بغاوت کا فتنہ جنگ کی آگ کی طرح عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گیا۔ جب یہ خبریں مدینہ پہنچیں تو لوگوں میں سخت گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہوئی..... ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس نازک موقع پر بغاوت ختم کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ بعض لوگوں کی..... جن میں حضرت عمرؓ بن خطاب بھی شامل تھے..... یہ رائے تھی کہ اس موقع پر مانعین زکوٰۃ کو نہ چھیڑا جائے اور جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار ہی رہیں انہیں ان کے حال پر قائم رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ اگر مانعین زکوٰۃ کو بھی مرتدین کے زمرے میں شامل کر لیا گیا تو جنگ کی آگ وسیع پیمانے پر پھیل جائے گی۔ جس کا انجام خدا جانے کیا ہو۔ لیکن ابو بکرؓ نے تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مرتدین کی طرح مانعین زکوٰۃ سے بھی جنگ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور کوئی طاقت اور کوئی دباؤ انہیں ایسا کرنے سے باز نہ رکھ سکا۔

جنگ ہائے ارتداد کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ ان جنگوں میں فریقین کی تعداد چند سو سے متجاوز نہ ہوتی تھی۔ اس کے برعکس بعض لڑائیوں میں دس دس ہزار لوگوں نے حصہ لیا اور فریقین کے ہزاروں آدمی ان جنگوں میں کام آئے۔ مزید برآں تاریخ اسلام میں انہیں فیصلہ کن اہمیت حاصل ہے۔ اگر ابو بکرؓ اہل مدینہ کی اکثریت کی رائے قبول کر کے ان لوگوں سے جنگ نہ کرتے تو فتنہ و فساد میں کمی ہونے کے بجائے اور زیادہ شدت پیدا ہو جاتی اور اسلامی سلطنت کا قیام کبھی عمل میں نہ لایا جاسکتا۔ اگر خدا نخواستہ ان جنگوں میں ابو بکرؓ کی فوجوں کو کامیابی حاصل نہ ہوتی تو معاملہ انتہائی خوفناک شکل اختیار کر جاتا اور اس کا نتیجہ اسلام اور مسلمانوں دونوں کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا۔

یہ تمام حالات دیکھ کر بلاشبہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ابو بکرؓ نے مرتدین سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر کے اور ان پر کامل تسلط پا کر تاریخ عالم کے دھارے کا رخ موڑ دیا اور اس طرح گویا نئے سرے سے انسانی تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی۔

اگر جنگ ہائے ارتداد میں ابو بکرؓ کو کامیابی نصیب نہ ہوتی تو ایرانی اور رومی سلطنتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا قافز المرام ہونا تو کجا، عراق اور شام کی طرف قدمی کرنا بھی

ناممکن تھا۔ اس وقت نہ ان عظیم الشان سلطنتوں کے کھنڈروں پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جاسکتی اور نہ ایرانی و رومی تہذیب و تمدن کے بجائے، اسلامی تہذیب و تمدن کے لیے راستہ ہموار کیا جاسکتا۔

اگر سرمدین کی جنگیں وقوع میں نہ آتیں اور ان میں کثرت سے حفاظ قرآن کا اتلاف جان نہ ہوتا تو غالباً حضرت عمرؓ ابو بکرؓ کو جمع قرآن کا مشورہ نہ دیتے اور اس طرح قرآن کریم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک جگہ محفوظ کرنے کا جلیل القدر کارنامہ عمل میں نہ آتا۔ اگر جنگہائے ارتداد خدا نخواستہ مسلمانوں کی شکست پر منتج ہوتیں تو ابو بکرؓ کے لیے مدینہ میں بھی نظام حکومت قائم کرنا مشکل ہو جاتا اور اس نظام کی بنیاد پر حضرت عمرؓ ایک رفیع المنزلات عمارت کبھی تعمیر نہ کر سکتے۔

یہ عظیم الشان واقعات ستائیس ماہ کی قلیل ترین مدت میں انجام پا گئے۔ اس قلیل مدت کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے ابو بکرؓ کے عہد کو نظر انداز کر کے اپنی تمام تر توجہ حضرت عمرؓ کے عہد کی جانب منعطف کر دی۔ ان کا خیال ہے کہ گنتی کے چند مہینے کسی طرح بھی دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والے عظیم امور کی انجام دہی کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ درست نہیں وہ انقلاب جنہوں نے انسانیت کو درجہ بہ درجہ اوج کمال تک پہنچایا، بالعموم قلیل وقفوں ہی میں برپا ہوتے رہے اور دنیا کی تاریخ اس پر شاہد ہے۔

ابو بکرؓ نے اپنے عہد میں پیدا ہونے والی بے انتہا مشکلات پر کس طرح قابو پایا اور ان مشکلات کے باوجود ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد کس طرح رکھ دی؟ یہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور ہمارے لیے اس کا جواب دینا ضروری ہے۔

لا ریب ابو بکرؓ کی عدیم النظیر کامیابیوں میں ان کے ذاتی اوصاف کو بھی بڑی حد تک دخل تھا۔ لیکن سب سے بڑا دخل رسول اللہؐ کی اس پاک صحبت کا ہے جو تو اتر بیس سال تک انہیں حاصل رہی۔ اسی وجہ سے مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ حضرت صدیقؓ کی عظمت کلیۃً رسول اللہؐ کی صحبت کی رہین منت ہے۔ آپ ہی کے فیض کا نتیجہ تھا کہ ان کی رگ رگ میں اسلام کی محبت بہرایت کر گئی اور انہوں نے القاء کے ذریعے سے اس حقیقی روح کو پالیا جو رسول اللہؐ کی دعوت میں پنہاں تھی۔ اسی القاء کی روشنی میں انہیں اس حقیقت کا ادراک بھی ہو

گیا کہ ایمان ایک ایسی قوت ہے جس پر اس وقت تک کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی جب تک مومن تمام نفسانی خواہشات سے کلیۃً منزہ ہو کر محض تبلیغ حق و صداقت کی خاطر اپنی زندگی وقف کیے رکھتا ہے۔

بلاشبہ اس حقیقت کا ادراک مختلف زمانوں میں اور بھی بہت سے لوگوں کو ہوا ہے لیکن محض عقل و دانش اور غور و فکر کے نتیجے میں۔ اس کے بالمقابل ابو بکرؓ کے مصفا اور پاک دل نے بغیر کسی خارجی دباؤ کے خود بخود اس حقیقت کی طرف ان کی رہنمائی کی اور رسول اللہؐ کے مطہر نمونے اور عمل نے اس ادراک کو اس حد تک جلا دی کہ حضرت صدیقؓ کے دل میں کسی شک و شبہ کا راہ پانا ممکن ہی نہ رہا۔

یہی ایمان صادق تھا جس کی بدولت ابو بکرؓ میں اس قدر بے نظیر جرات اور عدیم المثال عزیمت پیدا ہو گئی کہ جب مرتدین سے جنگ کرنے کا سوال پیش ہوا اور تمام صحابہ نے انہیں موقع کی نزاکت کے لحاظ سے نرمی برتنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے نہایت سختی سے اسے رد کر دیا اور فرمایا کہ میں ضرور مرتدین سے جنگ کروں گا خواہ مجھے اس کے لیے تنہا ہی کیوں نہ ٹکنا پڑے۔

اولوالعزمی کا یہ سبق رسول اللہؐ ہی نے ابو بکرؓ کو پڑھایا تھا اور اپنے پاک نمونے کے ذریعے سے ان کے دل میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ حق کے مقابلے میں جھکنے اور کمزوری دکھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا ابو بکرؓ وہ وقت بھول سکتے تھے جب شدید مخالفت کے باوجود رسول اللہؐ کی تہا مکہ کی گلیوں میں خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے؟ مال و دولت اور عزت و وجاہت کا کوئی لالچ، ظلم و ستم، بائیکاٹ اور قتل کی کوئی دھمکی آپ کو صراطِ مستقیم سے بال برابر بھی ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکی اور آپؐ معجزانہ اولوالعزمی و استقامت سے برابر یہ اعلان فرماتے رہے:

”اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں بھی لاکھڑا کریں تو بھی میں تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے سے باز نہ آؤں گا خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔“

کیا ابو بکرؓ کی نظروں سے وہ واقعہ اوجھل ہو سکتا تھا کہ احد کی جنگ میں صحابہ کی

ایک کثیر تعداد کی شہادت کے باوجود جب رسول اللہؐ نے یہ سنا کہ کفار قریش پلٹ کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ تمام خطرات کو پس پشت ڈالتے اور تمام عواقب کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف جنگ احد میں شریک ہونے والے مسلمانوں کو لے کر (جن میں زخمیوں کی بھی خاصی تعداد شامل تھی) کفار کے تعاقب میں روانہ ہو گئے اور حمراء الاسد پہنچ کر قیام فرمایا۔ مسلمانوں کا یہ استقلال دیکھ کر کفار کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے مقابلے میں آئے بغیر مکہ کوچ کر جانے ہی میں اپنی خیر سمجھی۔ اس طرح مسلمانوں کے دلوں سے وہ زخم بھی بڑی حد تک مندمل ہو گئے جو جنگ احد کی وجہ سے انہیں پہنچے تھے۔

پھر ابو بکرؓ اس واقعے کو کس طرح فراموش کر سکتے تھے جب غزوہ حنین کے موقع پر بعض نو مسلموں کی بے تدبیری سے اکثر مسلمانوں کی سواریاں بھاگ کھڑی ہوئیں۔ لیکن رسول اللہؐ چند صحابہ کے ہمراہ انتہائی پامردی سے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور ان کے تیروں کی بے پناہ بوچھاڑ کی مطلق پروا نہ کی۔ بالآخر جب حضرت عباسؓ نے بلند آواز سے پکارنا شروع کیا۔ ”اے گروہ انصار! جنہوں نے رسول اللہؐ کو پناہ دی اور ہر موقع پر ان کی مدد کی اور اے گروہ مہاجرین! جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر موت کی بیعت کی، خدا کا رسول زندہ ہے اور تمہیں بلاتا ہے“ تو مسلمان پلٹے اور دوبارہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے صف آرا ہو گئے۔

ابو بکرؓ کے سامنے رسول اللہؐ کے یہی نمونے تھے جو انہوں نے آپ کے سچے اور کامل متبع کی حیثیت سے اختیار کیے۔ اس اولوالعزمی ہی کے باعث مٹھی بھر مسلمانوں کو غرب کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاتعداد مرتد قبائل کے مقابلے میں زبردست کامیابی نصیب ہوئی اور ان کے دلوں میں یہ بات میخ فولاد کی طرح گڑ گئی کہ ان کی سرشت میں ناکامی کا خمیر ہی نہیں۔ حق و صداقت کے رستے میں شہادت پانے کا جذبہ اس حد تک بڑھ گیا کہ ان کی نظروں میں شہادت ہی کامیابی کے حصول کا ذریعہ قرار پائی۔

آپ کو اس کتاب میں اس قسم کے بہت سے واقعات ملیں گے جن کی نظیر تاریخ میں شاذ و نادر ہی پائی جاتی ہے۔ رسول اللہؐ کے عہد میں مسلمان اپنی کامیابی کی طرف سے پورے طور پر مطمئن تھے کیونکہ اللہ نے اپنے رسولؐ سے فتح و نصرت کا وعدہ فرما رکھا تھا اور ہر

موقع پر ملائکہ کے ذریعے تائید ربانی کا نزول ہوتا تھا، لیکن ابو بکرؓ کے عہد میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وحی کا نزول رسول اللہؐ کے اسوہ حسنہ کو کاملاً اپنانے ہی سے مسلمان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے تھے۔

ابو بکرؓ نے کامیابی کا یہ گر معلوم کر لیا تھا اور یہی گراختیار کرنے سے انہوں نے اپنے مختصر عہد خلافت میں وہ عظیم الشان کارنامے انجام دیئے جن پر ایک دنیا انگشت بدنداں ہے۔

ایمان کا جو جذبہ آپ کے دل میں موجزن تھا اور دین کی خدمت کی جو روح آپ کے اندر کام کر رہی تھی اس کی بناء پر یہ ممکن ہوا کہ نہایت قلیل عرصے میں ایسے جلیل القدر امور انجام پائے جو عام حالات میں سالہا سال کی ان تھک کوششوں کے باوجود پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکتے۔

رسول اللہؐ کے اسوہ حسنہ کو پورے طور پر اپنانے سے ابو بکرؓ اس حقیقت کی تہہ تک بھی پہنچ گئے تھے کہ قومی ترقی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک مشکلات اور مصائب کو صبر و استقلال سے جھیلنے اور اپنے اندر ان پر قابو پانے کا ملکہ پیدا نہ کیا جائے۔ درحقیقت قوموں کی حیات و ممات کا راسی گرو اختیار کرنے یا ترک کر دینے میں مستور ہے۔ ہر وہ قوم جو عزت کی خواہاں اور اقوام عالم میں اپنا ایک علیحدہ و ممتاز مقام پیدا کرنے کی خواہش مند ہو، جو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی ٹھوس لائحہ عمل اپنے پاس رکھتی ہو اور اسے یقین ہو کہ صرف اسی کے پیش کردہ پروگرام پر عمل کرنے میں انسانیت کی نجات اور دنیا کی فلاح و بہبود مضمر ہے اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے۔ اس کے راستے میں خواہ مشکلات کے پہاڑ ہی کیوں نہ حائل ہو جائیں لیکن اسے عزم و استقلال سے ہر دم اپنا قدم آگے ہی بڑھانا چاہیے۔ مشکلات خواہ کتنی ہی ہیبت ناک اور مصائب کتنے ہی حوصلہ شکن کیوں نہ ہوں لیکن باہمت قوم کو انہیں پرکاہ کے برابر بھی وقعت نہ دینی چاہیے اور راستے کی تمام دشواریوں اور ادائے حق کی راہ میں تمام رکاوٹوں پر نہایت جرات مندانہ اولوالعزمانہ قابو پا کر منزل مقصود کی جانب قدم بڑھاتے رہنا چاہیے۔

ان اسباب کی محافظت اس وقت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے جب ان قوموں

کے لائحہ عمل اور دعوت کی بنیاد مساوات کے قیام اور ظلم و ستم کی منہ کشی پر استوار ہو۔ اکثر سلطنتوں کا قیام محض اس لیے عمل میں آسکا کہ انہوں نے مساوات و جمہوریت کو اپنی اساس بنایا اور اسی کے سہارے استحکام حاصل کیا۔ اس کے برعکس بیشتر سلطنتیں مدت دراز تک اپنی شان و شوکت دکھانے کے بعد محض اس وجہ سے قلیل ترین عرصے میں نابود ہو گئیں کہ انہوں نے مساوات کے اہم ترین رکن کو ترک کر دیا تھا۔

مساوات اسلام کا بنیادی ستون ہے جس کے بغیر اس کی عمارت پایہ تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اس بنا پر اسلام اصولاً ایک جمہوریت پسند مذہب ہے۔ اس حقیقت کو آج ہم نے محض اپنی عقل کے ذریعے سے معلوم کیا ہے اور ہم سے پہلے اس حقیقت تک جن لوگوں کی رسائی ہو سکی ہے ان کی رہنمائی بھی ان کی عقل کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ لیکن اس کے ادراک کے باوجود نہ ہم اور نہ ہمارے پیش رو ہی پوری طرح اسلامی سلطنت کی حفاظت کر سکے۔ لیکن ابو بکرؓ کو اس حقیقت کا علم غور و فکر اور تدبیر کے ذریعے سے نہیں بلکہ القاء ربانی کے ذریعے سے ہوا۔ وہ حق الیقین سے اس پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ اپنے ساتھیوں کو اس نصب العین کی تکمیل کے لیے لگا بھی دیا۔

ابو بکرؓ اور مٹھی بھر مسلمانوں کی شبانہ روز جدوجہد کے نتیجے میں جو سلطنت عالم وجود میں آئی اس کی بنیاد کلیۃً مساوات پر تھی۔ یہی سبب تھا کہ وہ دوسری سلطنتوں کے برعکس چند روزہ بہار دکھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود نہ ہو گئی بلکہ صدیوں تک اپنی جلوہ افروزی سے دنیا کو منور کرتی رہی۔

ابو بکرؓ نے القاء کی روشنی میں معلوم کر لیا تھا کہ اسلام مساوات کا علم بردار ہے اور ذات پات اور نسل کی بنا پر بنی نوع انسان کے درمیان کسی تفریق کا حامی نہیں۔ اسی وجہ سے اس کی دعوت کسی ایک قوم کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام بنی نوع کے لیے عام ہے۔ رسول اللہؐ کے زمانہ مبارک میں عربوں کے علاوہ غلاموں اور عجمیوں کی ایک بڑی تعداد بھی اسلام میں داخل ہوئی لیکن کسی غلام اور عجمی سے نفرت یا حقارت کا برتاؤ کرنا تو کجا اسلام نے ان کی ذلت و نکبت، عز و شرف میں تبدیل کر دی اور ان کا رتبہ اس قدر بلند کر دیا کہ آج بھی ان کا ذکر آنے پر ہر مسلمان فرط عقیدت سے سر جھکا دیتا ہے۔ ان لوگوں سے رسول اللہؐ کے

سلوک کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ سلمان فارسیؓ آپ کے مقربین خاص میں سے تھے۔ زید بن حارثہؓ کو آپ نے آزاد کر کے اپنا متبنی بنالیا تھا۔ غزوہ موتہ کے وقت لشکر کا قائد بھی انہیں کو بنایا۔ اس سے پہلے بھی متعدد اہم ذمہ داری کے کام ان کے سپرد کیے۔ زید کے بیٹے اسامہ کو اپنی وفات سے قبل شام پر حملہ کرنے والی فوج کا سردار مقرر کیا اور تمام بڑے بڑے مہاجرین و انصار کو جن میں ابوبکرؓ اور عمرؓ بھی شامل تھے، ان کی ماتحتی میں دیا باز ان فارسی کو یمن کا حکم مقرر فرمایا۔ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہؐ کے نزدیک محض عربی یا معزز قبیلے کا فرد ہونا کسی شخص کی فضیلت کے لیے کافی نہ تھا۔ آپ کے پیش نظر فضیلت کی کوئی تقویٰ اور صرف تقویٰ تھی۔ رسول اللہؐ کے خاص مشیروں اور مقرب صحابہ پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے محبوب صحابی بننے کا شرف صرف انہیں لوگوں کو حاصل ہوا جنہوں نے ایمان و اخلاص میں قابل رشک ترقی کی اور جو دینی و ملی مفاد کی خاطر اپنی جان، مال، عزت اور وقت کو قربان کرنے کے لیے ہر لحظہ مستعد رہتے تھے۔ رسول اللہؐ نے عربوں کے دلوں سے ان کی نسبی شرافت، عزت اور فضیلت کا غرور بالکل نکال دیا تھا اور عربی، عجمی آزاد اور غلام کا فرق مٹا کر انہیں ایک سطح پر لا کھڑا کیا تھا۔ ابوبکرؓ نے بھی اپنے آقا کی اس سنت پر پوری طرح عمل کیا اور وہ لوگوں کے درمیان صحیح اسلامی مساوات قائم کرنے میں آخر وقت تک کوشاں رہے۔

اسی مساوات کا اثر تھا کہ مسلمان ایک ایسی متحدہ قوت بن کر اٹھے جس کا مقابلہ کرنے سے ایرانی اور رومی افواج قاہرہ عاجز آ گئیں اور انہیں ان مٹھی بھر لیکن آہنی طاقت والے عربوں کے سامنے سے بھاگتے ہی بن پڑی۔

ابوبکرؓ کو اس حقیقت کا بھی پوری طرح احساس تھا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اس کی دعوت کا دائرہ صرف جزیرہ عرب تک محدود نہیں بلکہ اس کے مخاطب دنیا کے آخری کناروں تک بسنے والے انسان ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہؐ نے بیرون عرب کے بادشاہوں اور فرماں رواؤں کو کثرت سے تبلیغی خطوط اور فرامین ارسال فرمائے تھے۔

یہ امر تسلیم کرنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس نے جس عظیم الشان نعمت سے حصہ لیا ہے اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ دوسروں کو بھی اس نعمت

سے حصہ عطا کرے اور دین خدا کی اشاعت میں جان تک کی بازی لگانے سے دریغ نہ کرے۔ رسول اللہؐ نے خدا کا پیغام بلا لحاظ قوم و ملت سب لوگوں تک پہنچایا تھا۔ آپ کی تقلید میں آپ کے خلفاء کا بھی یہی فرض تھا کہ وہ دعوت اسلام کو زمین کے کناروں تک پہنچاتے اور اس راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرتے۔

ابوبکرؓ نے یہی کیا اور اسلام کو اقصائے عالم تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ سعی فروگزاشت نہ کیا۔ اس راہ میں انہیں شدید مشکلات اور مہیب مصائب سے دوچار ہونا پڑا لیکن انہوں نے ابتدائے خلافت ہی سے جو عزم کر لیا تھا اس میں آخری لمحے تک مطلق کمی نہ آنے دی اور اپنی جدوجہد کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر ہی چھوڑا۔ ابوبکرؓ کی مردانہ وار کوششوں اور اولوالعزمی کا نتیجہ تھا کہ اسلامی سلطنت تھوڑے ہی عرصے میں معلومہ دنیا کے اطراف تک پہنچ گئی اور صدیوں تک اسی سلطنت نے دنیا میں تہذیب و تمدن کا علم بلند اور علم و عمل کا چراغ روشن کیے رکھا۔

لمبے عرصے تک دنیا پر شان و شوکت سے حکمرانی کرنے کے بعد اسلامی سلطنت پر بھی دوسری حکومتوں اور سلطنتوں کی طرح زوال آنا شروع ہوا اور بالآخر وہ انتہائی نکبت اور پستی کی حالت میں پہنچ گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس نکبت اور پستی کا سبب اسلام کے وہ بنیادی اصول تھے جن کا وہ علم بردار بن کر کھڑا ہوا تھا، یا ان بنیادی اصولوں کو پس پشت ڈال دینے کے باعث مسلمانوں کو اضمحلال اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے یہ کہنے میں کوئی تاثر نہیں کہ ہماری پستی اور کمزوری کا اصلی سبب یہ ہے کہ ہم نے ان بنیادی اصولوں کو ترک کر دیا ہے جو اسلامی سلطنت کے قیام کا باعث بنے تھے۔ جو بھی شخص اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت سے شروع ہوا جب مسلمانوں نے اتحاد جیسی نعمت کو خیر باد کہا۔

ابتداء جزیرہ عرب میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان معرکے سر ہونے لگے۔ بعد ازاں عربوں اور عجمیوں کے درمیان جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا جس نے مسلمانوں کی طاقت و قوت عز و شرف، شان و شوکت اور رعب و داب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔

اس عبرت ناک داستان کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے نہ تو وقت ہے اور نہ گنجائش اس لیے میں اس کی طرف اشارہ کر کے اپنے بیان کو صرف عہد صدیقؓ تک محدود کروں گا جو اگرچہ بے حد مختصر تھا مگر اثر پذیری کے لحاظ سے بڑی بڑی سلطنتوں پر حاوی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ صدیوں کی جدوجہد کے بعد قائم ہونے والی سلطنتیں اڑھائی سال کی اس مختصر ترین حکومت کے مقابلے میں ہیچ تھیں۔ ابو بکرؓ کے عہد کا حال بیان کرتے ہوئے مجھے قلبی مسرت محسوس ہو رہی ہے اور میں سچے جوش سے یہ تذکرہ لکھ رہا ہوں۔ اگر میں اس کتاب کے ذریعے سے قارئین کے سامنے ابو بکرؓ کے عہد کی واضح تصویر اور رسول اللہؐ کے اس عاشق صادق کے اپنے حسن کمال کا پورا نقشہ کھینچنے میں کامیاب ہو سکوں تو یہ میری انتہائی خوش نصیبی ہوگی۔

جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں ابو بکرؓ کا عہد اپنی گونا گوں خصوصیات کے باعث انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ مختلف کتابوں کے مطالعے سے انسان ان کے عہد زریں کی بعض جھلکیاں دیکھ کر ان کی رفیع المنزلت شخصیت کا کچھ اندازہ تو کر سکتا ہے لیکن اس کے پہلوؤں کا جائزہ لینا آسان نہیں۔ یہ کام ایک عظیم جدوجہد اور صبر آزما تحقیق و تدقیق کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو بکرؓ کے متعلق تحقیق کا حق ابھی تک ادا نہیں ہو سکا۔ اس بے نظیر انسان کی زندگی کے سینکڑوں گوشے ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکے اور یہ نورانی شخصیت اپنے پورے جلوے سے دنیا کے سامنے اب تک بے نقاب نہیں ہو سکی۔ اشد ضرورت ہے اس امر کی کہ ان کے سوانح لکھنے کے لیے از سر نو ایک ان تھک جدوجہد کی جائے اور ان کی سیرت و سوانح کے مخفی گوشے اجاگر کرنے کے علاوہ معاصرین سے ان کا کامل موازنہ کیا جائے، یہ بھی بتایا جائے کہ ان کی ہم عصر قومیں تہذیب و تمدن کے کس دور میں سے گزر رہی تھیں، ان کے مقابلے میں اہل عرب کی کیا حالت تھی، اور ابو بکرؓ نے انہیں کس طرح ان اقوام کا ہم پایہ بلکہ ہر لحاظ سے ان سے بدرجہا بہتر بنا دیا۔

مجھے یقین ہے کہ باہمت مورخین مستقبل قریب میں اس اہم کام پر توجہ مبذول کریں گے اور مسلسل جدوجہد اور کاوش کے بعد ابو بکرؓ کی زندگی کے تمام گوشے اور اس عہد کی تمام تفصیل واضح طور پر بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

ابوبکرؓ کے عہد سے متعلق تو بالخصوص انتہائی چھان بین اور تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہے۔ قدیم عربی ماخذ جن سے ان کے عہد کا کچھ حال معلوم ہو سکتا ہے روایات کے لحاظ سے آپس میں اتنے مختلف ہیں کہ بعض اوقات کسی واقعے کا صحیح صحیح حال معلوم کرنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ بعض روایات تو محض لغویت کی پوٹ اور مجموعہ خرافات ہیں۔ بعض روایات کو پڑھ کر انسان پیکر حیرت بن جاتا ہے، اس کی عقل چکرانے لگتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسے واقعات کا معرض وجود میں آنا ممکن ہے؟

پھر بھی روایات میں تناقض اور اضطراب کے لیے متقدمین کو مجبور ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ جس زمانے میں ابوبکرؓ نے عنان حکومت ہاتھ میں لی تھی وہ کلیۃً جدال و قتال کا دور تھا۔ ہر مسلمان شوق جہاد میں دیوانہ وار میدان جنگ کی جانب دوڑا چلا جا رہا تھا۔ کوئی بھی دن امن اور چین سے نہ گزرتا تھا۔ کسی شخص کو پچھلے واقعات پر نظر دوڑانے اور ان پر غور و فکر کرنے کی فرصت نہ تھی بلکہ ہر ایک کی نظر مستقبل ہی پر جمی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے کسی شخص نے اس زمانے میں پیش آنے والے واقعات کو باقاعدہ مرتب کرنے کی کوشش نہ کی اور نہ کسی کو ایسا موقع میسر آ سکا۔ روایات کی تدوین بعد کے زمانوں میں ہوئی لیکن وہ بھی کسی باقاعدگی کے تحت نہیں بلکہ لوگوں نے جو روایات ایک دوسرے سے سن کر سینوں میں محفوظ کر رکھی تھیں انہیں بغیر کسی چھان بین اور نقد و جرح کے ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ ان روایات کے جمع کرنے میں وہ احتیاط بھی نہ برتی گئی جو احادیث رسولؐ بیان کرنے میں برتی جاتی تھی۔ اور ایسا ہونا ممکن بھی کس طرح تھا جب اس زمانے میں مسلمان فتوحات میں مصروف اور ایک ایسی عظیم سلطنت کی تشکیل و تنظیم میں مشغول تھے جس کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا۔

چونکہ اس عہد کی روایات جمع کرنے میں کسی اصول اور قاعدے کو پیش نظر نہیں رکھا گیا اس لیے کتب تاریخ میں ہر قسم کی رطب و یابس روایات جمع ہو گئی ہیں۔ دور حاضر کے مورخ کے لیے ضروری ہے کہ کسی واقعے کے متعلق اصل حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے وہ کسی ایک روایت پر انحصار نہ کرے بلکہ امکانی حد تک اس واقعے کے متعلق بیان کردہ تمام روایات کی چھان بین کرے، ایک روایت کا دوسری روایت سے موازنہ کرے اور اس طرح اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

قدیم مورخین نے روایات کی جرح و تعدیل میں خاصی محنت کی ہے۔ پھر بھی ان کی کوششوں کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنے کے باوجود ہمیں اس امر کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ابو بکرؓ اور ان کے عہد کی ایسی روشن تصویر ہمارے سامنے پیش نہیں کی جس کے حسن و جمال سے ہماری آنکھیں فرحت محسوس کر سکیں۔

ہم نے آخر میں ان کتابوں کی فہرست درج کی ہے جن سے اس کتاب کی تالیف میں مدد لی گئی ہے۔ قارئین یہ کتابیں ملاحظہ فرمائیں، انہیں ہمارے دعوے کی صداقت کا علم ہو جائے گا بعض مورخین نے اپنی کتابوں میں ابو بکرؓ کے جلیل القدر کارناموں اور اس عہد میں رونما ہونے والے عظیم الشان واقعات کو بیان ہی نہیں کیا۔ اگر کہیں کیا بھی ہے تو نہایت معمولی طریقے سے۔ چنانچہ طبری، ابن اثیر اور بلاذری نے جمع قرآن کے متعلق کچھ نہیں لکھا حالانکہ جمع قرآن کا کارنامہ اتنا مہتمم بالشان ہے کہ اگر ابو بکرؓ اس کے سوا اور کچھ بھی نہ کرتے تو بھی یہ ان کے نام کو بقائے دوام کا خلعت پہنانے کے لیے کافی تھا۔ جنگبائے ارتداد، فتح عراق اور فتح شام کے متعلق ان مورخین نے جو روایات بیان کی ہیں ان میں اس قدر اختلاف اور تضاد ہے کہ خدا کی پناہ۔ یہی نہیں کہ ایک کتاب میں کوئی روایت ہے اور دوسری میں کوئی بلکہ ایک ہی کتاب میں ایک واقعے کے متعلق مختلف اور باہم متضاد روایات درج ہیں۔ جب انسان یہ روایات پڑھتا ہے تو سرچکرا نے لگتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس روایت کو لے اور کسے چھوڑے۔

واقعات کے زمانہ وقوع کے متعلق بھی اختلاف کی کمی نہیں۔ بعض اوقات تو اس باب میں انتہائی بے پروائی برتی گئی ہے اور آنکھیں بند کر کے روایات درج کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ طبری میں مذکور ہے کہ جنگبائے ارتداد ۱۱ھ میں وقوع پذیر ہوئیں، فتوحات عراق ۱۲ھ میں مکمل ہو گئیں اور فتوحات شام کی تکمیل ۱۳ھ میں ہوئی۔ واقعات کی اس ترتیب پر ایک نظر ڈالنے سے یہی خیال ذہن میں آتا ہے کہ عراق کی فتوحات اس وقت تک شروع نہ ہوئیں جب تک جنگبائے ارتداد کا خاتمہ نہ ہو گیا اور فتوحات شام کی ابتداء اس وقت تک نہ ہوئی جب تک فتوحات عراق پایہ تکمیل کو نہ پہنچ گئیں حالانکہ واقعہ ایسا نہیں۔ عراق پر لشکر کشی کی ابتداء جنگبائے ارتداد کے دوران ہی میں ہو چکی تھی اور فتوحات شام کا سلسلہ جنگبائے

ارتداد کے معا بعد اس وقت شروع ہو چکا تھا جب خالد بن ولید کی فوجیں عراق میں ایرانیوں سے برسر پیکار تھیں۔

اختلافات کی حد یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ کتابوں میں جہاں واقعات کے وقوع اور زمانہ وقوع کے متعلق اختلافات کی بھرمار ہے وہاں مقامات کے متعلق اختلافات کی بھی کمی نہیں۔ بسا اوقات ان اختلافات کے باعث روایت کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل حقیقت سے کس طرح آگاہی حاصل کی جائے۔ بعض اوقات ایک ہی نام کے کئی مقامات مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں لیکن روایات سے قطعاً پتا نہیں چلتا کہ اس جگہ کون سے مقام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بعض مقامات کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے اور ان کا حقیقی محل وقوع معلوم کرنا نہایت دشوار ہے (گو مستشرقین نے اس مشکل کو بڑی حد تک حل کر دیا ہے اور ایسے نقشے تیار کیے ہیں جن کی مدد سے نابود مقامات کا صحیح محل وقوع معلوم ہو سکتا ہے) بعض روایات اس قدر مشکوک ہیں کہ ان کی صحت پر مشکل ہی سے یقین کیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالا وجوہ کی بنا پر دور حاضر کے بعض مورخین نے ابوبکرؓ کے عہد میں رونما ہونے والے واقعات کے متعلق بے حد تردد کا اظہار کیا ہے اور وہ ان واقعات کی تصدیق نہ کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ بیشتر مورخین نے ان کے عہد کا تذکرہ نہایت اختصار سے کیا ہے جس سے نہ واقعات کی حقیقی تصویر سامنے آتی ہے نہ اس جاہ و جلال کا کوئی واضح نقشہ ہمارے سامنے کھینچتا ہے جو عہد صدیق کا طرہ امتیاز تھا اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عہد صدیقیؓ کو تاریخ اسلام اور اسلامی سلطنت کے قیام میں فیصلہ کن اہمیت حاصل تھی۔

عہد صدیقیؓ کے ابتدائی ماخوذوں پر نظر ڈالنے سے ایک اور عجیب و غریب امر کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مورخین ابوبکرؓ کے متعلق اتنا بھی بیان نہیں کرتے جتنا خالد بن ولید اور ان سپہ سالاروں کے متعلق بیان کرتے ہیں جنہوں نے شام جا کر وہاں کی فتوحات میں حصہ لیا۔ جب کوئی شخص ان کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ابوبکرؓ گویا دالہی کے سوا کوئی کام نہ تھا اور وہ مدینہ میں بیٹھے دن رات عبادت اور تسبیح و تہمید میں مشغول رہتے تھے۔ امور سلطنت کی دیکھ بھال یا تو عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ جیسے جلیل القدر صحابہ کرتے تھے یا

قائدین عساکر اور مختلف علاقوں کے عمال۔ حالانکہ یہ بات صریحاً غلط اور سخت گمراہ کن ہے۔ ابو بکرؓ کے عہد میں استحکام دین اور تعمیر سلطنت کے سلسلے میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ محض ان کی ذاتی توجہ اور کوششوں کے نتیجے میں ہوا اور اس کا سہرا ان کے سوا کسی کے سر پر نہیں باندھا جاسکتا۔

ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھنے پر جب ابو بکرؓ نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو اکثر مسلمانوں نے، جن میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے، (حالات کی نزاکت کے پیش نظر) ابو بکرؓ کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انتہائی اولوالعزمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا خواہ مجھے اکیلے ہی ان کے مقابلے میں نکلنا پڑے۔ ثنی بن حارثہ شیبانی کی جانب سے امداد کی درخواست موصول ہونے پر ابو بکرؓ ہی نے ان کی مدد کے لیے خالد بن ولید کو عراق بھیجا۔ جب شام پر فوج کشی کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا تو سارے عرب سے فوجیں انہیں نے اکٹھی کیں اور جب ابو عبیدہ بن جراح اور شام میں مقیم دوسرے اسلامی سپہ سالاروں نے رومی سلطنت پر یورش کرنے میں سستی دکھائی تو انہیں نے اپنے خاص حکم کے ذریعے سے خالد بن ولید کو اس اہم کام کی انجام دہی کے لیے مامور کیا۔

ایک طرف ابو بکرؓ عراق اور شام کی جانب فوجوں پر فوجیں اور کمک پر کمک روانہ فرما رہے تھے اور دوسری جانب بیت المال کی تنظیم، مال غنیمت کی تقسیم، عمال کے تقرر اور سلطنت کے انتظام و انصرام میں ہمہ تن مصروف تھے۔ امور سلطنت کی انجام دہی میں انہیں کسی چیز کا حتیٰ کہ اہل و عیال کا بھی ہوش نہ تھا۔ ایک ہی دھن تھی اور ایک ہی لگن اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے آپ کو جو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے اس کی بجا آوری میں سر مو فرق نہ آنے پائے۔ امور سلطنت میں اس درجہ انہماک ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے انتہائی قلیل مدت میں وہ عظیم الشان کام کر دکھائے جو دوسرے لوگ سالہا سال کی طویل اور مسلسل جدوجہد کے باوجود نہیں کر سکتے اور نہ کر سکے۔

مورخین کا ابو بکرؓ اور ان کے عہد کی طرف سے اتنی بے پروائی برتنے کا ایک سبب غالباً یہ بھی ہے کہ انہیں مسلسل بیس سال تک رسول اللہؐ کی مبارک اور پاک صحبت میں زندگی

بسر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس دوران میں ان کا جو تعلق آپ سے رہا اس کا اظہار آپ نے ان الفاظ میں فرمایا:

”اگر میں بندوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکرؓ کو بناتا۔“

اس بنا پر مورخین اور راویوں نے یہ خیال کر لیا کہ رسول اللہؐ کی پاک صحبت اور ابوبکرؓ کے حق میں آپ کے ان الفاظ کے مقابلے میں زمانہ خلافت میں رونما ہونے والے تمام واقعات اور کارنامے بالکل بیچ ہیں، اس لیے ان کا تفصیل سے ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔

بے شک رسول اللہؐ اور ابوبکرؓ کے باہمی تعلقات کی نوعیت معمولی نہیں بلکہ اپنے اندر انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن ان کی خلافت کا زمانہ بھی کم اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ بست سالہ صحبت کے دوران میں جو ایقان و ایمان انہیں حاصل ہوا تھا اس کے عملی اظہار کا وقت تو زمانہ خلافت ہی میں میسر آیا تھا اور یہ عملی اظہار انہوں نے جس طرح کیا اور اس امانت کا حق، جو ان کے سپرد کی گئی تھی، جس طرح ادا کیا وہ تاریخ عالم کا ایک فراموش نہ ہونے والا ورق ہے۔ اس لحاظ سے ان کا عہد مستحق ہے کہ ان کی مفصل تاریخ قلم بند کی جائے۔

ماخذوں میں اختلاف اور عہد صدیقؓ کی نسبت مندرجہ بالا تاثر کے باعث متقدمین کی کتابوں میں ابوبکرؓ کے متعلق بہت ہی کم مواد ملتا ہے۔ اس کا اثر متاخرین کی کتابوں میں بھی ظاہر ہوا کیونکہ ان کی بنیاد کلیۃً متقدمین اور ابتدائی مورخین کی کتابوں اور روایات پر تھی۔ بعض متاخرین تو عہد صدیقؓ کا ذکر انتہائی اختصار سے کر کے ہمہ تن عہد عمرؓ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن بعض مورخ تو دونوں کے عہد کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہ انتہائی نامناسب امر ہے۔ ہر دو بزرگ عظمت و شوکت کے لحاظ سے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے سیاست دان سے کم نہ تھے۔ حضرت عمرؓ کا عہد یقیناً اسلام کا انتہائی درخشاں عہد ہے۔ اس میں سلطنت کی بنیادیں استوار کی گئیں، قواعد مملکت مرتب کیے گئے، نظام حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا، مصر اور دیگر رومی و ایرانی مقبوضات پر پہلی بار اسلامی علم لہرایا گیا۔ لیکن اس امر سے کسی شخص کو انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر فاروقؓ کا یہ عظیم دور حضرت ابوبکر صدیقؓ کے عہد کا متمہ و تکملہ تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے ابوبکرؓ کا دور رسول اللہؐ کے

عہد کا تتمہ و تکملہ تھا۔

اگرچہ موجودہ زمانے میں بہت کم کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جن میں ابوبکرؓ اور ان کے عہد کا ذکر تفصیل و توضیح اور تحقیق و تدقیق سے کیا گیا ہو پھر بھی مجھے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بعض مستشرقین نے عہد صدیقؓ کی اہمیت محسوس کر کے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ اٹھارویں صدی عیسوی میں ”ایسے دی مارینی“ نے تاریخ اہل عرب (History of the Arabians) کے نام سے ایک کتاب تالیف کی جس میں ابوبکرؓ کا ذکر خصوصیت اور تحقیق سے کیا گیا۔ انیسویں صدی کے اوائل میں ”کوسین دی پرسیوال“ نے ایک کتاب (Essai Sur l, Historie des Arbes) کے نام سے تالیف کی۔ اس میں بھی ابوبکرؓ کا ذکر تفصیل و توضیح سے کیا گیا ہے۔ 1883ء میں ”سرولیم میوز“ نے (Annals's of the Early Caliphate) تالیف کی اور اس کے اندر بڑے فاضلانہ انداز میں ابوبکرؓ کے عہد اور ان کے کارناموں پر تبصرہ کیا۔ اس وقت سے آج تک جرمنی، اٹلی، فرانس، انگلستان اور دوسرے یورپی ممالک کے متعدد مستشرقین تاریخ اسلام کے اس عہد زریں کے متعلق تحقیق و تدقیق میں مشغول رہے ہیں اور انہوں نے اس ضمن میں نہایت قابل قدر کام کیا ہے۔

جہاں میں نے مستشرقین کی کوششوں کا ذکر کیا ہے وہاں بعض ایسے مسلمان اور عرب مورخین کا تذکرہ کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے عہد صدیقؓ کی اہمیت سمجھ کر اپنی کتابوں میں ان کے متعلق تفصیل اور تحقیق سے کام لیا ہے۔

مشہور مورخ ”رفیق بک العظم“ نے اپنی کتاب ”اشہر مشاہیر الاسلام“ کے جز اول میں بالخصوص ابوبکرؓ اور ان کے عہد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب کے اکثر حصوں کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اس کے مولف متقدمین کے طریقوں سے بڑی حد تک متاثر ہیں۔ مرحوم شیخ محمد خضریٰ بک نے بھی ابوبکرؓ کے عہد کا تذکرہ تفصیل و توضیح سے کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے:

”ہم بلا خوف و تردید کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کا وجود نہ ہوتا تو تاریخ اسلام کا دھارا کسی اور ہی طرف مڑا ہوا ہوتا۔ جب آپ نے عنان

خلافت ہاتھ میں لی تو تمام مسلمانوں کے دلوں پر خوف و خطر طاری
اور مایوسی و بددلی محیط تھی۔ لیکن حضرت صدیقؓ نے حیرت انگیز
الوالعزمی سے تمام فتنوں اور شورشوں کا قلع قمع کر ڈالا اور اسلام کا
قافلہ شان و شوکت سے دوبارہ اپنے راستے پر گامزن ہو گیا۔“

استاد عمر ابوالنصر نے اپنی کتاب ”خلفاء محمدؐ“ کا پہلا حصہ کلیۃً ابو بکرؓ کے حالات
کے لیے وقف کیا ہے۔ اسی طرح شیخ عبدالوہاب نجار اور بعض دوسرے مورخین نے بھی ان
کے متعلق بہت حد تک تحقیقی کام کیا ہے۔

میں یہ تمہید اس دعا پر ختم کرتا ہوں، اللہ ہمارے علماء اور مورخین کو توفیق عطا
فرمائے کہ ابو بکرؓ کا حقیقی مقام سمجھیں اور کاوش و جاں فشانی سے ان کے متعلق ایسا تحقیقی مواد
تیار کر دیں جس سے ان کی عظیم شخصیت صحیح رنگ میں دنیا کے سامنے آ سکے اور اب تک جو
نا انصافی آپ سے ہوتی رہی ہے اس کی تلافی ہو جائے..... آخر میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا
ہوں کہ اس نے کسی حد تک مجھ ناچیز کو یہ فریضہ بجالانے کی توفیق عطا فرمائی اور حقیقت تو یہ
ہے کہ تمام کام اسی کی مہربانی و توفیق سے انجام پاتے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ کے حالات کے بعد اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو حضرت عمرؓ کے
حالات بھی اسی نہج پر لکھنے کا ارادہ ہے۔

محمد حسین ہیکل

پہلا باب

ابو بکرؓ رسولؐ کی زندگی میں

ابتدائی حالات:

حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بچپن اور جوانی کے متعلق اتنے کم واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں کہ ان سے نہ اس دور میں ان کی شخصیت کے صحیح خط و خال معلوم ہوتے ہیں اور نہ ان کے والدین کے ناموں کے سوا ان کے بارے میں کسی اور بات ہی کا پتا چلتا ہے۔ قبول اسلام کے وقت ان کے والد بہ قید حیات تھے لیکن تاریخ ہمیں نہیں بتاتی کہ ان کے والد پر ان کے اسلام لانے کا کیا اثر ہوا اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے ان کی زندگی میں کیا اثر لیا، البتہ جہاں تک آپ کے قبیلے کا تعلق ہے مورخین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے قدرے تفصیل سے کام لیا ہے اور بتایا ہے کہ قریش میں اس قبیلے کو کیا مرتبہ حاصل تھا۔ مرتبے کا ذکر خصوصیت سے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات محض قبیلے کے ذکر سے کسی شخص کے عادات و اطوار اور اخلاق و خصائل کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔

قبیلہ:

حضرت ابو بکرؓ قبیلہ تیم بن مرہ بن کعب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نسب آٹھویں پشت میں مرہ پر جا کر رسول اللہؐ سے مل جاتا ہے۔ تفصیل یہ ہے:

کلاب — قصعی — عبد مناف — ہاشم — عبد المطلب — عبد اللہ — محمد رسول اللہ

مرہ — تیم — سعد — کعب — عمرو — عامر — عثمان ابوقافہ — ابو بکر صدیقؓ

مکہ میں بسنے والے تمام قبائل کو کعبہ کے مناصب میں سے کوئی نہ کوئی منصب ضرور سپرد ہوتا تھا۔ بنو عبد مناف کے سپرد حاجیوں کے لیے پانی کی بہم رسانی اور انہیں آسائش پہنچانے کے انتظامات تھے۔ بنو عبد الدار کے ذمے جنگ کے وقت علم برداری، کعبہ کی درباری اور دار الندوہ کا انتظام تھا۔ لشکروں کی سپہ سالاری خالد بن ولید کے اجداد بنو مخزوم کے حصے میں آئی تھی۔ خوں بہا اور دیتیں اکٹھا کرنا بنو تیم بن مرہ کا کام تھا۔ جب ابو بکرؓ جوان ہوئے تو یہ خدمت ان کے سپرد کی گئی۔ خوں بہا اور دیتوں کے تمام مقدمات ان کے سامنے پیش ہوتے تھے اور جو فیصلہ وہ کرتے تھے اسے قریش کو منظور کرنا ہوتا تھا۔ خون بہا کے متعلق تمام اموال بھی ان کے پاس جمع ہوتے تھے۔ اگر ان کے سوا کسی اور شخص کے پاس جمع ہوتے تھے تو قریش اسے تسلیم نہ کرتے تھے۔

بنو تیم کے جو اوصاف کتابوں میں بیان ہوئے ہیں وہ دوسرے قبائل سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ ان میں کوئی ایسا مخصوص وصف نہ پایا جاتا تھا جو انہیں ان کے ہم عصر دوسرے قبائل سے ممتاز کر سکے۔ شجاعت، سخاوت، مروت، بہادری اور ہمسایوں کی حمایت و حفاظت کی جو صفات دوسرے قبائل عرب میں موجود تھیں وہی بنو تیم میں بھی تھیں۔

نام، لقب اور کنیت:

حضرت صدیقؓ کا نام عبد اللہ تھا اور کنیت ابو بکرؓ والد کی کنیت ابو قحافہ تھا اور نام عثمان بن عامر۔ والدہ کی کنیت ام الخیر تھی اور نام سلمیٰ بنت صخر بن عامر۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام لانے سے قبل ابو بکرؓ کا نام عبد الکعبہ تھا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہؐ نے یہ مشرکانہ نام تبدیل کر کے عبد اللہ رکھ دیا۔ بعض روایات کے مطابق انہیں عتیق بھی کہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپؐ کی والدہ کے لڑکے زندہ نہ رہتے تھے۔ انہوں نے نذرمانی کہ اگر ان کے لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گی اور اسے کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ چنانچہ جب ابو بکرؓ پیدا ہوئے تو انہوں نے نذر کے مطابق ان کا نام عبد الکعبہ رکھا۔ جوان ہونے پر وہ عتیق (آزاد کردہ غلام) کے نام سے موسوم کیے جانے لگے کیونکہ انہوں نے موت سے رہائی پائی تھی۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ عتیق کا لقب انہیں نہایت

سرخ و سفید ہونے کے باعث دیا گیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ان کے والد کو عتیق کیوں کہا جاتا تھا تو انہوں نے فرمایا: ”ایک مرتبہ رسول اللہؐ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا: ”ہذا عتیق اللہ من النار“ (اللہ کا یہ بندہ آگ سے آزاد شدہ ہے)“

یہ روایت اس طرح بھی آئی ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر چند لوگوں کے ساتھ رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھ کر آپؐ نے فرمایا: ”جو چاہتا ہو کہ آگ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے وہ ابوبکرؓ کو دیکھ لے۔“ ابوبکرؓ ان کی کنیت تھی اور عمر بھر اپنی کنیت ہی سے موسوم کیے جاتے رہے۔ لیکن اس کنیت کا حقیقی سبب معلوم نہ ہو سکا۔ بعد میں آنے والے بعض مورخین کہتے ہیں، یہ کنیت اس لیے پڑی کہ آپؐ سب سے پہلے اسلام لائے۔ (انہ بکر الی الاسلام قبل غیرہ) ^۱

بچپن اور جوانی:

بچپن کا زمانہ انہوں نے اپنے دوسرے ہم سن بچوں کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں، کھیلے گزارا۔ جوان ہونے پر ان کی شادی قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے ہوئی۔ ان سے عبداللہ اور اسماء پیدا ہوئے۔ اسماء کا لقب بعد میں ذات النطاقین قرار پایا۔ قتیلہ کے بعد انہوں نے ام رومان بنت عامر بن عویمیر سے شادی کی۔ ان سے عبدالرحمن اور عائشہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ آ کر پہلے انہوں نے حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی پھر اسماء بنت عمیس سے۔ اسماء کے بطن سے محمد پیدا ہوئے۔

پیشہ، حلیہ اور اخلاق و عادات:

قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد اسی شغل میں مشغول تھا۔ چنانچہ ابوبکرؓ نے بھی بڑے ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی جس میں انہیں غیر معمولی

۱۔ مورخین نے اس کنیت سے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ عربی میں بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں۔ چونکہ انہیں اونٹوں کی غور و پرداخت سے بہت دلچسپی تھی اور ان کے علاج معالجے میں بہت واقفیت رکھتے تھے اس لیے لوگوں نے انہیں ابوبکرؓ کہنا شروع کر دیا جس کے معنی ہیں: اونٹوں کا باپ۔ (مترجم)

فروغ حاصل ہوا اور ان کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت کی کامیابی میں ان کی جاذب نظر شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو بھی بڑا خاص دخل تھا۔ ان کا رنگ سفید، بدن دبلا، داڑھی خشخاشی، چہرہ شگفتہ، آنکھیں روشن اور پیشانی فراخ تھی وہ بہترین اخلاق کے مالک، رحم دل اور نرم خوتھے۔ ہوش و خرد، عاقبت اندیشی اور بلندی فکر و نظر کے لحاظ سے مکہ کے بہت کم لوگ ان کے ہم پلہ تھے۔ عقل و خرد جہاں انسان کے قلب و نظر کو جلا بخشتی ہے وہاں بسا اوقات بے راہ روی کا موجب بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ابو بکرؓ کو قلب سلیم و دیعت ہوا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی قوم کے اکثر گمراہ کن اعتقادات اور رسوم و عادات سے بالکل الگ رہتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام، دونوں زمانوں میں، شراب کا قطرہ تک نہ چکھا حالانکہ اہل مکہ شراب کے عادی ہی نہیں بلکہ عاشق تھے۔ ابن ہشام اپنی سیرت میں ان کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ابو بکرؓ اپنی قوم میں بہت ہر دل عزیز تھے۔ علم الانساب کے بہت بڑے ماہر تھے۔ قریش مکہ کے تمام خاندان کے نسب انہیں از بر یاد تھے اور ہر قبیلے کے عیوب و نقائص اور محامد و فضائل سے بخوبی واقف تھے۔ اس وصف میں قریش کا کوئی فرد ان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ وہ خلیق، ایمان دار اور ملنسار تاجر تھے۔ قوم کے تمام لوگ ان کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ برتاؤ کے معترف تھے اور انہیں فضائل کے باعث ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔“

رسول اللہؐ سے تعلق اور قبول اسلام:

ابو بکرؓ کا قیام مکہ کے اس محلے میں تھا جہاں حضرت خدیجہؓ بنت خویلد اور دوسرے بڑے بڑے تاجر سکونت پذیر تھے اور جن کی تجارت یمن و شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی محلے میں رہنے کے باعث رسول اللہؐ سے ان کا رابطہ پیدا ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپؐ حضرت خدیجہؓ سے شادی کرنے کے بعد انہیں کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔

ابوبکرؓ رسول اللہؐ سے دو سال چند ماہ چھوٹے تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ ہم عمری، پیشے میں اشتراک، طبیعتوں میں یکجہتی، قریش کے عقائد فاسدہ سے نفرت اور بری عادتوں سے اجتناب، ان تمام باتوں نے دونوں کی دوستی کو پروان چڑھانے میں بہت مدد دی۔ مورخین اور راویوں میں دونوں کی دوستی کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض تو یہ لکھتے ہیں کہ بعثت سے پہلے ہی رسول اللہؐ سے ابوبکرؓ کی گہری دوستی ہو چکی تھی اور یہی دوستی و یکجہتی ان کے سب سے پہلے اسلام لانے کا محرک ہوئی۔ لیکن بعض مورخین کا بیان ہے کہ دونوں کے تعلقات میں استواری اسلام کے بعد ہوئی، اسلام سے پہلے دونوں کے تعلقات صرف ہمسائیگی اور ذہنی میلانات و رجحانات میں یکسانی تک محدود تھے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بعثت سے قبل رسول اللہؐ عزلت اور گوشہ نشینی پسند کرتے تھے اور انہوں نے کئی سال سے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا تقریباً ترک کر رکھا تھا۔ جب اللہ نے آپؐ کو رسالت کے شرف سے مشرف کیا تو خیال آیا کہ ابوبکرؓ کو اللہ نے عقل و خرد سے حصہ وافر دے رکھا ہے اس لیے سب سے پہلے انہیں اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپؐ ان کے پاس گئے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا جس پر ابوبکرؓ نے کسی تردد کا اظہار نہ کیا اور ایک لمحے کے توقف کے بغیر ایمان لے آئے۔ اس وقت سے دونوں کے درمیان تعلقات کا آغاز ہوا اور ان تعلقات میں روز بروز استواری پیدا ہوتی چلی گئی۔ ابوبکرؓ نے رسول اللہؐ کی محبت و الفت میں اپنے آپ کو سرتاپا غرق کر دیا اور ایمان کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی نظیر رہتی دنیا تک پیش نہ کی جاسکے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام کی محبت میں ترقی ہی کرتے دیکھا۔ کوئی دن ایسا نہ تھا جب رسول اللہؐ ہمارے گھر صبح و شام تشریف نہ لاتے ہوں۔

آغاز اسلام ہی سے ابوبکرؓ اپنے اندر دین حق کی اشاعت و ترویج میں رسول اللہؐ کی امداد و اعانت کا غیر معمولی جذبہ رکھتے تھے اور ہر وقت نہایت اخلاص سے اس میں مشغول رہتے تھے۔ چونکہ ابوبکرؓ عوام و خواص میں بہت ہر دلعزیز تھے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی بے حد عزت و عقیدت تھی اس لیے بہت جلد متعدد اشخاص ان کی تبلیغ سے اسلام لے آئے۔ عثمانؓ بن عفان، عبدالرحمنؓ بن عوف، طلحہؓ بن عبید اللہ، سعیدؓ بن ابی وقاص اور

زبیر بن عوام جو اولین صحابہ میں سے ہیں، ابو بکرؓ ہی کی کوشش سے اسلام لائے تھے۔ بعد میں بھی ابو عبیدہؓ بن جراحؓ اور اکثر دوسرے لوگ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔

بلا تردد قبول اسلام کا سبب:

ابو بکرؓ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھتے ہی طبعاً دل میں خیال آتا ہے، یہ بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرتے وقت کسی ہچکچاہٹ اور تردد کا اظہار نہ کیا اور جونہی رسول اللہؐ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا انہوں نے فوراً بے پس و پیش اسے قبول کر لیا۔ چنانچہ خود رسول اللہؐ فرماتے ہیں:

”میں نے جس کسی کو اسلام کی طرف بلایا اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور ہچکچاہٹ کا اظہار کیا سوا ابو بکر بن ابی قحافہ کے۔ جب میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی تاہل کے فوراً میری آواز پر لبیک کہا۔“

صرف یہی امر تعجب انگیز نہیں کہ ابو بکرؓ نے توحید کی دعوت سنتے ہی اس امر پر لبیک کہا بلکہ جب رسول اللہؐ نے غار حرا میں فرشتے کے نزول اور وحی اترنے کا واقعہ انہیں سنایا تو بھی انہوں نے خفیف ترین شک کا بھی اظہار نہ کیا اور بے پس و پیش آپؐ کی تمام باتوں کا یقین کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو بکرؓ مکہ کے ان عقل مند انسانوں میں سے تھے جو ایک طرف بتوں کی عبادت کو حماقت سے تعبیر کرتے تھے اور دوسری طرف دل و جان سے رسول اللہؐ کی صداقت، امانت، نیکی اور پاک بازی کے قائل تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہؐ کی باتیں سنیں تو کوئی شک دل میں لائے بغیر وہ فوراً آپؐ پر ایمان لے آئے کیونکہ انہیں نہ صرف آپؐ کی صداقت پر کامل یقین تھا بلکہ آپؐ کی پیش کردہ تمام باتیں بھی سراسر حکمت پر مبنی نظر آتی تھیں اور وہ انہیں عقل و فکر کے تقاضوں پر پورا اترتے دیکھتے تھے۔

جرات ایمانی:

ہمارے نزدیک ان کے بلا توقف اور بلا تردد اسلام قبول کرنے سے بھی زیادہ

۱۔ یہ سب کے سب بلند پایہ صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابو بکرؓ نے جن لوگوں کو مسلمان کیا وہ تمام اپنے ایمان و اخلاص میں بے نظیر ثابت ہوئے (مترجم)

تجب انگیز امران کی وہ بے نظیر جرات ہے جو اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے اس کی اشاعت کے سلسلے میں دکھائی۔ وہ نہ صرف دل و جان سے توحید و رسالت پر ایمان لائے بلکہ علانیہ ان باتوں کی تبلیغ بھی شروع کر دی اور اس بات کا مطلق خیال نہ کیا کہ اس طرح آئندہ چل کر ان کے لیے کتنے خطرات پیدا ہوں گے۔ ان کا شمار مکہ کے معزز تاجروں میں ہوتا تھا اور ایک تاجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے گہرے دوستانہ و روادارانہ تعلقات رکھے اور ان باتوں کے اظہار سے احتراز کرے جو عوام کے مروجہ عقائد و اعمال کے خلاف ہوں، مبادا اس کی تجارت پر برا اثر پڑے۔ دنیا میں اس قسم کے مظاہر عام طور پر نظر آتے ہیں کہ اکثر لوگ عامۃ الناس کے عقائد و خیالات پر اعتقاد نہ رکھنے کے باوجود نہ صرف اپنے فائدے، مصلحت یا عافیت کی خاطر منہ میں گھنگھنیاں ڈالے خاموش بیٹھے رہتے ہیں بلکہ بسا اوقات اپنے ذاتی خیالات کے برعکس عوام کی انہی باتوں کی تائید کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جنہیں وہ اپنے دل میں غلط، فضول اور لالچینی سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں ہی کا یہ حال نہیں بلکہ وہ لوگ بھی جنہیں قوم کی قیادت کا دعویٰ ہوتا ہے اور جو اس کے لیے راہ عمل متعین کرنے کے مدعی ہوتے ہیں، بالعموم رائے عامہ کی کھلم کھلا مخالفت کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ لیکن ابوبکرؓ نے اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے ہی دن سے جو عظیم الشان نمونہ دکھایا وہ نظیر نہیں رکھتا۔ اگر وہ خفیہ طور پر صرف رسول اللہؐ کی تصدیق پر اکتفا کرتے اور تجارت میں نقصان کے ڈر سے اپنے اسلام کو مخفی رکھتے تو بھی رسول اللہؐ کو شاید کوئی اعتراض نہ ہوتا اور آپ ان کی طرف سے محض اسلام کے اظہار ہی کو کافی سمجھتے، لیکن ابوبکرؓ نے ایسا نہ کیا۔ وہ علانیہ اسلام لائے اور معا بعد اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے نہ اپنی تجارت کا خیال کیا اور نہ کفار مکہ کی مخالفت و ایذا رسانی کا بلکہ بڑے انہماک سے تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے۔ ایسا جرات مندانہ اقدام صرف وہی شخص کر سکتا ہے جسے دین کے راستے میں نہ جان کی پروا ہو نہ مال کی، اور جو مال و منال اور دنیوی وجاہت و عزت کو دین کی خدمت اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے مقابلے میں بالکل ہیچ سمجھتا ہو۔

بے شک حضرت حمزہؓ بن عبدالمطلب اور حضرت عمرؓ بن خطاب نے بھی اسلام کی سر بلندی اور اس کی اشاعت کے لیے زبردست کوشش کی اور ان کے ذریعے سے دین کو بے حد تقویت پہنچی۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ کہنے میں ذرا تاثر نہیں کہ ابو بکرؓ ہی وہ شخص تھے جنہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا۔ دین اسلام اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰؐ نے اس نیک نفس اور انتہائی رقیق القلب شخص کے دل میں وہ قوت ایمانی پیدا کر دی تھی جس کا پیدا کرنا دنیا میں کسی بھی طاقت کے بس میں نہ تھا۔ اور ایک ابو بکرؓ کی مثال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قوت ایمانی اپنے اندر کتنا زبردست اثر رکھتی ہے۔

غرباء، مساکین اور مظلوموں کی امداد:

ابو بکرؓ نے اپنے دوستوں اور ملنے جلنے والوں کو تبلیغ کرنے اور ان یکس و مظلوم مسلمانوں سے ہمدردی کرنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ انہوں نے اپنا مال بھی ان غریب لوگوں پر دل کھول کر خرچ کیا جنہیں اللہ نے اسلام کی جانب رہنمائی کی تھی اور دشمنان حق نے انہیں تکالیف پہنچانے اور ان پر نت نئے مظالم توڑنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ جس روز وہ اسلام لائے ان کے پاس چالیس ہزار درہم موجود تھے۔ تجارت کا سلسلہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد بھی جاری رکھا اور اس سے وافر نفع حاصل کیا لیکن اس کے باوجود جب دس سال بعد ہجرت کا موقع پیش آیا تو ان کے پاس صرف پانچ ہزار درہم باقی تھے۔ اس دوران میں انہوں نے جو کچھ کمایا اور جو کچھ پہلے پس انداز کر رکھا تھا وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں، اسلام کی تبلیغ میں اور ان غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیا جو محض اسلام لانے کے جرم میں اپنے بے دین آقاؤں کے ہاتھوں ہولناک سختیاں برداشت کر رہے تھے۔

ایک روز انہوں نے بلال کو دیکھا کہ ان کے آقا نے انہیں دو پہر کے وقت شدید دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ کر کہا ”اسلام چھوڑ دینے کا اعلان

کر دو ورنہ اسی طرح مار ڈالوں گا۔“ یہ دردناک منظر دیکھ کر ابو بکرؓ نے انہیں ان کے آقا سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور غلام عامر بن فہیرہ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ابو بکرؓ نے انہیں بھی خرید کر اپنی بکریوں کی نگہداشت اور چرانے کا کام سپرد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے اور بھی بیسیوں غلام خرید کر انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔

رسول اللہ کی تائید و حمایت:

رسول اللہ کا مرتبہ قریش میں بہت بلند تھا۔ آپ کا شمار قبیلے کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا، علاوہ بریں بنو ہاشم بھی آپ کی حمایت پر تھے لیکن ان باتوں کے باوجود آپ قریش کی ایذا رسانیوں سے بچ نہ سکے۔ یہی حال ابو بکرؓ کا بھی تھا۔ انہیں بھی شہر کا سربراہ آوردہ فرد ہونے کے باوجود محض اسلام لانے کے جرم میں قریش کے مظالم کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ لیکن اس پر بھی جب کبھی آپ نے دیکھا کہ قریش رسول اللہؐ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو انہوں نے جان تک کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضورؐ کے بچانے کے لیے پیش کر دیا۔ ابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہؐ کو قریش کے ہاتھوں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پہنچی جب بت پرستی کی مذمت میں آیات نازل ہوئیں۔ وہ لوگ خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے اور ایک شخص دوسرے سے کہنے لگا ”تم نے سن لیا محمد ہمارے بتوں کے متعلق کیا الفاظ کہتا ہے۔ یہ محض تمہاری کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تمہارے دین اور تمہارے بتوں کے متعلق جس قسم کے الفاظ چاہتا ہے کہتا ہے لیکن تم خاموش رہتے ہو۔“ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہؐ بھی ادھر سے گزرے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دم آپ پر جھپٹ پڑے اور کہنے لگے ”تم نے ہمارے بتوں کے متعلق یہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں؟“ رسول اللہؐ نے فرمایا ”بے شک! میں نے ہی یہ الفاظ کہے ہیں۔“ اس پر ایک آدمی نے آپ کی چادر چھین لی اور اسی سے آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکرؓ بھی ادھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے یہ دیکھ کر آپ کو کفار کے زرعے سے چھڑایا اور ان سے کہا ”کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے، ”میرا رب اللہ ہے؟““ راوی ذکر کرتا ہے کہ یہ وہ دن تھا جب رسول اللہؐ کو کفار کے ہاتھوں سخت ترین تکلیف پہنچی۔

صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ بعد میں بھی اکثر مواقع پر ابو بکرؓ نے خدا کی وحدانیت اور رسول اللہؐ کی رسالت پر ایمان کامل کا ثبوت دیا۔ ان کے اسی جذبہ ایمان کو دیکھ کر بعض مستشرقین کو رسول اللہؐ کی صداقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ کو محمدؐ سے کسی قسم کے دنیوی فائدے کی توقع نہ تھی۔ اس کے برعکس وہ شب و روز یہ دیکھتے تھے کہ مکہ والے محمدؐ کو ہر قسم کی تکلیفیں دیتے، آپؐ کا مذاق اڑاتے اور آپؐ کے ماننے والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اگر محمدؐ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوتے تو ابو بکرؓ جیسے عقل مند اور مدبر شخص کو آپؐ پر ایمان لانے، آپؐ کے دعوے کی تصدیق کرنے، آپؐ کی ہر طرح مدد کرنے اور قریش میں خود اپنی پوزیشن خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ محض اپنی عقل و فراست کے بل بوتے پر اپنے اندر وہ ایمان پیدا نہ کر سکتے تھے جو انسان کو تمام خطرات سے بے پروا کر کے اس میں شدید تڑپ اور دھن پیدا کر دیتا ہے۔ جس ایمان کا مظاہرہ ابو بکرؓ نے کیا اور جس طرح انہوں نے رسول اللہؐ کے ہر قول و فعل کی تصدیق کی وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام یقیناً خدا کی طرف سے ہے کیونکہ ایک باطل مذہب اور ایک جھوٹا شخص کبھی اپنے ماننے والوں کے دلوں میں ایسا ایمان پیدا نہیں کر سکتا۔

اسراء کے موقع پر :

اسراء کے موقع پر ابو بکرؓ نے جس قوت ایمانی کا ثبوت دیا وہ نہ صرف حیرت انگیز ہے بلکہ اس نے بہت سے مسلمانوں کو ٹھوکر کھانے سے بچالیا۔ جب رسول اللہؐ نے اہل مکہ سے بیان فرمایا کہ رات آپؐ کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں آپؐ نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو مشرکین نے آپؐ کا مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ مکہ سے شام تک کا فاصلہ ایک مہینے کا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ محمدؐ بیت المقدس جائیں اور ایک ہی رات میں دو مہینے کی مسافت طے کر کے واپس آجائیں۔ بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی تردد پیدا ہو گیا انہوں نے جا کر ابو بکرؓ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ابو بکرؓ پر دہشت سی طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ تم رسول اللہؐ پر بہتان باندھتے ہو۔ لوگوں نے کہا ”ہم جھوٹ

نہیں کہہ رہے، آپ نے ابھی مسجد میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ یہ سن کر ابوبکرؓ کہنے لگے ”اگر آپ نے واقعی یہی کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ جب اللہ آسمان سے چند لمحوں میں وحی نازل فرمادیتا ہے تو اس کے لیے رات بھر میں آپ کو مکہ سے بیت المقدس لے جانا اور واپس لے آنا کیا مشکل ہے۔“ یہ کہہ کر وہ مسجد میں آئے۔ آپ اس وقت بیت المقدس کا حال بیان فرما رہے تھے۔ ابوبکرؓ بیت المقدس ہو آئے تھے۔ جب آپ مسجد اقصیٰ کا حال بیان کر کے فارغ ہوئے تو ابوبکرؓ نے کہا ”یا رسول اللہ! آپ بالکل سچ فرماتے ہیں۔“

اس وقت آپ نے ابوبکرؓ کو ”صدیق“ کا لقب عطا فرمایا۔

اگر ابوبکرؓ بھی اسراء کے واقعے میں شک کا اظہار کرتے تو یقیناً بہت سے مسلمان مرتد ہو جاتے اور جو لوگ اسلام پر قائم بھی رہتے ان کے دلوں میں بہر حال شکوک و شبہات گھر کر جاتے۔ لیکن ابوبکرؓ کی قوت ایمانی نے نہ صرف لوگوں کو مرتد ہونے سے بچایا بلکہ ان کے دلوں کو بھی شکوک و شبہات سے پاک کر دیا۔ یہ واقعات دیکھ کر بہر صورت ماننا پڑتا ہے کہ ابوبکرؓ کے ذریعے سے دین اسلام کو جو تقویت حاصل ہوئی وہ حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کے ذریعے سے بھی حاصل نہ ہو سکی۔ اور یہی وجہ تھی کہ ان کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے خود رسول اللہؐ نے فرمایا تھا ”لو کنت متخذاً من العباد خلیلاً لاتخذت ابابکر خلیلاً“ یعنی اگر میں بندوں میں سے کسی کو گہرا اور دلی دوست بناتا تو یقیناً ابوبکرؓ کو بناتا (گہرا اور دلی دوست سوا خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا)

اسراء کے بعد:

اسراء کے واقعے کے بعد ابوبکرؓ سارا وقت رسول اللہؐ کی صحبت، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی اعانت اور اسلام کی تبلیغ میں گزارنے لگے۔ تجارت صرف اسی حد تک کرتے جس سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارہ چلا سکیں۔ اس دوران میں رسول اللہؐ، ابوبکرؓ اور دوسرے مسلمانوں پر قریش کے مظالم میں زیادتی ہی ہوتی چلی گئی۔..... قریش نے ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ سعی باقی نہ چھوڑا۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہؐ نے مسلمانوں کو اجازت

دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ متعدد مسلمان ان مظالم سے تنگ آ کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے لیکن ابوبکرؓ نے رسول اللہؐ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کیا اور بدستور مکہ میں رہ کر تبلیغ کرنے، مظلوموں کی مدد کرنے اور انہیں بے دینوں سے چھڑانے کے کام میں سرگرمی سے مصروف رہے اور مکہ میں اسلام پھیلانے کا فرض پوری خوبی اور تن دہی سے انجام دیتے رہے۔

جب رسول اللہ اہل مکہ کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ نے دوسرے قبائل عرب تک خدائی پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا۔ اس غرض کے لیے آپ طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ لیکن انہوں نے آپ سے جو سلوک کیا وہ محتاج بیان نہیں۔ اس دوران میں ابوبکرؓ مکہ میں رہ کر مسلمانوں کی ہمتیں اور حوصلے بلند رکھنے اور انہیں حتی المقدور کفار کے مظالم سے بچانے میں مشغول رہے۔

کمزور مسلمانوں کی حفاظت:

گو اس سلسلے میں مؤلفین سیرت اور ابوبکرؓ کے سوانح نگاروں نے کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈالی پھر بھی ابوبکرؓ کی زندگی پر گہری نظر رکھنے والے لوگوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اس دوران میں وہ خاموش نہ بیٹھے بلکہ انہوں نے حسب معمول حضرت حمزہؓ حضرت عمرؓ اور

۱۔ اس کے برعکس ایک روایت میں مذکور ہے کہ ابوبکرؓ بھی حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں مکہ کا ایک سردار ابن دعنہ انہیں ملا۔ جب اسے ان کے ارادے کا علم ہوا تو وہ بولا ”آپ ہجرت نہ کریں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نہایت صادق القول ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور بیکسوں اور مظلوموں کا دکھ درد دور کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس مکہ چلیے۔“ چنانچہ وہ مکہ آ گئے۔ ابن دعنہ نے اپنے وعدے کے مطابق خانہ کعبہ میں اعلان کر دیا کہ میں نے ابوبکرؓ کو پناہ دے دی ہے۔ قریش نے بھی اس پناہ کو قبول کر لیا۔ ابوبکرؓ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا رکھی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے اور پرسوز لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے مشرکین کی عورتیں اور بچے تلاوت کی آواز سن کر ان کے گرد جمع ہو جاتے اور بڑے انہماک سے قرآن مجید سنتے رہتے تھے۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو انہیں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں ان کی عورتیں اور بچے ابوبکرؓ کی تلاوت سن کر اسلام کا اثر قبول نہ کر لیں۔ انہوں نے ابن دعنہ سے شکایت کی جس پر اس نے اپنی پناہ واپس لے لی اور ابوبکرؓ پھر کفار کے مظالم کا نشانہ بن گئے۔

حضرت عثمانؓ جیسے معزز سربراہ اور وہ مسلمانوں سے مل کر کمزور مسلمانوں کو قریش کے مظالم سے محفوظ رکھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے وسیع اثر و رسوخ کے ذریعے سے کفار میں ایسے اشخاص سے بھی تعلق قائم کیا جو بتوں کو پوجنے اور اسلام کی مخالفت کرنے کے باوجود قریش کی ان ایذا رسانیوں کو، جو وہ غریب و بے کس مسلمانوں پر روا رکھتے تھے، نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی بندوں کی ان انسانیت سوز حرکات پر بر ملا نفرت کا اظہار کریں اور انہیں ایسا کرنے سے روکیں۔ چنانچہ کتب سیر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مکہ میں سے بعض ایسے منصف مزاج آدمی اٹھ کھڑے ہوئے تھے جو اپنے ہم مذہب لوگوں کو مسلمانوں پر ظلم کرنے سے روکتے تھے۔ اس کی واضح مثال اس وقت نظر آتی ہے جب قریش نے معاہدہ کر کے رسول اللہؐ اور مسلمانان مکہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا اور آپؐ شعب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور ہوئے تھے۔ بائیکاٹ کا یہ سلسلہ لگاتار تین سال تک جاری رہا۔ مسلمانوں پر معاش کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے اور انہیں ایسی ایسی تکالیف پہنچائی گئیں جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی قلم تھرتھراتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آخر قریش ہی میں سے بعض لوگ اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہؐ اور دوسرے مسلمانوں کو مکمل بائیکاٹ اور محاصرے سے رہائی ملی۔ ہمیں یقین ہے کہ ابو بکرؓ ہی نے ان نیک دل لوگوں سے مل کر انہیں معاہدے کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار کیا ہوگا۔

اسلام کے اولین دور میں مسلمانوں کی مدد کرنے اور ہمہ تن اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہنے کے باعث ان کے اور رسول اللہؐ کے درمیان ایسا تعلق قائم ہو گیا جس کی نظیر ملنی ناممکن ہے۔ بیعت عقبہ کے بعد جب یثرب میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہؐ نے اپنے متبعین کو اجازت دے دی کہ وہ یثرب ہجرت کر جائیں۔ قریش قطعاً لاعلم تھے کہ آیا اس مرتبہ محمدؐ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر جائیں گے یا ہجرت حبشہ کی طرح مسلمانوں کو یثرب بھیج کر خود مکہ ہی میں مقیم رہیں گے۔ اس موقع پر ابو بکرؓ نے بھی ہجرت کرنے کی اجازت مانگی لیکن رسول اللہؐ نے یہ فرما کر انہیں یثرب جانے سے روک دیا:

”ابھی ایسا نہ کرو، شاید اللہ تمہارا کوئی ساتھی پیدا کر دے جو ہجرت

کے موقع پر تمہارے ہمراہ ہو۔“

ہجرت کی تیاری اور ہجرت:

اس واقعے سے ابو بکرؓ کی پختگی ایمان کا ایک اور ثبوت ملتا ہے اور وہ یہ کہ آپ کو پتا تھا جب سے قریش کو مسلمانوں کی یثرب کی جانب ہجرت کرنے کی خبر ملی ہے وہ اس بات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان مکہ سے کسی طرح باہر نہ نکلنے پائیں تاکہ وہ انہیں ستا سنا کر اور عذاب دے دے کر ہوس انتقام کی تسکین کا سامان پیدا کر سکیں۔ ابو بکرؓ کو یہ بھی علم تھا کہ قریش دارالندوہ میں جمع ہو کر رسول اللہؐ کے قتل کے منصوبے باندھ رہے ہیں اور اگر وہ (ابو بکرؓ) ہجرت کے موقع پر آپ کے ساتھ ہوئے اور قریش خدا نخواستہ آپ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کے ساتھ انہیں بھی قتل کر دیں گے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب رسول اللہؐ نے انہیں ہجرت میں توقف کرنے کا ارشاد فرمایا تو وہ نہ صرف اپنے ارادے سے باز ہی رہے بلکہ ان کے دل میں سرور و بہجت کی ایک لہر دوڑ گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہؐ انہیں ہجرت کے موقع پر اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہؐ کی ہمرکابی کا شرف حاصل کرنا وہ نعمت تھی کہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھیں۔ چنانچہ وہ آپ کے حسب ارشاد ٹھہر گئے اور سمجھ لیا کہ اس موقع پر شہادت بھی نصیب ہو گئی تو یہ ایسی شہادت ہوگی جو اپنی جلو میں جنت اور اس کی تمام نعمتوں کو لیے ہوگی اور جس پر ہزاروں برس کی زندگی بہ خوشی قربان کی جاسکتی ہے۔

اسی روز ابو بکرؓ نے دو اونٹنیوں کا انتظام کیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب ہجرت کا حکم نازل ہو کر انہیں رسول اللہؐ کی ہمرکابی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایک روز حسب معمول شام کے وقت آپ ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں یثرب کی جانب ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکرؓ نے بے تابی سے رفاقت کی خواہش ظاہر کی جسے آپ نے بڑی خوشی سے قبول فرمایا اور بعض ضروری ہدایات دے کر واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اسی دن قریش کے نوجوانوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب آپ باہر نکلتے ہیں اور انہیں کب آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنی

تکواروں کے جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے۔ آپؓ نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپؓ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ لیں اور بے خوف و خطر آپؓ کے بستر پر سو جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو آپؓ قریش کے لوگوں کو غفلت کی حالت میں پا کر اپنے گھر سے نکلے اور ابوبکرؓ کے پاس پہنچے۔ وہ جاگ رہے تھے، فوراً دونوں گھر کی پشت کی ایک کھڑکی سے باہر نکلے اور جانب جنوب تین چار میل کی مسافت طے کر کے غار ثور تک پہنچے اور وہاں چھپ گئے۔

صبح ہونے پر جب قریش کو رسول اللہؐ کے مکہ سے نکل جانے کا پتا چلا تو انہوں نے چاروں طرف آپؐ کی تلاش میں آدمی دوڑائے۔ مکہ کے قریب کوئی وادی کوئی میدان اور کوئی پہاڑ نہ تھا جو انہوں نے نہ چھان مارا ہو۔ وہ لوگ آپؐ کو تلاش کرتے کرتے غار ثور تک بھی پہنچ گئے اور ایک آدمی نے غار میں اترنے کا ارادہ بھی کیا۔ جب ابوبکرؓ نے ان لوگوں کی آوازیں سنیں تو ان کی پیشانی سے پسینہ چھوٹ پڑا اور انہوں نے اپنا سانس تک روک لیا مبادا کسی قسم کی آواز نکل کر دشمنوں کو ان کے یہاں ہونے کا احساس دلادے، لیکن رسول اللہؐ بڑے اطمینان سے اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہے۔ جب آپؐ نے ابوبکرؓ کی گھبراہٹ دیکھی تو جھک کر ان کے کان میں کہا لا تحزن ان اللہ معنا (ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے) ادھر قریشی نو جوان نے اپنی نظر غار کے ارد گرد دوڑائی تو دیکھا کہ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالاتن دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ واپس ہو گیا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس سے غار میں نہ اترنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالاتن رکھا ہے۔ اگر محمدؐ غار میں جاتے تو یقیناً جالاتھوٹ جاتا اس لیے میں واپس آ گیا۔ یہ سن کر وہ لوگ حالت مایوسی میں وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ دور نکل گئے تو رسول اللہؐ نے پکار کے فرمایا ”اللہ اکبر، اللہ اکبر“ ابوبکرؓ بھی خدا کی قدرت کا یہ عجیب تماشا دیکھ کر وجد میں آ گئے۔

غار ثور میں گھبراہٹ کی وجہ:

اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابوبکرؓ کی گھبراہٹ..... جس کے باعث ان کی

پیشانی سے پسینے چھوٹنے لگے تھے اور ان کا سانس تک رک گیا تھا..... اپنی جان بچانے کے خوف سے تھی یا اس وجہ سے کہ رسول اللہؐ کا بال بیکانہ ہو جائے؟ آیا اس وقت انہیں اپنی جان کا خیال تھا یا رسول اللہؐ اور صرف رسول اللہؐ کی جان کا؟ اس کا تسلی بخش جواب ہمیں مندرجہ ذیل روایات میں ملتا ہے۔

ابن ہشام، حسن بن ابوالحسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہؐ اور ابو بکرؓ آدھی رات کو غار پر پہنچے تو آپؐ نے پہلے ابو بکرؓ غار میں داخل ہوئے اور اسے اچھی طرح دیکھا بھالا، مبادا اس میں کوئی سانپ، بچھو یا درندہ چھپا بیٹھا ہو اور رسول اللہؐ کو خدا نخواستہ کوئی ضرر پہنچ جائے۔ بالکل یہی جذبہ ان کا ان نازک لمحات میں تھا جب انہوں نے غار کے سرے پر قریش کے نوجوانوں کو دیکھا اس وقت انہوں نے جھک کر رسول اللہؐ کے کان میں کہا ”اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے نظر کرے تو یقیناً ہمیں دیکھ لے گا۔“ اس وقت ابو بکرؓ گواپنی جان کا مطلق خیال نہ تھا اگر خیال تھا تو صرف رسول اللہؐ کا اور اس دین کا جس کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی کوئی حقیقت نہ سمجھی تھی۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اگر اس وقت خدا نخواستہ کفار نے رسول اللہؐ پر قابو پا لیا تو دین اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اپنی ذات کا خیال انہیں آ ہی کس طرح سکتا تھا جب انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہؐ کی محبت اور دین اسلام کے عشق میں بالکل جذب کر لیا تھا۔

وہ تو اپنے نفس کو پہلے ہی عشق رسول اللہؐ میں فنا کر چکے تھے۔ اس لیے اللہ کے رستے میں دوبارہ فنا ہونے سے انہیں کیا ڈر ہو سکتا تھا؟

تاریخ کے مطالعے سے متعدد ایسے اشخاص کے حالات معلوم ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اپنے سرداروں اور بادشاہوں پر قربان کر دیں۔ آج کل بھی اکثر زعماء ایسے ہیں جنہیں ان کے معتقدین انتہائی تقدیس کی نگاہ سے دیکھتے اور انہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ لیکن ابو بکرؓ نے غار میں جو نمونہ دکھایا وہ ان سب سے الگ اور بالا حیثیت رکھتا ہے۔ کیا بادشاہوں اور لیڈروں کی تاریخوں میں ایسی کوئی مثال پائی جاتی ہے کہ ان کی رعایا یا معتقدین میں سے کسی فرد نے ان کے لیے ایسی قربانی پیش کی ہو؟ ایثار اور قربانی کی اس مثال کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے۔

جب کفار کا جوش و خروش کچھ ٹھنڈا پڑا اور انہیں ان دونوں کے ملنے سے مایوسی ہو گئی تو آپؓ اور ابو بکرؓ غار سے نکلے اور یثرب کا رخ کیا۔ راستے میں بھی بعض ایسے واقعات پیش آئے جو خطرے کے لحاظ سے اس واقعے سے کم نہ تھے جو غار میں پیش آچکا تھا۔ ابو بکرؓ نے مکہ سے نکلنے ہوئے پانچ ہزار درہم بھی ساتھ لے لیے تھے جو تجارت کے منافع میں سے ان کے پاس باقی بچ گئے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے ایک عام مہاجر کی سی زندگی بسر کرنی شروع کی اگرچہ ان کی حیثیت بدستور رسول اللہؐ کے وزیر اور مشیر کی تھی۔

مدینہ میں:

مدینہ میں ان کا قیام شہر کے نواح میں مقام سخ پر خارجه بن زید کے ہاں تھا جو قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارث سے تعلق رکھتے تھے۔ جب رسول اللہؐ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا سلسلہ قائم کر دیا تو ابو بکرؓ اور خارجه کو بھائی بھائی بنایا۔ جب ابو بکرؓ کے اہل و عیال مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تو انہوں نے ان سے مل کر روزی کے وسائل تلاش کرنے شروع کیے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے رشتہ داروں کی طرح ان کے رشتہ دار بھی انصار کی زمینوں پر ان کے مالکوں سے مل کر کام کرنے لگے جن میں خارجه بن زید بھی شامل تھے۔ خارجه کے ساتھ ان کے تعلقات اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی حبیبہ کو ان کے عقد میں دے دیا۔ حبیبہ کے لطن سے ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ ابو بکرؓ کی وفات کے وقت حبیبہ حالت حمل میں تھیں۔

ابو بکرؓ کے اہل و عیال ان کے ساتھ مقام سخ میں خارجه بن زید کے ہاں نہ ٹھہرے تھے، بلکہ ام رومان، ان کی بیٹی عائشہ اور ابو بکرؓ کے تمام لڑکے مدینہ میں حضرت ابو ایوبؓ کے انصاری کے مکان کے قریب مقیم تھے۔ ابو بکرؓ سے روزانہ وہاں آیا کرتے تھے البتہ ان کا مستقل قیام اپنی نئی بیوی کے ساتھ سخ ہی میں تھا۔

ہجرت کے چند روز بعد وہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ صرف وہی نہیں بلکہ آب و ہوا کی ناموافقت کے باعث اکثر مہاجرین بخار سے بیمار ہو گئے تھے۔ مکہ کی آب و ہوا، صحرا میں واقع ہونے کے باعث خشک تھی۔ اس کے مقابلے میں مدینہ کی آب و ہوا مرطوب تھی

کیونکہ وہ بارانی علاقہ تھا اور وہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی۔

جب انہیں اطمینان ہوا اور روزی کی طرف سے بے فکری نصیب ہوئی تو وہ اسلام کی اشاعت، رسول اللہؐ کی معاونت اور مسلمانوں کے نئے مرکز کے استحکام میں اسی طرح منہمک ہو گئے جس طرح مکہ میں مشغول رہتے تھے۔

غیرت ایمانی:

ابو بکرؓ نہایت نرم مزاج انسان تھے لیکن جب وہ یہود اور منافقین کی زبانوں سے دین خدا کے متعلق تمسخر آمیز باتیں سنتے تھے تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہتی تھی۔ مدینہ تشریف لانے پر رسول اللہؐ اور یہود کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت یہود اور مسلمانوں دونوں کو اپنے اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت اور اپنے اپنے رسول و رواج پر عمل کرنے کی آزادی حاصل تھی۔ یہود کا شروع میں یہ خیال تھا کہ وہ مہاجرین کو اپنے ڈھب پر لا کر انہیں مدینہ کے قبیلوں، اوس و خزرج کے خلاف استعمال کر سکیں گے لیکن چند ہی روز میں انہیں پتہ چل گیا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں اور مہاجرین و اہل مدینہ میں ایسا تعلق قائم ہو چکا ہے جو کسی صورت میں ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس وقت انہوں نے اپنی پہلی روش بدل کر مسلمانوں کی مخالفت پر کمر باندھی اور اسلام کے متعلق تمسخر اور استہزاء کی باتیں کرنی شروع کیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ چند یہودی اپنے ایک عالم فخاص کے گھر میں جمع ہوئے۔ اتفاق سے اسی وقت ابو بکرؓ بھی اسی طرف آنکے۔ انہوں نے یہودیوں کے اجتماع کو غنیمت جانتے ہوئے انہیں اسلام کی تبلیغ کرنی چاہی اور فخاص سے کہنے لگے:

”اے فخاص! اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ اللہ کی قسم! تم جانتے

ہو کہ محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اور اسی کی جانب سے تمہارے پاس وہ حق

لے کر آئے ہیں جسے تم تو ریت میں لکھا ہوا پاتے ہو۔“

یہ سن کر فخاص کے لبوں پر تمسخر آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا

”خدا کی قسم، اے ابو بکرؓ! ہمیں خدا سے کسی چیز کی حاجت نہیں، خود

اسے ہماری حاجت ہے۔ ہم اس کی طرف نہیں جھکے، بلکہ وہ ہماری

طرف جھکنے پر مجبور ہے۔ ہم اس کی مدد سے بے پروا ہیں لیکن وہ ہماری امداد سے مستغنی نہیں۔ اگر وہ ہماری امداد سے مستغنی ہوتا تو کبھی ہمارے مال ہم سے بطور قرض نہ مانگتا جس طرح تمہارے رسولؐ کا خیال ہے۔ اللہ تمہیں سود لینے سے منع کرتا ہے لیکن خود ہمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ ہم سے مستغنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟

اس ناپاک گفتگو سے فحاص کا مقصد دراصل اس آیت پر چوٹ کرنا تھا جس میں اللہ فرماتا ہے: **من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاً عفو له اضعافاً كثيرة** (کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا)

ابوبکرؓ نے فحاص کو اللہ کے قول اور اس کی وحی کا مذاق اڑاتے دیکھا تو وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور فحاص کے اتنے زور سے ایک تھپڑ مارا کہ اس کے حواس بجا نہ رہے اس کے بعد فرمایا:

”اے اللہ کے دشمن! اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم! میں تیری گردن اڑا دیتا۔“

کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ ابوبکرؓ نہایت رقیق القلب اور بردبار ہونے کے باوجود اس موقع پر جوش میں آ گئے حالانکہ آپؓ کی عمر بھی پچاس برس سے متجاوز ہو چکی تھی اور اس مرحلے پر بالعموم انسان میں جوش و خروش باقی نہیں رہتا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ غیرت ایمانی کا مظاہرہ تھا اور اس بات کا ثبوت کہ آپؓ اللہ کی آیات اور اس کے رسولؐ پر استہزاء کرنے کو کسی صورت برداشت نہ کر سکتے تھے۔

رومیوں کے غلبے کی پیش گوئی:

اسی قسم کی ایک اور بھی مثال ہمیں ابوبکرؓ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے دس سال قبل رونما ہوا تھا جب ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ کے دوران میں ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے تھے۔ چونکہ ایرانی مجوسی تھے اور رومی اہل کتاب اس لیے مسلمانوں کو

اہل کتاب کے مقابلے میں مشرکوں کے غالب آ جانے سے فطرتاً رنج پہنچا تھا۔ ان کی عین خواہش تھی کہ رومی فتح یاب ہوں کیونکہ وہ ان کی طرح اہل کتاب تھے۔ ایک مشرک نے ابوبکرؓ سے اس کا ذکر کیا اور اپنے ہم مذہب لوگوں کے فتح یاب ہونے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ یہ سن کر ابوبکرؓ کو سخت طیش آیا۔ اسی زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ الم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین (اگرچہ رومی ایرانیوں کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند ہی سال میں وہ پھر غالب آ جائیں گے) ابوبکرؓ نے اس پیشنگوئی کی بنا پر اس مشرک سے شرط لگائی کہ ایک سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ (بعد میں رسول اللہؐ کے ارشاد پر انہوں نے یہ مدت نو سال متعین کر دی) اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اسے دس اونٹ دیں گے۔

ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابوبکرؓ جیسے حلیم الطبع اور نرم مزاج انسان کا غصہ صرف اس وقت بھڑکتا تھا جب عقیدے اور ایمان کا سوال درپیش ہوتا تھا۔

جب سے ابوبکرؓ رسول اللہؐ کی بیعت کر کے آپ کے دین میں داخل ہوئے اسی وقت سے ان کی رگ رگ میں ایمان صادق رچ گیا تھا۔ ان کے تمام اعمال و افعال میں اسی ایمان صادق کا رنگ نمایاں تھا۔ خاندان، خواہشات، غرض دنیا کی کوئی بھی چیز جو لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہو، ان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسولؐ کے مقابلے میں بالکل ہیچ تھی۔ ان کا جسم، دل و دماغ اور ان کی روح خالص اللہ اور اس کے رسولؐ کے لیے تھی۔ یہی جذبہ ایمانی تھا جس نے انہیں روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا کر صدیقین کے زمرے میں شامل کر دیا۔

جنگ بدر:

ہجرت کے کچھ عرصے بعد بدر کا معرکہ پیش آتا ہے۔ قریش مکہ اور مسلمان اپنی اپنی صفیں مرتب کیے ایک دوسرے کے بالمقابل میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ مسلمانوں نے حضرت سعد بن معاذ کے مشورے سے قریب کی ایک پہاڑی پر ایک شامیانہ لگا دیا اور رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ آپ اس شامیانہ میں تشریف رکھیں اور اگر مسلمانوں کی حالت

دگرگوں دیکھیں تو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ ابو بکر بھی رسول اللہ کے ہمراہ تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی اور رسول اللہ نے دشمن کی کثرت اور مسلمانوں کی کمی دیکھی تو آپ نے قبلہ رو ہو کر اپنے آپ کو خدا کے حضور گرا دیا اور اس سے اس کے وعدوں کی یاد دلا دلا کر مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں مانگنی شروع کیں۔ آپ فرما رہے تھے:

”اللهم هذه قریش قدانت بخيلائها تحاول ان تكذب رسولك! اللهم فنصرك الذي وعدتني! اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لاتعبدا“ (اے اللہ! یہ قریش اپنے عظیم الشان لشکر کے ہمراہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ! اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے مسلمانوں کی فتح کے متعلق کیا ہے۔ اے اللہ! اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو آئندہ تیرا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا)۔

آپ اس قدر زاری اور اتنی بے چینی اور گھبراہٹ کی حالت میں اپنے رب کو پکار رہے اور ہاتھ دعا کے لیے پھیلا رہے تھے کہ بار بار آپ کی چادر زمین پر گر جاتی تھی۔ بالآخر آپ پر غنودگی کی حالت طاری ہوئی اور اللہ کی طرف سے ایک بار پھر بڑے زور سے مسلمانوں کی فتح و نصرت کی خوشخبری دی گئی۔ آپ مطمئن ہو کر شامیانے سے باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے مسلمانوں کو کفار پر حملہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ آپ فرما رہے تھے: ”مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ آج کے روز ہر شخص کفار سے لڑے گا اور اس حالت میں شہید کیا جائے گا کہ اس کے پیش نظر صرف اللہ کی رضا اور اس کے دین کی مدد کا جذبہ ہوگا اور اس نے میدان جنگ میں کفار کو پیٹھ نہ دکھائی ہوگی، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔“

گو پہلے ہی سے اللہ نے رسول اللہ کو فتح کی خوشخبری دے دی تھی لیکن اس کے باوجود آپ برابر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے جب تک ایک بار پھر اللہ کی طرف سے واشکاف الفاظ میں مسلمانوں کی فتح و نصرت کا وعدہ نہ دے دیا گیا اور آپ کو دلی اطمینان نصیب نہ ہو گیا۔

واقعی ایک پیغمبر کی شان یہی ہوتی ہے۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور وہ ضرور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ علم بھی تھا کہ اللہ غنی عن العالمین بھی ہے ممکن ہے کہ مسلمانوں سے دوران جنگ میں کوئی ایسی کوتاہی سرزد ہو جائے

جس کے باعث فتح و نصرت کا وعدہ دور جا پڑے اور مسلمان اولین مرحلے میں اپنا مقصود حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔

اس پورے عرصے میں ابو بکرؓ رسول اللہؐ کے ساتھ ساتھ رہے انہیں یقین تھا کہ اللہ ضرور مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اسی لیے وہ حیرت و تعجب سے آپؐ کی مناجات سن رہے تھے۔ آپؐ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے اور اسے اس کا وعدہ یاد دلارہے تھے۔ آپؐ کی چادر بار بار زمین پر گر پڑتی تھی اور اسے ابو بکرؓ اٹھا کر آپؐ کے کندھوں پر ڈالتے اور کہتے تھے:

”یا رسول اللہ! آپؐ گھبرائیں نہیں۔ اللہ نے آپؐ کو فتح و نصرت کا وعدہ دیا ہے اور وہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔“

اکثر دیکھا گیا ہے، بعض لوگ اپنے عقیدے میں اس قدر راسخ ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے جو ان عقائد میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ حقیقی ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ مخالفین سے تعصب، تندہی اور سختی کا برتاؤ کیا جائے۔ لیکن ابو بکرؓ کامل الایمان ہونے کے باوجود نہایت نرم دل انسان تھے۔ سب و شتم، تندہی اور سختی سے وہ کوسوں دور تھے۔ قابو پانے کے بعد مخالف کو معاف کر دینا اور فتح یاب ہونے کے بعد دشمن پر احسان کرنا ان کا شیوہ تھا۔ اس طرح ان میں حق و صداقت کی محبت اور رحم و کرم کا جذبہ بہ یک وقت پایا جاتا تھا۔ حق کے راستے میں وہ ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی ہچ سمجھتے تھے اور اعلیٰ کلمۃ الحق کی خاطر ہر قسم کی قربانی کرنے کو بخوشی تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن جب حق غالب آ جاتا تو دشمن سے سختی کا برتاؤ اور اس سے مظالم کی جواب دہی کرنے کے بجائے ان میں رحم و کرم کا جذبہ ابھر آتا تھا۔

اسیران بدر کی سفارش:

مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی اور وہ قریش کے ستر قیدی ہمراہ لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ یہ قیدی وہی تھے جنہوں نے مکہ میں تیرہ برس تک مسلمانوں پر سخت مظالم ڈھائے تھے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ انہیں دکھائی دے رہا تھا کہ ان مظالم کا بدلہ

چکانے کا وقت آپہنچا ہے اور اب مسلمان ان پر جس قدر بھی سختی کریں کم ہے۔ اپنے آپ کو مسلمانوں کی سختیوں سے بچانے کی کوئی تدبیر انہیں اس کے سوا سمجھ میں نہ آئی کہ وہ ابو بکرؓ سے رحم کی التجا کریں۔ چنانچہ قریش نے انہیں بلایا اور کہا:

”اے ابو بکر! تم جانتے ہو کہ ہم قیدیوں میں سے کوئی تم لوگوں کا باپ ہے کوئی بھائی، کوئی چچا ہے اور کوئی ماموں۔ اب اگر تم ہمیں قتل کرو گے یا ایذا پہنچاؤ گے تو اپنے قریبی رشتہ داروں ہی کو قتل کرو گے یا ایذا پہنچاؤ گے۔ ہم رشتہ داری کا واسطہ دے کر تم سے التجا کرتے ہیں کہ تم محمدؐ سے کہہ کر ہماری جان بخشی کرادو۔ یا وہ ہم پر احسان کر کے ہمیں رہا کر دیں یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں۔“

ان کی یہ عاجزانہ التجا سن کر ابو بکرؓ نے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر کریں گے۔ قریش کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں عمرؓ کوئی گڑبڑ نہ کر دیں۔ انہوں نے حضرت عمرؓ کو بلا کر ان سے بھی وہی بات کہی جو حضرت ابو بکرؓ سے کہی تھی۔ حضرت عمرؓ نے خشمگین نظر سے انہیں دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ ابو بکرؓ اپنے وعدے کے مطابق رسول اللہؐ کے پاس گئے اور آپ سے ان مشرک قیدیوں کی سفارش کی۔ حضرت عمرؓ کی رائے یہ تھی کہ ان سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے لیکن حضرت ابو بکرؓ نے اصرار کر کے اپنی بات منوائی لی اور تمام قیدی زرفدیہ کے عوض رہا کر دیئے گئے۔

ابو بکرؓ کا یہ فعل ان کی پاکیزگی قلب اور حد درجہ نرم دلی پر دلالت کرتا ہے۔ شاید یہ وجہ بھی ہو، انہوں نے دور بین نظر سے اس امر کا مشاہدہ کر لیا تھا کہ مشرکین مکہ بالآخر رحم کے مظاہروں ہی کے ذریعے سے مغلوب ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ رسول اللہؐ نے ہر قسم کی طاقت و قوت رکھنے کے باوجود ان سے مروت و احسان کا سلوک کیا ہے تو وہ آپ سے آپ اسلام کی آغوش میں آگریں گے۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ ظاہری قوت کے ذریعے سے مخالف پر جسمانی لحاظ سے تو قابو پایا جاسکتا ہے لیکن اس کے دل کو مطیع نہیں کیا جاسکتا۔ مخالف کے دل پر اسی وقت فتح حاصل کی جاسکتی ہے جب طاقت کے ذریعے سے نہیں بلکہ پیار اور محبت کے ذریعے سے اسے اپنی طرف مائل کیا جائے۔

جنگ بدر کے بعد:

غزوہ بدر جس طرح مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا اسی طرح ابو بکرؓ کی کتاب زندگی کا بھی ایک نیا ورق تھا۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے ایک نئے نہج سے اپنی سیاست کو مرتب کرنا شروع کیا۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کو بہت بڑی سیاسی اہمیت حاصل ہو گئی تھی اور ان کے مخالفین کے دلوں میں ان کی جانب سے حسد اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس فتح نے جہاں یہود کو چوکنا کر دیا تھا اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب مسلمان ان کے دست نگر بن کر نہیں رہ سکتے وہاں مدینہ کے ارد گرد بسنے والے قبائل کو بھی یہ فکر پیدا ہو گیا تھا کہ مبادا مسلمانوں کا رخ ان کی طرف پھر جائے۔ چنانچہ یہود اور مدینہ کے نواحی قبائل نے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔

ان امور کی موجودگی میں رسول اللہؐ کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ آپ ہر آن اور ہر لمحہ سختی سے صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں اور صحابہ سے مشورہ لینے کے بعد ان حالات کے مطابق اپنی پالیسی وضع کریں۔ ابو بکرؓ اور عمرؓ آپ کے خاص الخاص مشیر تھے۔ ان دونوں کی طبیعتوں میں بے حد فرق تھا لیکن یہ ایں ہمہ دونوں نہایت مخلص اور رسول اللہؐ کے جاں نثار تھے اور ہر مشورہ انتہائی غور و فکر سے دیتے تھے۔ ان مشوروں کی روشنی میں رسول اللہؐ کے لیے راہ عمل متعین کرنے میں بہت آسانی رہتی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ آپ دوسرے مسلمانوں کو بھی اپنے مشوروں میں برابر شریک کرتے تھے جس کا اثر لوگوں پر بہت اچھا پڑتا تھا اور ہر شخص خیال کرتا تھا کہ اسے رسول اللہؐ کا اعتماد حاصل ہے اور آپ اسے بھی مشوروں میں شریک کر کے خدمت کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔

جنگ احد:

یہود کی ریشہ دوانیاں بالآخر رنگ لائیں اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار کھلم کھلا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مجبوراً بنو قینقاع کا محاصرہ کر کے انہیں مدینہ سے جلا وطن کرنا پڑا۔ ارد گرد کے قبائل نے بھی مسلمانوں کے

خلاف اپنی طاقتیں مجتمع کرنی شروع کر دیں۔ لیکن ان کی سرگرمیاں بھی مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ جب وہ سنتے کہ مسلمانوں کا کوئی دستہ ان کی سرکوبی کے لیے متعین کیا گیا ہے تو وہ بھاگ جاتے اور مقابلے کے لیے میدان میں نہ نکلتے۔

یہ تمام خبریں تو اتر سے مکہ پہنچ رہی تھیں لیکن مسلمانوں کی یہ تمام کامیابیاں مشرکین مکہ کو جنگ بدر کا انتقام لینے کے عزم سے باز نہ رکھ سکیں اور ایک سال بعد انہوں نے پھر ایک لشکر جرار کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کر دی جس پر احد کا معرکہ پیش آیا۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کفار نے شکست کھا کر بھاگنا شروع کیا لیکن بعض مسلمانوں کی بے تدبیری کے باعث جنگ کا پانسہ پلٹ گیا۔ رسول اللہؐ نے ان لوگوں کو ایک گھاٹی پر متعین کیا تھا تا کہ دشمن پشت کی طرف سے حملہ نہ کر سکے۔ لیکن جب انہوں نے کفار کو بھاگتے اور مسلمانوں کو مال غنیمت جمع کرتے دیکھا تو وہ رسول اللہؐ کی ہدایت فراموش کر کے اپنی جگہ چھوڑ کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ خالد بن ولیدؓ نے دور سے یہ سارا ماجرا دیکھ کر موقع کو غنیمت جانا اور پشت کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے اور منتشر ہو گئے۔ اس دوران میں رسول اللہؐ کو بھی کفار کی سنگ باری سے زخم آئے۔ قریش نے شور مچا دیا کہ محمد مارے گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کی ہمتوں کو بالکل ہی پست کر دیا۔ اگر بعض جاں نثار صحابہ آپؐ کے چاروں طرف کھڑے ہو کر دشمن کی لگاتار یورش کا مقابلہ نہ کرتے اور آپؐ خدا نخواستہ شہید ہو جاتے تو پھر اسلام کا خاتمہ تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپؐ کو دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا اور مسلمان عارضی انتشار کے بعد پھر مجتمع ہو گئے۔ اس دن ابو بکرؓ نے بھی بہادری کا مظاہرہ کرنے میں دوسروں سے کم حصہ نہ لیا۔

فتح مکہ تک کا پورا عرصہ مسلمانوں کو کفار سے جنگ یا اس کی تیاریاں کرتے گزارنا پڑا۔ ایک طرف یہود حبی بن اخطب کے زیر سرکردگی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے سوچ رہے تھے، دوسری طرف قریش مکہ اپنی پوری طاقت سے مسلمانوں کو زیر کرنے اور ان پر غالب آنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں اور لڑائیوں کے علاوہ بنو نضیر، خندق (احزاب) اور بنو قریظہ کے غزوات یہود کی فتنہ انگیز سیاست اور

قریش کے غیظ و غضب کے نمایاں مظاہر ہیں۔ ان تمام لڑائیوں اور غزوات میں ابو بکرؓ نے ہمیشہ رسول اللہؐ کے دوش بہ دوش حصہ لیا اور دوسرے تمام مسلمانوں سے زیادہ بہادری، صدق و ثبات اور ایمان کا ثبوت دیا۔

صلح حدیبیہ:

ہجرت کے چھ سال بعد رسول اللہؐ نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کو مکہ چلنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملنے پر قریش نے تہیہ کر لیا کہ وہ کسی صورت آپ اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ رسول اللہؐ مکہ سے کچھ فاصلے پر حدیبیہ میں فروکش ہوئے اور مکہ والوں کو کہلا بھیجا کہ آپ کے آنے کا مقصد جنگ اور قریش مکہ سے چھیڑ چھاڑ کرنا نہیں بلکہ صرف عمرہ کرنا ہے۔ قریش کے سفیر آپ کے پاس آنے شروع ہوئے۔ بالآخر یہ معاہدہ ہوا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔

مسلمانوں اور بالخصوص حضرت عمرؓ بن خطاب کو معاہدے کی شرطیں سخت ناگوار گزریں۔ وہ ان شرائط کو اپنی ہتک سمجھتے اور اپنی کمزوری کا مظاہرہ خیال کرتے تھے لیکن ابو بکرؓ صدق دل سے رسول اللہؐ کے ہر قول و فعل کے آگے سر تسلیم کیے ہوئے تھے اور انہیں پختہ یقین تھا کہ آپ کی کوئی بات اور کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ یقیناً دین اسلام اور مسلمانوں کے فائدے کی خاطر کیا ہے۔ اس طرح آپ نے ایک بار پھر عمل سے اپنا صدیق ہونا ثابت کر دیا۔

بعد ازاں جب سورہ فتح نازل ہوئی تو مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ اصل میں ایک فتح مبین ہے جو اللہ نے رسول کو عطا فرمائی ہے۔

اب مسلمانوں کو آئے دن قوت اور روز افزوں ترقی حاصل ہونے لگی۔ خیبر، فدک اور یمامہ میں یہود کا محاصرہ کیا گیا اور انہیں مطیع ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ رسول اللہؐ نے فارس، روم، مصر، حیرہ، یمن اور دوسرے علاقوں کے بادشاہوں اور امراء کو خطوط لکھے جن میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ فتح مکہ اور محاصرہ طائف کی وجہ سے مسلمانوں کی

ترقی عروج پر پہنچ گئی۔ سارا جزیرہ نمائے عرب اسلام کے نور سے جگمگا اٹھا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں ایران اور روم کی عظیم الشان حکومتوں سے ٹکرانے لگیں جو اس زمانے میں دنیا کے بیشتر حصے پر قابض تھیں۔ اس وقت رسول اللہؐ اور مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب کوئی طاقت اس نور کو بجھا نہیں سکتی اور اسلام کا غلبہ اب کسی کے روکے رک نہیں سکتا۔

جب عربوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی قوت روز بروز ترقی پذیر ہے اور ان کے منصوبے اور کوششیں اسے ضعف پہنچانے کے بجائے اس کی ترقی میں مدد و معاون ثابت ہو رہی ہیں تو وہ فوج در فوج عرب کے گوشے گوشے سے اسلام قبول کرنے کے لیے دوڑے چلے آنے لگے۔ دیدہ بینا کے لیے یہ بات کس قدر اثر انگیز ہے کہ ایک شخص یکہ و تنہا ایک مشن لے کر اٹھتا ہے، اس کی قوم اس کے ساتھ نہیں، یہود اس کے مخالف ہیں، قبائل عرب اس کے دشمن ہیں لیکن وہ تمام مخالفتوں، رکاوٹوں اور پے در پے حملوں کے باوجود بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے یہود، نصاریٰ مجوس اور مشرکین اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یقیناً حق ہی غالب ہوتا ہے اور باطل مغلوب۔ اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ رسول اللہؐ حق پر تھے یا ناحق پر اور آپؐ کی دعوت سچی تھی یا جھوٹی، صرف یہی دلیل کافی ہے کہ آپؐ نے شدید مخالفت کے ہوتے ہوئے ان تمام طاقتوں پر غلبہ حاصل کیا اور یہ طاقتیں اپنا پورا زور لگانے کے باوجود رسول اللہؐ کے مقابلے میں خائب و خاسر رہیں۔ آپؐ کا مقصد ان پر غلبہ حاصل کرنا اور انہیں فتح کر کے ان پر حکومت چلانا نہ تھا بلکہ آپؐ صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لا کر خدائی مملکت میں داخل ہو جائیں اور نیک اعمال بجالا کر جنت کے وارث بنیں۔

امیرالحج:

فتح مکہ کے بعد رسول اللہؐ کے سامنے سے تمام رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں اور آپؐ اسلام کے تمام فرائض و واجبات نہایت آسانی سے بجالا سکتے تھے۔ حج بھی ایک دینی فریضہ ہے۔ لیکن وفود کے جوق در جوق مدینہ آنے کی وجہ سے آپؐ کو مکہ جانے اور بیت اللہؐ کا حج

کرنے کی فرصت نہ مل سکی اس لیے فتح مکہ کے اگلے سال آپ نے اپنی جگہ ابو بکرؓ کو امیران مقرر فرما کر روانہ کیا۔ وہ تین سو مسلمانوں کو لے کر مکہ پہنچے اور وہاں حج کے فرائض ادا کیے۔ اسی حج کے موقع پر علیؓ بن ابی طالب نے اور بعض روایات کے مطابق خود ابو بکرؓ نے اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے مشرکین کے لیے چار مہینے کی مہلت کا اعلان کیا کہ اس عرصے میں وہ مکہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے جائیں۔ اس وقت سے آج تک کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کر سکے گا۔

حجۃ الوداع:

ہجرت کے دسویں سال رسول اللہؐ خود حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کیونکہ یہ آپؐ کا آخری حج تھا۔ آپؐ کے ساتھ ابو بکرؓ دوسرے صحابہ اور آپؐ کی ازواج مطہرات بھی تھیں۔ اس موقع پر عرفات کے میدان میں مسلمانوں کا بے نظیر اجتماع منعقد ہوا۔ یہی جگہ تھی جہاں کبھی کوئی شخص رسول اللہؐ کی بات تک سننے کو تیار نہ ہوتا تھا لیکن آج اسی جگہ ایک لاکھ سے زائد اشخاص آپؐ کی اونٹنی کے گرد سر جھکائے مودبانہ کھڑے تھے اور انتہائی خاموشی سے آپؐ کے روح پرور ارشادات سن رہے تھے۔

حج سے فارغ ہونے کے بعد آپؐ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ مدینہ آئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ آپؐ نے شام پر فوج کشی کرنے کے لیے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ جس کا سردار آپؐ نے اسامہؓ بن زید کو بنایا اور بڑے بڑے صحابہ کو، جن میں ابو بکرؓ و عمرؓ بھی شامل تھے، لشکر کے ساتھ جانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ یہ لشکر مدینہ کے ایک قریبی مقام جرف ہی تک پہنچا تھا کہ رسول اللہؐ کی علالت کی خبر آئی۔ یہ سن کر لشکر نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور وہ آپؐ کی زندگی میں شام روانہ نہ ہو سکا۔

نماز پڑھانے کا حکم:

جب رسول اللہؐ کی علالت نے شدت اختیار کی تو آپؐ نے حکم دیا کہ ابو بکرؓ لوگوں

کو نماز پڑھائیں۔

اس ذیل میں حضرت عائشہ کی ایک روایت قابل اندراج ہے۔ آپ فرماتی ہیں:

”جب رسول اللہؐ زیادہ بیمار ہوئے تو بلال نماز کے لیے عرض کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا ’ابوبکرؓ سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔‘ میں نے کہا ابوبکرؓ بہت رقیق القلب انسان ہیں۔ جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ضبط نہ کر سکیں گے اور اس طرح لوگوں کی نماز میں خلل پڑے گا۔ اگر آپ عمرؓ کو نماز پڑھانے کا حکم دیں تو بہتر ہو۔“ آپ نے یہ سن کر پھر فرمایا۔ ’ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔‘ اس پر میں نے حفصہ سے کہا ’ابوبکرؓ رقیق القلب ہیں وہ نماز میں رونا شروع کر دیں گے اور لوگوں کی نماز میں خلل پڑے گا۔ تم رسول اللہؐ سے کہو کہ وہ ابوبکرؓ کی جگہ عمرؓ کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔‘ چنانچہ حفصہ نے جا کر یہی بات آپ سے کہہ دی۔ اس پر آپ نے فرمایا یقیناً یقیناً تم وہی عورتیں ہو جنہوں نے یوسفؑ کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ ابوبکرؓ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس پر حفصہ نے مجھ سے کہا ’تم نے مجھے ناحق شرمندہ کرایا۔‘“

رسول اللہؐ کے حسب ارشاد ابوبکرؓ نے نماز پڑھائی۔ ایک دن ابوبکرؓ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلالؓ نے حضرت ابوبکرؓ کو نہ پا کر حضرت عمرؓ سے نماز پڑھانے کو کہا۔ حضرت عمرؓ بلند آواز تھے۔ جب آپ نے تکبیر کہی تو اس کی آواز حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول اللہؐ کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا ”ابوبکرؓ کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ابوبکرؓ نماز پڑھائیں۔“

بعض لوگ اس واقعے سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس طرح آپ نے اپنے بعد خلافت کا فیصلہ فرما کر ابوبکرؓ کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا کیونکہ لوگوں کو نماز پڑھانا رسول اللہؐ کی جانشینی کا پہلا مظہر ہے۔

ابو بکرؓ، رسولؐ کی نظر میں:

بیماری کے دوران ہی میں ایک روز رسول اللہؐ مسجد میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا:

”اللہ نے اپنے بندے کو یہ حق دیا کہ خواہ وہ دنیا کو اختیار کرے خواہ

آخرت کو لیکن اس نے آخرت میں اللہ کے قرب کو اختیار کیا۔“

ابو بکرؓ سمجھ گئے کہ رسول اللہؐ خود اپنا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ہچکی بندھ گئی اور انہوں نے کہا:

”یا رسول اللہؐ! آپ پر ہماری جانیں اور ہماری اولاد قربان ہو کیا ہم آپ کے بعد زندہ رہ سکیں گے؟“

رسول اللہؐ نے یہ سن کر فرمایا ”مسجد میں لوگوں کے گھروں کے جس قدر دروازے ہیں وہ بند کر دیئے جائیں سوا ابو بکرؓ کے دروازے کے۔“ پھر ابو بکرؓ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

”میں نے اپنے صحابہ میں سے ابو بکرؓ سے افضل کسی کو نہیں پایا اور اگر

میں بندوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکرؓ کو بناتا لیکن ابو بکرؓ سے

میرا تعلق ہم نشینی، بھائی چارے اور ایمان کا ہے یہاں تک کہ اللہ

ہمیں اپنے پاس اکٹھا کرے۔“

وفات کے دن صبح کے وقت رسول اللہؐ حضرت علیؓ اور فضل بن عباسؓ کا سہارا لیے

ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکرؓ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب لوگوں نے آپ

کو دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ نماز ہی میں رستہ بنانے کے لیے ادھر ادھر سمٹنے

لگے۔

۱۔ یہ روایت ابن ہشام کی ہے یہی حدیث صحاح میں مختلف الفاظ سے آئی ہے۔ ان میں سے کسی میں

”بندوں“ کا لفظ نہیں بلکہ بعض میں ”میری امت“ بعض میں ”اس امت“ بعض میں ”لوگوں“ اور بعض میں ”اہل

زمین“ کے الفاظ ہیں۔

رسول اللہؐ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کا حکم دیا۔ جب ابوبکرؓ نے آہٹ سنی تو سمجھ گئے کہ رسول اللہؐ تشریف لائے ہیں۔ اس پر وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے تاکہ آپ کے لیے جگہ خالی کر دیں لیکن رسول اللہؐ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ ہی کھڑا رہنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ ابوبکرؓ کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی۔

نماز کے بعد آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو دو بارہ بخار آ گیا۔ آپ نے ایک برتن میں ٹھنڈا پانی منگوا یا اور اسے اپنے چہرے پر ملنے لگے۔ اس سے تھوڑی دیر بعد آپ کی مقدس روح ملاء اعلیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔



دوسرا باب

بیعت خلافت

وفات رسول اللہؐ پر مسلمانوں میں سراپیمگی:

۱۲۔ ربیع الاول ۱۱ھ مطابق ۳۔ جون ۶۳۲ء کو اللہ نے رسول اللہ کو جو رحمت میں بلا لیا۔ اس دن صبح کے وقت آپؐ نے مرض میں کچھ افاقہ محسوس کیا جس پر آپؐ حضرت عائشہؓ کے حجرے سے نکل کر مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں سے کچھ باتیں کیں، اسامہ بن زید امیر لشکر کی کامیابی کی دعا کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ مملکت روم کی جانب روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد آپؐ واپس حجرے میں تشریف لے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب لوگوں کو اچانک معلوم ہوا کہ ان کا محبوب آقا ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے تو ان کی حالت مارے غم کے دیوانوں کی سی ہو گئی۔ حضرت عمر تلوار لے کر مسجد میں کھڑے ہو گئے اور کہنا شروع کیا:

”جو شخص کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپؐ ہرگز فوت نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے ہیں۔ اسی طرح جیسے موسیٰ تشریف لے گئے تھے اور چالیس رات غیر حاضر رہنے کے بعد واپس اپنی قوم میں آ گئے تھے رسول اللہؐ بھی یقیناً واپس آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔“

رسول اللہؐ کو حضرت عائشہؓ کے حجرے میں واپس پہنچانے کے بعد ابو بکرؓ آپؐ کی صحت کے بارے میں مطمئن ہو کر مدینہ کے نواح میں اپنے گھر تشریف لے گئے تھے جو

مقامِ سخن میں تھا۔ جب آپؐ کی خبر وفات پھیلی تو ایک شخص نے ابو بکرؓ کو جا کر خبر کی۔ وہ فوراً مدینہ آئے۔ مسجد نبویؐ میں حضرت عمرؓ ملواری ہاتھ میں لیے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے مگر انہوں نے اس طرف التفات نہ فرمایا بلکہ سیدھے حضرت عائشہؓ کے حجرے میں چلے گئے جہاں رسول اللہؐ کا جسد اطہر رکھا ہوا تھا۔ ابو بکرؓ نے رخ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور رخسار کو بوسہ دے کر فرمایا ”کیا ہی بابرکت تھی آپؐ کی زندگی اور کیا ہی پاکیزہ ہے آپؐ کی موت“ اس کے بعد حجرے سے باہر آئے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا۔

”ایہا الناس، من کان یعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت“ (اے لوگو! جو شخص محمدؐ کو پوجتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمدؐ تو فوت ہو گئے لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ یقیناً زندہ ہے اور اس پر کبھی موت وارد نہ ہوگی)۔
اس کے بعد یہ آیت پڑھی:

”وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئاً وسیجزی اللہ الشاکرین۔“
(محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر محمدؐ وفات پا جائیں یا شہید کر دیئے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل (کفر کی جانب) پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ اللہ کو ذرا سا بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا اور عنقریب اللہ شکر گزار بندوں کو نیک بدلہ دے گا)۔

جب حضرت عمرؓ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہؐ فوت ہو چکے ہیں۔ اس یقین کا ان پر اتنا شدید اثر ہوا کہ ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ نہ سہار سکیں اور وہ بے سدھ ہو کر زمین پر گر پڑے۔

آئیے ذرا غور کریں اور اپنے نفوس میں اس واقعے کا بنظر غائر جائزہ لیں جس سے ابو بکرؓ کی شخصیت کا ایک اور عظیم الشان پہلو واضح ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں سے اگر کوئی

شخص ایسا تھا جو رسول اللہؐ کی وفات کے صدمے کے اثر سے اس حد تک پہنچ سکتا تھا جس حد تک حضرت عمرؓ پہنچے تو وہ صرف ابو بکرؓ ہو سکتے تھے کیونکہ وہ آپ کے صفی اور ہم نشین تھے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر آپ کی خدمت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی تھی۔ جب رسول اللہؐ نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو حق دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا کی زندگی اختیار کر لے یا آخرت کی زندگی اور اس نے آخرت کی زندگی اختیار کر لی تو ابو بکرؓ کی روتے روتے ہچکی بندھ گئی تھی اور آپ نے کہا تھا ”یا رسول اللہ! آپ پر ہماری جانیں اور ہماری اولاد قربان ہو، کیا ہم آپ کے بعد زندہ رہ سکیں گے؟“ لیکن رسول اللہؐ کی وفات کا سخت صدمہ آپ کو حضرت عمرؓ کی طرح بے ہوش نہ کر سکا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ آپ ملاء اعلیٰ کو تشریف لے گئے ہیں تو انہوں نے فوراً مجمع عام میں آ کر اس کا اعلان کر دیا۔

ابو بکرؓ کا ضبط نفس:

جو تقریر انہوں نے اس وقت کی اور جو آیت اس موقع پر پڑھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں اپنے نفس پر کتنا قابو حاصل تھا اور ان میں مصائب کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی کتنی زبردست قوت موجود تھی کہ رسول اللہؐ کی وفات جیسے عظیم الشان صدمے کی بھی خبر سن کر انہوں نے ہوش و حواس بجا رکھے اور ان پر کسی قسم کی سراسیمگی طاری نہ ہوئی۔ ہماری حیرت اور تعجب کی انتہا نہیں رہتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اوصاف ایک ایسے شخص سے ظاہر ہوئے جو انتہائی رقیق القلب تھا اور جو رسول اللہؐ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ یہ گھڑی مسلمانوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ ابو بکرؓ نے نہ صرف ایسے سخت وقت میں اپنے اوسان بجا رکھے بلکہ بعد میں بھی جب کبھی مسلمانوں پر کوئی برا وقت پڑا تو اسی قوت ارادی اور الوالعزمی سے کام لے کر تمام خطرات کو دور کر دیا۔ یہی قوت ارادی تھی جسے بروئے کار لا کر ابو بکرؓ نے مسلمانوں اور اسلام کو ایک ایسے فتنے سے بچا لیا جو اگر خدا نخواستہ شدت اختیار کر لیتا تو نہ معلوم اسلام کا کیا حشر ہوتا۔

مسئلہ خلافت:

حضرت عمرؓ اور وہ لوگ جو مسجد میں ان کے گرد جمع تھے، انتہائی رنج و الم کے باعث سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ رسول اللہؐ کے بعد مسلمانوں کی شیرازہ بندی کا کیا انتظام ہونا چاہیے لیکن جن لوگوں کو آپؐ کی وفات کا یقین ہو گیا تھا ان کی نظر سب سے پہلے اسی مسئلے پر پڑی اور حزن و الم انہیں اہم معاملے پر غور و فکر کرنے سے روک نہ سکا۔

ہجرت کے بعد مدینہ کا سارا انتظام رسول اللہؐ کے ہاتھ میں تھا۔ آپؐ کی حکومت صرف مدینہ تک محدود نہ رہی بلکہ آہستہ آہستہ سارے عرب پر محیط ہو گئی۔ عرب کے تقریباً تمام باشندے مسلمان ہو گئے اور جو لوگ مسلمان نہ ہوئے انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اب مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس سلطنت کا انتظام کون سنبھالے گا اور رسول اللہؐ کی جانشینی کا فخر کسے نصیب ہوگا؟

انصار اور مہاجرین میں اختلاف:

انصار کا خیال تھا کہ انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور آڑے وقت میں جب ان کی اپنی قوم نے انہیں نکال دیا تھا ان کی مدد کی، اس لیے خلافت کے حق دار وہ ہیں۔ رسول اللہؐ کی زندگی میں بھی انصار کے بعض لوگوں کی زبانوں سے اس قسم کے فقرات نکل گئے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مہاجرین پر فائق سمجھتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب حنین اور طائف کے معرکے پیش آئے اور کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا تو رسول اللہؐ نے مکہ کے ان لوگوں کی تالیف قلوب کے لیے جو نئے نئے اسلام لائے تھے اور ان جنگوں میں شریک ہوئے تھے مال غنیمت انہیں میں تقسیم کر دیا۔ یہ دیکھ کر انصار کے بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ خون تو ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور مال مکہ والے لے گئے ہیں۔ جب رسول اللہؐ کو یہ اطلاع ملی تو آپؐ نے خزر ج کے سردار سعد بن عبادہ کو حکم دیا کہ وہ تمام انصار کو جمع کریں۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپؐ نے فرمایا:

”اے انصار! تم لوگوں کی طرف سے مجھے ایک بات پہنچی ہے جس

سے معلوم ہوتا ہے کہ غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں تم لوگوں کو شکایت ہے لیکن اس بات سے قطع نظر مجھے اس بات کا جواب دو، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے، میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تم غریب تھے میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں امیر بنایا۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، میرے ذریعے سے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا کی۔“

انصار نے یہ سن کر شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا:
 ”یا رسول اللہ! بیشک اللہ اور اس کے رسولؐ نے ہم پر بڑے بڑے احسانات کیے۔“
 رسولؐ نے پھر فرمایا:

”اے انصار! تم جواب کیوں نہیں دیتے؟“
 لیکن وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھے رہے اور اس کے سوا کچھ نہ کہا۔
 ”یا رسول اللہ! ہم آپؐ کو کیا جواب دیں؟ یقیناً اللہ اور اس کے رسولؐ کے ہم پر بڑے بڑے احسانات ہیں۔“

اس پر خود رسول اللہؐ نے ان کی طرف سے جواب دیا:
 ”اللہ کی قسم! اگر تم چاہتے تو کہہ سکتے تھے اور تمہارا کہنا بالکل سچ ہوتا کہ اے رسول اللہ! آپؐ کی قوم نے آپؐ کی تکذیب کی، آپؐ ہمارے پاس آئے، ہم نے آپؐ کی تصدیق کی اور آپؐ پر ایمان لائے۔ آپؐ کی قوم نے آپؐ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ہم نے آپؐ کی مدد کی۔ آپؐ کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، ہم نے آپؐ کو پناہ دی۔ آپؐ غریبی اور تنگ دستی کی حالت میں ہمارے پاس آئے، ہم نے آپؐ کی ضرورت کا سارا سامان مہیا کیا۔ آپؐ دل شکستہ تھے، ہم نے آپؐ کی دل جوئی کی۔“

یہ الفاظ ادا کرتے وقت آپؐ پر ایک خاص قسم کی کیفیت اور تاثر طاری تھا۔ آپؐ

نے فرمایا:

”دنیا کی چند حقیر چیزوں کی خاطر تم نے یہ بات کہی ہے۔ میں نے وہ مال قریش کو محض تالیف قلوب کے لیے دیا تاکہ وہ اسلام پر پختہ ہو جائیں۔ تم پہلے ہی سے اسلام پر پختہ ہو۔ تمہیں تالیف قلوب کے لیے دینے کی ضرورت نہ تھی۔ اے انصار! کیا تم اس پر راضی نہیں کہ دوسرے لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے جاؤ۔ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کے راستے پر چلوں گا۔ اے اللہ! انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں کی اولاد پر رحم فرما۔“

رسول اللہؐ کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ان پر درد باتوں نے انصار پر بے حد اثر کیا۔ وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور سب نے بہ یک زبان کہا:

”ہم رسول اللہؐ کی تقسیم اور بخشش پر دل و جان سے راضی ہیں۔“

انصار کے اندیشوں کا اظہار حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت ہی نہ ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے فتح مکہ کے وقت بھی ہو چکا تھا جب انہوں نے رسول اللہؐ کو کوہ صفا پر اہل مکہ سے خطاب کرتے، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑتے، اور برسوں کے پرانے جانی دشمنوں کو اسلام کی آغوش میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس موقع پر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب رسول اللہؐ اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ واپس تشریف نہیں لے جائیں گے۔ بعض لوگوں نے اس کا اظہار کھلے لفظوں میں بھی کر دیا اور کہا:

اب کہ رسول اللہؐ نے مکہ فتح کر لیا ہے اور آپ کا وطن آپ کے قبضے

میں آچکا ہے آپ مدینہ کیوں واپس جانے لگے؟“

جب رسول اللہؐ کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا:

”میرا جینا اور مرنا سب تمہارے ساتھ ہے۔ میں تم سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔“

ان امور کی موجودگی میں رسول اللہؐ کی خبر وفات سنتے ہی انصار کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا قدرتی امر تھا کہ آیا مدینہ کا انتظام اور امور سلطنت کی دیکھ بھال ان مہاجرین کے ہاتھ میں رہے گی جو مکہ سے بہ حالت تباہ مدینہ پہنچے، اہل مدینہ نے انہیں پناہ دی اور انہیں عزت اور قوت و طاقت بخشی، یا یہ کام اہل مدینہ کے سپرد کیا جائے گا جن کے متعلق خود رسول اللہؐ فرما چکے ہیں کہ اللہ کے رسولؐ کی تکذیب کی جارہی تھی، آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی۔ آپ کو آپ کی قوم نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے آپ کی مدد کی۔ آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، انہوں نے آپ کو پناہ دی۔ آپ دل شکستہ تھے، انہوں نے آپ کی دل جوئی کی۔

سقیفہ بنی ساعدہ:

اسی مسئلے کو طے کرنے کے لیے بعض انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے اور اپنے ایک سردار سعد بن عبادہ کو جو اس وقت بیمار تھے ان کے گھر سے وہاں لے آئے اور بحث شروع کی۔ پہلے تو سعد ان کی باتیں سنتے رہے پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا:

”میں اپنی بیماری کے سبب تمام لوگوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا۔ تم میری باتیں سن کر انہیں بتا دو۔“

چنانچہ انہوں نے تقریر شروع کی اور ان کا لڑکا ان کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا گیا۔ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد کہا:

سعد بن عبادہ کی تقریر:

”اے انصار! تمہیں دین برحق کی امداد کرنے کا جو شرف اور اسلام کی اعانت کرنے کی جو فضیلت حاصل ہے وہ عرب کے اور کسی قبیلے کو حاصل نہیں۔ رسول اللہؐ اپنی قوم کے درمیان تیرہ سال تک مقیم رہے

اور اسے اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پرستش چھوڑ دینے کی تلقین کرتے رہے لیکن سوائے چند لوگوں کے کسی نے آپ کی باتیں قبول نہ کیں۔ مگر وہ لوگ بھی جو آپ پر ایمان لائے، رسول اللہ کی مدافعت کرنے، دین کو عزت بخشنے اور خود اپنے آپ کو کفار کے مظالم سے بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اس وقت اللہ نے تمہیں اپنے انعامات کا وارث بنانے، فضیلت عطا کرنے اور بزرگی سے سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس نے تمہیں ایمان کی نعمت سے بہرہ ور کرنے، رسول اللہؐ اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کرنے، دین کی عظمت قائم کرنے، اپنی جانیں اسلام پر قربان کرنے اور دشمنوں سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تم رسول اللہؐ کے دشمنوں پر سب سے زیادہ سخت تھے۔ تمہاری تلواروں نے اسلام کی فتح کے دن کو قریب سے قریب تر کر دیا اور عربوں کو بہ امر مجبوری دین خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اب رسول اللہؐ وفات پا چکے ہیں۔ وہ عمر بھر تم سے راضی رہے۔ تم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ اب تم خلافت اپنے ہاتھ لے لو کیونکہ تمہارے سوا خلافت کا مستحق کوئی نہیں۔“

حاضرین نے سعد کی باتوں کو غور سے سنا اور بالاتفاق جواب دیا: ”آپ نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا۔ ہم آپ کی رائے سے اختلاف نہ کریں گے۔ خلافت کا کام ہم آپ ہی کے سپرد کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی اس کے مستحق، صالح اور عبادت گزار بندے ہیں۔“

انصار کی پہلی کمزوری:

انصار نے کہنے کو تو یہ بات کہہ دی لیکن اس پر قائم نہ رہ سکے۔ قبل اس کے کہ اساری قوم سعد بن عبادہ کی بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ان

کی بیعت کی دعوت دیتی، ایک شخص نے اٹھ کر کہا:

”اگر مہاجرین نے ہماری بیعت سے انکار کیا اور کہا کہ ہم مہاجرین ہیں، رسول اللہؐ کے اولین صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کے اہل خاندان ہیں اس لیے ہمیں خلافت کے مستحق ہیں اور انصار کو ہمارے اس حق کا انکار نہ کرنا چاہیے تو کیا ہوگا؟“

یہ بات سن کر مجمع پر سناٹا چھا گیا اور کسی سے اس سوال کا جواب بن نہ پڑا۔ آخر بہت کچھ غور و فکر کے بعد ایک شخص نے اٹھ کر کہا:

”اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ اگر ایسا ہی ہے تو ایک امیر تم میں سے ہو جائے ایک امیر ہم میں سے۔ ہم اس کے سوا اور کسی بات پر راضی نہ ہوں گے۔“

سعد بن عبادہ خوب جانتے تھے کہ یہ تجویز لایعنی ہے اور اس سے انصار کو کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچ سکے گا چنانچہ انہوں نے کہا:

”تم نے تو ابتدا ہی میں کمزوری کا مظاہرہ شروع کر دیا۔“

ان کا اشارہ دراصل بنو اوس کی طرف تھا کیونکہ انہیں کے ایک فرد نے یہ بات کہی تھی۔ خزرج ایسی بات نہ کہہ سکتے تھے کیونکہ ان کے سردار سعد بن عبادہ تھے اور ان کی عین خواہش تھی کہ خلافت کی عنان انہیں کے ایک فرد کے سپرد کی جائے۔

اوس و خزرج کی موروثی عداوت:

اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ایک دوسرے کے حریف تھے۔ ان دونوں قبیلوں میں اس وقت سے دشمنی چلی آتی تھی جب سے ان کے آباؤ اجداد یمن سے منتقل ہو کر یثرب میں آباد ہوئے تھے۔ اس وقت یثرب اور اس کے گرد و نواح پر یہودیوں کا تسلط تھا۔ اوس و خزرج بھی مدت دراز تک یہود کے اثر و اقتدار کے تحت غلامانہ حالت میں زندگی بسر کرتے رہے۔ بالآخر ان کی عزت و حمیت نے جوش مارا اور انہوں نے یہود کے خلاف بغاوت کر کے یہود کو اس مرتبے سے محروم کر دیا جس پر وہ مدت دراز سے فائز تھے۔

یہود کے پنجے سے تو انہوں نے رہائی حاصل کر لی لیکن خود ان کے درمیان اختلاف کی بنیاد پڑ گئی جس نے بڑھتے بڑھتے شدید دشمنی کی شکل اختیار کر لی۔ جنگ باعث بھی اسی دشمنی کا شاخسانہ تھی جس میں طرفین کے سینکڑوں آدمیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس جنگ کے بعد یہودیوں نے یثرب میں پھر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ اوس و خزرج یہود کے پہلے سلوک کو نہ بھولے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں صلح کر لی اور طے پایا کہ خزرج کے ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار بنالیا جائے۔

وہ لوگ انہیں تیاریوں میں مشغول تھے کہ ان کی ایک جماعت حج کے موقع پر مکہ آئی۔ وہاں ان کی ملاقات رسول اللہؐ سے ہوئی۔ آپ نے انہیں توحید کی تبلیغ کی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا:

”اللہ کی قسم! یہ وہی نبی ہے جس کی خبر ہمیں یہود دیا کرتے ہیں۔ ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود اسے قبول کر کے ہم سے بڑھ جائیں۔“

چنانچہ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور اسلام لے آئے۔ پھر آپ سے کہا:

”ہم اپنے پیچھے ایک ایسی قوم چھوڑ کر آئے ہیں کہ عداوت اور بغض و عناد میں کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے سے انہیں متحد کر دے گا۔ اگر وہ آپ کے ذریعے سے متحد ہو گئے تو یثرب کا کوئی شخص عزت اور بزرگی میں آپ سے بڑھ کر نہ ہو گا۔“

یثرب واپس آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سارا حال بیان کیا اور یہی واقعہ بیعت، عقبۃ الکبریٰ کا باعث یثرب میں اسلام پھیلنے کا موجب اور رسول اللہؐ کی ہجرت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

اہل یثرب میں اتحاد:

اسلام نے یثرب کے تمام مومنوں کو اکٹھا کر دیا اور رسول اللہؐ کی شخصیت نے تمام

مسلمانوں کو اس طرح بھائی بھائی بنا دیا کہ دنیوی تعلقات میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ مسلمانوں کے اس عدیم النظیر اتحاد سے یہود کی قوت کو زبردست ضعف پہنچا۔ پھر بھی اوس و خزر ج کے دلوں میں پرانی عداوت کے دھند لے دھند لے کچھ نقوش باقی رہ گئے۔ یہود اور منافقین کے جوش دلانے سے یہ عداوت کبھی ظاہر بھی ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب سعد بن عبادہ نے دیکھا کہ انصار کے بعض لوگ اس شخص کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں جس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک امیر قریش میں سے ہونا چاہیے اور ایک امیر انصار میں سے تو انہوں نے کہا:

”یہ پہلی کمزوری ہے جو ابتدا ہی میں تم سے ظاہر ہوئی ہے“ کیونکہ یہ بات کہنے والا قبیلہ اوس کا ایک فرد تھا۔

عمرؓ اور ابو عبیدہؓ میں گفتگو:

جب انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے متعلق مشغول بحث تھے تو حضرت عمرؓ بن خطاب ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ مسجد نبویؐ میں رسول اللہؐ کی وفات کے سانحہ عظیم کا ذکر کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ حضرت علیؓ اور دوسرے اہل بیت رسول اللہؐ کی تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ جب حضرت عمرؓ کو آپؐ کی وفات کا کامل یقین ہو گیا تو انہوں نے بھی خلافت کے متعلق غور کرنا شروع کیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ انصار پہلے ہی اس معاملے پر بحث و تمحیص میں مشغول ہیں اور اپنے میں سے کسی شخص کو امیر بنانا چاہتے ہیں۔

ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ابو عبیدہؓ بن جراح کے پاس آئے اور

کہا:

”اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپؐ کی بیعت کروں کیونکہ رسول اللہؐ کی زبان مبارک سے آپؐ کو ”امین الامت“ کا لقب مل چکا ہے۔“

ابو عبیدہؓ نے یہ سن کر کہا:

”عمرؓ تمہارے اسلام لانے کے بعد پہلی مرتبہ میں نے تمہارے منہ

سے ایسی جہالت کی بات سنی ہے۔ کیا تم میری بیعت کرو گے جب ہم میں وہ شخص موجود ہے جسے بارگاہ خداوندی سے ”ثانی اثنین“ اور ”صاحب رسول“ کا خطاب اور رسول اللہؐ سے ”صدیق“ کا لقب مل چکا ہے؟“

یہ دونوں انہیں باتوں میں مشغولی تھے کہ انہیں سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کے اجتماع کی خبر ملی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو جو اس وقت حضرت عائشہؓ کے حجرے میں تھے۔ کہلا بھیجا کہ ذرا باہر تشریف لائے۔ ابو بکرؓ نے جواباً کہا ”میں مشغول ہوں، اس وقت باہر نہیں آ سکتا۔“

حضرت عمرؓ نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ فوری طور پر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے جس میں آپ کی موجودگی بے حد ضروری ہے۔

عمرؓ اور ابو بکرؓ سقیفہ بنی ساعدہ میں:

اس پر ابو بکرؓ باہر تشریف لائے اور عمرؓ سے پوچھا ”رسول اللہؐ کی تجہیز و تکفین سے زیادہ اس وقت اور کون سا کام ضروری ہے جس کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے؟“
عمرؓ نے کہا ”آپ کو پتہ بھی ہے انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنادیں؟ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر قریش میں سے۔“

یہ سن کر ابو بکرؓ فوراً عمرؓ کے ساتھ سقیفہ کی جانب چل پڑے۔ ابو عبیدہؓ بن جراح بھی ساتھ تھے۔

یہ تینوں ابھی راستے ہی میں تھے کہ انہیں عاصم بن عدی اور عویم بن ساعدہ ملے۔ یہ دونوں سقیفہ سے آ رہے تھے اور انصار نے انہیں یہ کہہ کر اپنی مجلس سے رخصت کر دیا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ ہوگا۔ جب انہوں نے ابو بکرؓ، عمرؓ اور ابو عبیدہؓ کو آتے دیکھا تو کہنے لگے: ”آپ لوگ اپنا کام کریں اور انصار کے پاس مت جائیں۔“
عمرؓ نے جواب دیا ”یہ نہیں ہو سکتا، ہم ضرور جائیں گے۔“

چنانچہ یہ تینوں حضرات سقیفہ میں پہنچے۔ انصار کی گفتگو اور بحث ابھی جاری تھی، انہوں نے نہ تو سعد کی بیعت کی تھی اور نہ کسی متفقہ فیصلے پر پہنچے تھے۔

انصار نے جب ان تینوں کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور بالکل خاموش ہو گئے۔

عمرؓ نے پوچھا: ”یہ شخص کون ہے جو درمیان میں کبل اوڑھے بیٹھا ہے؟“ لوگوں نے کہا: ”یہ سعد بن عبادہ ہیں اور اس وقت بیمار ہیں۔“ ابوبکرؓ اور ان کے دونوں ساتھی بھی انصار کے درمیان بیٹھ گئے۔ اب ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ خدا جانے یہ اجتماع کس حد پر جا کر ختم ہوگا۔“

سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع کی اہمیت:

واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی ابتدائی زندگی میں اس اجتماع کو زبردست اہمیت حاصل تھی۔ اگر اس موقع پر ابوبکرؓ اپنی اصابت رائے، قوت ارادی اور ذہانت و فرزانگی کو کام میں نہ لاتے تو خود اسلام کے مرکز میں وہ فتنہ پھیل جاتا جو بعد میں عرب کے دوسرے شہروں میں بھی پھیلا اور اس عالم میں پھیلتا کہ اسلام کے بانی کی لغش ابھی گھر ہی میں پڑی ہوتی۔

ذرا غور کیجیے اگر انصار سعد بن عبادہ کی باتوں میں آ کر اصرار کرتے کہ خلافت ان کا حق ہے اور انہیں کو ملنا چاہیے اور دوسری طرف قریش اپنے سوا کسی کو خلافت پر راضی نہ ہوتے تو اس فتنے کا انجام کیا ہوتا؟ خصوصاً اس حالت میں کہ اسامہؓ کا لشکر ہتھیاروں سے لیس، دشمن سے جنگ کے لیے کوچ کرنے پر بالکل تیار تھا۔ کیا اس صورت میں وہی ہتھیار ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہوتے؟ اگر سقیفہ جانے والے مہاجرین ابوبکرؓ، عمرؓ اور ابو عبیدہؓ کے سوا دوسرے لوگ ہوتے جنہیں رسول اللہؐ کے مشیر کار ہونے کا شرف حاصل ہوتا اور نہ امین الامت ہونے کا اعزاز تو انصار و مہاجرین کے درمیان اختلاف کی خلیج بے حد وسیع ہو جاتی اور اس کا جو ہولناک انجام ہوتا اس کا اندازہ بھی آج کا مورخ نہیں کر سکتا۔

واقعات کا صحیح اندازہ کرنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس اہم اجتماع کو اسلام کی تاریخ میں اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی بیعت عقبہ الکبریٰ اور رسول اللہؐ کی

ہجرت مدینہ کو۔ یہ بات بھی ان سے پوشیدہ نہیں کہ ابو بکرؓ نے اس موقع پر جو کارنامہ انجام دیا اس نے صریحاً ثابت کر دیا کہ وہ دینی لحاظ سے نہایت بلند مرتبہ رکھنے کے علاوہ بحریہ سیاست کے شناور، انتہائی دور رس اور نتائج و عواقب پر گہری نظر رکھنے والے بھی تھے اور ہر معاملے میں ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس سے بہتر نتائج برآمد ہوں اور ہر ایسی بات سے پہلو تہی کی جائے جس سے شر و فساد پھوٹنے کا امکان ہو۔

حاضرین سقیفہ سے ابو بکرؓ کا خطاب:

موجودہ زمانے میں اسلوب بیان کے بعض پہلوؤں کو ماہرین سیاست نو ایجاد سمجھتے ہیں۔ منجملہ دیگر اسالیب بیان کے ایک اسلوب یہ بھی ہے، مد مقابل سے اس طرح گفتگو کی جائے کہ اس کے جذبات کو ٹھیس بھی نہ لگے اور اسے قائل بھی کر لیا جائے۔ یہ طرز بالکل نو ایجاد سمجھا جاتا ہے لیکن ابو بکرؓ نے انصار سے جس طرز پر بات کی اور جس خوش اسلوبی سے معاملے کو سلجھایا آج کل کے ماہرین سیاست کو اس کی ہوا تک نہیں لگی۔

جب یہ تینوں مہاجرین اطمینان سے بیٹھ گئے تو انصار کی پریشانی کچھ کم ہوئی اور انہوں نے مہر سکوت توڑ کر اسی قسم کی باتیں شروع کیں کہ خلافت صرف ان کا حق ہے اور یہ حق انہیں کو ملنا چاہیے۔

حضرت عمرؓ کہتے ہیں ”میں نے بعض باتیں سوچ رکھی تھیں جنہیں میں اس مجلس میں بیان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن جب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہونے لگا تو ابو بکرؓ نے کہا: ”ذرا ٹھہرو۔ مجھے بات کر لینے دو۔ اس کے بعد تم بھی اپنی باتیں بیان کر دینا۔“

اصل میں ابو بکرؓ کو ڈرتھا کہ کہیں عمرؓ تیزی میں نہ آجائیں کیونکہ یہ موقع تیزی اور سختی کا نہ تھا بلکہ نرمی اور بردباری برتنے کا تھا۔ عمرؓ، ابو بکرؓ کی بزرگی اور ان کی سبقت فی الاسلام کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹھ گئے اور ابو بکرؓ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد رسول اللہؐ اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کا ذکر کیا پھر فرمایا:

”..... عربوں کے لیے اپنے آباؤ اجداد کا دین ترک کر دینا نہایت شاق

تھا اور وہ ایسا کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہ تھے۔ اس وقت اللہ نے آپ کی قوم میں سے مہاجرین اولین کو آپ کی تصدیق کرنے، آپ پر ایمان لانے۔ آپ کی دل جوئی کرنے اور اپنی قوم کے مظالم کو صبر سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر شخص ان کا مخالف تھا۔ ان پر ظلم و ستم توڑے جاتے تھے، انہیں بدترین ایذاں دی جاتی تھیں لیکن وہ قلت تعداد اور کثرت اعداء کے باوجود مطلق خوفزدہ نہ ہوئے۔ وہ اس سرزمین میں اولین اشخاص ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لانے اور اس طرح اللہ کے حقیقی بندے بننے کی توفیق ملی۔ وہ رسول اللہؐ کے محبت اور رشتہ دار ہیں اس لیے خلافت کے وہی مستحق ہیں اور اس بارے میں صرف ظالم ہی ان سے جھگڑا کر سکتے ہیں۔“

”اور تم اے گروہ انصار! وہ لوگ ہو جن کی فضیلت دینی اور اسلام میں سبقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ نے تمہیں اپنے دین اور اپنے رسولؐ کا مددگار بنایا۔ رسولؐ خدا نے ہجرت تمہاری طرف کی آپ کی اکثر ازواج اور بیشتر صحابہ تمہیں میں سے تھے۔ مہاجرین اولین کے بعد تمہارا ہی مرتبہ ہے۔ اس لیے ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر۔ نہ تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں شریک کیے بغیر کوئی کام انجام دیا جائے گا۔“

اسی سے ملتا جلتا ایک فقرہ پہلے بھی ایک انصاری کے منہ سے نکل چکا تھا یعنی ”..... ایک امیر ہم میں سے ہو ایک امیر مہاجرین میں سے۔“ مگر یہ بات ناقابل عمل تھی لیکن ابوبکرؓ کی تجویز نہ صرف قابل عمل بلکہ اعلیٰ سیاست کا کرشمہ بھی تھی جس سے ان کا مقصد بھی پورا ہو جاتا تھا اور انصار کا تردد بھی دور ہو جاتا تھا۔

اوس نے جو کہ اپنے آپ پر خزر ج کا غلبہ گوارا نہ کر سکتے تھے، ابوبکرؓ کی اس تجویز پر اطمینان کا سانس لیا۔ خزر ج کے بھی بہت سے افراد نے اس سے دلی اتفاق کیا کیونکہ ابوبکرؓ نے سعد بن عبادہ کی طرح صرف مہاجرین کو سلطنت کا انتظام سنبھالنے کا حق دار نہ ٹھہرایا تھا

بلکہ انصار کو وزراء کی حیثیت میں مہاجرین کا شریک کار بھی بنایا تھا کیونکہ دونوں فریق رسول اللہؐ پر سچے دل سے ایمان لائے، آپؐ کی مدد کرنے اور جاں نثاری کا ثبوت دینے میں مساوی تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ انہوں نے امارت اور وزارت کا حق دار علی الترتیب مہاجرین و انصار کو ٹھہرایا، کسی اور قبیلے کو جو عرب میں آباد تھا شریک کار نہ بتایا۔ وجہ یہ تھی کہ دوسرے قبائل کو دین میں وہ سبقت حاصل نہ تھی جو مہاجرین و انصار کو حاصل تھی، نہ انہوں نے دین کے راستے میں وہ کارہائے نمایاں ہی انجام دیئے تھے جو مہاجرین و انصار نے انجام دیئے۔

بعض انصار کی مخالفت:

ابوبکرؓ کے دلائل کی روشنی میں تمام لوگوں کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ان کی تمام باتیں مبنی برحق اور قرین انصاف تھیں۔ لیکن بعض لوگوں نے جنہیں مہاجرین کی امارت سرے سے ناپسند تھی، ان کے دلائل سے کوئی اثر قبول نہ کیا کیونکہ ان لوگوں کو خدشہ تھا کہ مہاجرین ان کا حق غصب کر لیں گے اور سلطنت پر قابض ہو کر من مانی کارروائیاں کریں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا:

”ہم اللہ کے انصار اور اسلام کا لشکر ہیں اور تم اے مہاجرین! ہم سے قلیل التعداد ہو لیکن اب تم ہمارا حق غصب کرنا اور ہمیں سلطنت سے محروم کرنا چاہتے ہو، ایسا کبھی نہ ہو سکے گا۔“

یہ سن کر بھی ابوبکرؓ کے ماتھے پر بل نہ پڑے اور وہ بدستور اپنے دھیمے پن سے مجمع کو خطاب کرتے رہے۔ انہوں نے فرمایا:

”اے لوگو! ہم مہاجرین اولین اشخاص ہیں جو اسلام لائے۔ حسب و نسب اور عز و شرف کے لحاظ سے بھی ہم تمام عربوں سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ہمیں رسول اللہؐ کے قریبی رشتہ دار ہونے کا فخر بھی حاصل ہے۔ ہم تم سے پہلے ایمان لائے اور قرآن میں ہمارا ذکر تم سے مقدم ہے۔ اللہ فرماتا ہے۔ والسابقون

الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم
 باحسان۔ ہم مهاجرین ہیں اور تم انصار۔ تم دین میں ہمارے
 بھائی، غنیمت میں ہمارے شریک اور دشمنوں کے مقابلے میں
 ہمارے مددگار ہو۔ باقی تم نے اپنی فضیلت کا جو ذکر کیا ہے اس سے
 ہمیں انکار نہیں۔ تم واقعی اس کے اہل ہو اور روئے زمین پر سب سے
 زیادہ تعریف کے مستحق۔ لیکن عرب اس بات کو کبھی نہ مانیں گے کہ
 سلطنت قریش کے سوا کسی اور قبیلے کے ہاتھ میں رہے۔ اس لیے
 امارت تم ہمارے سپرد کرو اور وزارت خود سنبھال لو۔“

حباب بن منذر انصاری:

لیکن اس پر بھی انصار کے ایک طبقے کا جوش و خروش ٹھنڈا نہ ہو سکا۔ چنانچہ حباب
 بن منذر بن جموح اٹھے اور کہنے لگے:

”اے انصار امارت اپنے ہاتھوں ہی میں رکھو کیونکہ لوگ تمہارے مطیع
 ہیں۔ کسی شخص میں یہ جرات نہ ہوگی کہ وہ تمہارے خلاف آواز اٹھا
 سکے یا تمہاری رائے کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ تم اہل عزت و
 ثروت ہو۔ تم تعداد اور تجربے کی بنا پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر ہو۔
 تم بہادر اور دلیر ہو۔ لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہیں۔
 ایسی حالت میں تم ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اپنا معاملہ خراب نہ
 کرو۔ یہ لوگ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہیں۔ زیادہ سے زیادہ
 رعایت جو ہم انہیں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے
 ہو اور ایک ان میں سے۔“

حضرت عمرؓ کی تقریر:

حباب نے ابھی اپنی تقریر ختم بھی نہ کی تھی کہ حضرت عمرؓ کھڑے ہو گئے۔ وہ اس

سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کے منع کرنے سے مجبوراً خاموش ہو رہے تھے لیکن اب ان سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے کہا:

”ایک میان میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اللہ کی قسم! عرب تمہیں امیر بنانے پر ہرگز رضا مند نہ ہوں گے۔ جب رسول اللہؐ تم میں سے نہ تھے۔ ہاں اگر امارت ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئے جن میں رسول اللہؐ مبعوث ہوئے تھے تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اگر عربوں کے کسی طبقے نے ہماری امارت اور خلافت سے انکار کیا تو اس کے خلاف ہمارے ہاتھ میں دلائل ظاہرہ اور براہین قاطعہ ہوں گے۔ رسول اللہؐ کی جانشینی اور امارت کے بارے میں کون شخص ہم سے جھگڑا کر سکتا ہے جب ہم آپ کے جاں نثار اور اہل عشیرہ ہیں۔ اس معاملے میں ہم سے جھگڑا کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو باطل کا پیروکار، گناہوں سے آلودہ اور ہلاکت کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہو۔“

حضرت عمرؓ اور حباب میں جھڑپ:

حباب نے انصار کو مخاطب کر کے حضرت عمرؓ کی تقریر کا جواب یہ دیا:

”اے انصار! تم ہمت سے کام لو اور عمرؓ اور اس کے ساتھیوں کی بات نہ سنو۔ اگر تم نے اس وقت کمزوری دکھائی تو یہ سلطنت میں سے تمہارا حصہ غصب کر لیں گے اگر یہ تمہاری مخالفت کریں تو انہیں یہاں سے جلا وطن کر دو اور سلطنت پر خود قابض ہو جاؤ کیونکہ اللہ کی قسم! تمہیں اس کے سب سے زیادہ حق دار ہو۔ تمہاری ہی تلواروں کی بدولت اسلام کو شان و شوکت نصیب ہوئی ہے اس لیے اس کی قدر و منزلت کا موجب تمہیں ہو۔ تمہیں اسلام کو پناہ دینے والے اور اس کی پشت پناہ ہو اور اگر تم چاہو تو اسے اس کی شان و شوکت سے محروم بھی کر سکتے

ہو۔“

حضرت عمرؓ نے یہ فقرہ سنا تو کہا:

”اگر تم نے اس قسم کی کوشش کی تو اللہ تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔“

حباب نے جواب دیا:

”ہمیں نہیں، اللہ تمہیں ہلاک کرے گا۔“

حباب کی باتیں (اگر درست تسلیم کر لی جائیں تو) ایک خطرناک دھمکی کا رنگ رکھتی تھیں۔ اگر انصار کی اکثریت حباب کے ساتھ ہوتی اور وہ سعد بن عبادہ کی بیعت پر رضا مند ہو جاتے تو مہاجرین بھی انصار کے مقابلے میں اپنی من مانی کرتے اور ایک عظیم اور تباہ کن فتنہ برپا ہو جاتا جو کسی کے روکے نہ رکتا۔

بعض منافقین کی شرارت:

کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض منافقین نے حضرت عمرؓ اور حباب کی تلخ کلامی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرارت برپا کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ طبری نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خود حباب نے باتیں کرتے کرتے تلوار سونت لی۔ لیکن حضرت عمرؓ نے ہاتھ جھٹک کر تلوار ان کے ہاتھ سے گرا دی اور اسے اٹھا کر سعد بن عبادہ کی طرف بڑھے۔ اس وقت ابو عبیدہ بن جراح، جواب تک خاموش بیٹھے فریقین کی باتیں سن رہے تھے، اس معاملے میں دخل دیئے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ اٹھے اور اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”اے انصار! تم ہی تھے جنہوں نے اس دین کی نصرت و حمایت کے

لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اب تمہیں سب سے پہلے

اس کی تباہی کے درپے ہو رہے ہو۔“

بشیر بن سعد کی تقریر:

ابو عبیدہ کے اس فقرے کا قبیلہ خزرج کے ایک سردار بشیر بن سعد ابو النعمان بن

بشیر پر بے حد اثر ہوا۔ وہ کھڑے ہوئے اور تقریر کی:

”اللہ کی قسم! اگرچہ ہمیں مشرکین سے جہاد اور دین میں سبقت اختیار کرنے کے معاملے میں مہاجرین پر فضیلت حاصل ہے لیکن ہم نے یہ سب کچھ محض اپنے رب کی رضا، اپنے نبیؐ کی اطاعت اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کیا تھا، اس لیے ہمیں زیبا نہیں کہ ہم ان باتوں کی وجہ سے فخر و مباہات کا اظہار کریں اور اپنی دینی خدمات کے بدلے دنیا کا مال و منال طلب کریں۔ اللہ ہی ہمیں اس کی جزا دے گا اور اس کی جزا ہمارے لیے کافی ہے رسول اللہؐ قریش میں سے تھے اور آپؐ کی قوم ہی اس کی سب سے زیادہ حق دار ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس بارے میں ان سے جھگڑا کریں۔ اس لیے اے انصار! تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، مہاجرین کی مخالفت نہ کرو اور ان سے مت جھگڑو۔“

بشیر بن سعد کی یہ باتیں سن کر ابوبکرؓ نے انصار کی طرف نظر دوڑائی تاکہ دیکھیں، انہوں نے کہاں تک ان باتوں کا اثر قبول کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس آپس میں آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ ادھر بنی خزرج کے چہروں سے بھی مترشح ہوتا تھا کہ ان کے دلوں پر بشیر کی باتوں کا بہت اثر ہوا ہے۔

یہ دیکھ کر ابوبکرؓ کو یقین ہو گیا کہ معاملہ سدھر گیا ہے اور یہی لمحات فیصلہ کن ہیں، انہیں ضائع نہ کرنا چاہیے۔ وہ حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ انصار کو اتحاد کی تلقین کی اور تفرقے سے خبردار کیا۔ پھر فرمایا۔

”یہ عمرؓ اور ابو عبیدہؓ بیٹھے ہیں، ان میں سے جس کی بیعت چاہو کر لو۔“

عمرؓ اور ابو عبیدہؓ کی بیعت ابوبکرؓ:

اس وقت شور و شغب بہت بڑھ گیا حضرت عمرؓ کی دینی فضیلت سے کسی شخص کو انکار نہ تھا۔ وہ رسول اللہؐ کے معتمد علیہ اور ام المومنین حضرت حفصہ کے والد تھے۔ لیکن ان کی

نختی اور تیز مزاجی سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ اسی لیے ہر شخص ان کی بیعت سے پس و پیش کر رہا تھا۔ جہاں تک ابو عبیدہؓ کا تعلق تھا ان میں عمرؓ کی سی سختی نہ تھی لیکن انہیں دینی لحاظ سے حضرت عمرؓ کا سا مقام و مرتبہ حاصل نہ تھا۔

اگر چندے اور یہی حالت رہتی تو اختلاف انتہائی شدت اختیار کر لیتا لیکن حضرت عمرؓ نے اسے بڑھنے نہ دیا اور بلند آواز سے کہا:

”ابوبکرؓ! اپنا ہاتھ بڑھائیے۔“

حضرت ابو بکرؓ نے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت عمرؓ نے فوراً آپؐ کی بیعت کر لی اور کہا:

”ابوبکرؓ! کیا آپؐ کو رسول اللہؐ نے حکم نہ دیا تھا کہ آپؐ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں اس لیے آپؐ ہی خلیفۃ اللہؐ ہیں۔ ہم آپؐ کی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ آپؐ ہم سے زیادہ رسول اللہؐ کے محبوب تھے۔“

حضرت ابو عبیدہؓ نے بھی یہ کہتے ہوئے آپؐ کی بیعت کر لی:

”آپؐ مہاجرین میں سب سے برتر ہیں۔ آپؐ غار میں رسول اللہؐ کے ساتھی تھے رسول اللہؐ کی غیر حاضری میں آپؐ ہی نماز پڑھایا کرتے تھے اس لیے آپؐ سے زیادہ کون شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اسے خلافت کی اہم ذمہ داریاں سپرد کی جائیں۔“

بشیر بن سعد اور دوسرے انصار کی بیعت:

حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ نے بیعت کر لینے کے بعد بشیر بن سعد بھی جلدی سے آگے بڑھے اور بیعت کر لی۔

بشیر بن سعد کی بیعت کرتے دیکھ کر حباب بن منذر سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ کہنے لگے:

”اے بشیر بن سعد! تم نے اپنی قوم کی ناک کاٹ ڈالی تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم امارت کے معاملے میں اپنے چچیرے بھائی (سعد بن عبادہ) کی مخالفت کرو گے؟“

بشیر نے جواب دیا:

”میں نے اپنی قوم کو ذلیل نہیں کیا۔ لیکن مجھے یہ بات ناپسند تھی کہ میں مہاجرین سے اس حق کے بارے میں جھگڑا کرتا جو اور کسی نے نہیں بلکہ خود اللہ نے انہیں دیا تھا۔“

اسید بن حضیر، رئیس اوس نے جو بشیر بن سعد کی کارروائی کو بہ نظر غائر دیکھ رہے تھے، اپنے قبیلے کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے:

”اللہ کی قسم! اگر خزرج ایک بار بھی خلافت پر قابض ہو گئے تو اس کے سبب انہیں تم پر ہمیشہ کے لیے فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تم انہیں کبھی اس میں حصہ دار نہ بنے دو اور ابو بکرؓ کی بیعت کر لو۔“

چنانچہ اوس نے آپؐ کی بیعت کر لی۔ ادھر خزرج اپنے سردار بشیر بن سعد کی باتوں سے مطمئن ہو چکے تھے وہ بھی آگے بڑھ کر بیعت کرنے لگے۔

سعد بن عبادہ کا انکار بیعت:

لوگوں کو بیعت کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ ایک کے اوپر ایک گرا پڑتا تھا۔ بیعت کرنے کی عجلت میں انہیں سعد بن عبادہ کا خیال بھی نہ رہا اور وہ انہیں روند کر بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا:

”ارے دیکھو! کہیں سعد تمہارے پاؤں کے نیچے نہ روندے جائیں۔“

عمر نے کہا:

”وہ ہے ہی روندے جانے کے قابل۔ اللہ اسے ذلت نصیب کرے۔“

ساتھ ہی سعد سے کچھ سخت کلامی کی۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے کہا:

”عمر! کیا کرتے ہو؟ نرمی سے کام لو۔ یہ موقع سختی کا نہیں۔“

سعد بن عبادہ کو ان کے ساتھی اٹھا کر ان کے گھر لے گئے جہاں انہوں نے اپنی

زندگی کے بقیہ ایام خاموشی اور تنہائی سے گزار دیئے۔ ان سے کہا گیا: ”آپ بھی بیعت کر لیجیے کیونکہ تمام مسلمانوں نے اور خود آپ کی قوم نے بیعت کر لی ہے۔“

لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا: ”اللہ کی قسم! ایسا نہیں ہو سکتا جب تک میرے ترکش کا آخری تیر تم پر وار کرنے میں ختم نہ ہو جائے میرے نیزے کا پھل تمہارے خون سے سرخ نہ ہو جائے، میری تلوار کے جوہر نمایاں نہ ہو جائیں اور میں اپنے اہل خاندان اور پیروکاروں کے ساتھ تم سے جنگ نہ کر لوں۔ جب ان کی یہ باتیں حضرت ابو بکرؓ تک پہنچیں تو حضرت عمرؓ نے کہا: ”اب سعد کو اس وقت تک نہ چھوڑنا چاہیے جب تک ان سے بیعت نہ لے لی جائے۔“

لیکن بشیر بن سعد نے حضرت عمرؓ کی مخالفت کی اور کہا: ”ان کا انکار حد کو پہنچ چکا ہے۔ وہ لڑ کر مر جائیں گے لیکن بیعت نہ کریں گے۔ اور وہ اس وقت تک قتل نہیں ہو سکتے جب تک ان کے بیٹے، اہل خاندان اور مددگار ان پر نثار نہ ہو جائیں۔ اس لیے تم انہیں چھوڑ دو۔ ایسا کرنے سے تمہیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا کیونکہ اب ان کی حیثیت فرد واحد کی ہے۔“

ابو بکرؓ نے بشیر کی رائے سے اتفاق کیا اور سعد کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ سعد نے ان کے ساتھ نماز پڑھتے اور نہ ان کے ساتھ شامل ہو کر حج کے ارکان بجالاتے۔ ابو بکرؓ کی وفات تک ان کی یہی حالت رہی۔

سقیفہ کی بیعت میں حضرت علیؓ بن ابی طالب اور بعض کبار صحابہ شریک نہ ہو سکے کیونکہ رسول اللہؐ کی تجہیز و تکفین میں مشغول تھے۔ مسجد نبویؐ میں مہاجرین بھی کافی تعداد میں تھے چونکہ انہیں واقعہ سقیفہ کی خبر نہ تھی اس لیے وہ بھی اس بیعت میں شریک نہ تھے۔ بیعت سقیفہ کے متعلق بعض راوی حضرت عمرؓ کی جانب تو قول منسوب کرتے ہیں کہ یہ بیعت بغیر کسی

ارادے کے محض اتفاقاً ہو گئی۔ بعض راوی یہ ذکر کرتے ہیں کہ ابوبکرؓ، عمرؓ اور ابوعبیدہؓ پہلے ہی سے یہ اتفاق کر کے سقیفہ گئے تھے کہ منصب خلافت پر ابوبکرؓ کو سرفراز کیا جائے گا۔ بہر حال ان دونوں روایتوں میں سے خواہ کوئی سی بھی صحیح ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں جو کچھ ہوا اس نے اسلام کو ایک ایسے ہولناک فتنے سے بچا لیا جس کا انجام اللہ جانے کیا الم ناک صورت اختیار کرتا۔

بیعت پر انصار کا قیام:

اس دن کے بعد پھر کبھی انصار کی طرف سے خلافت کی خواہش نہ کی گئی۔ حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت عمرؓ کی بیعت ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد تخت خلافت پر حضرت عثمانؓ متمکن ہوئے لیکن انصار نے خلافت کا دعویٰ نہ کیا۔ حضرت علیؓ کے عہد میں آپ کے اور حضرت معاویہؓ کے درمیان اختلاف برپا ہوا جس نے بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ اس اختلاف کے موقع پر بھی انصار کی طرف سے خلافت کے حصول کی کوئی کوشش نہ کی گئی حالانکہ اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تو بخوبی اٹھا سکتے تھے۔ لیکن وہ ابوبکرؓ کے اس قول پر صدق دل سے ایمان لا چکے تھے:

”عرب سوا قریش کے اور کسی کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے۔“

بعد میں وہ ہمیشہ رسول اللہؐ کی حسب ذیل وصیت کے مطابق مہاجرین کے زیر سایہ اطمینان کی زندگی بسر کرتے رہے:

”اے مہاجرین انصار سے اچھا سلوک کرنا کیونکہ عرب کے اور قبیلوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا لیکن انصار کی تعداد میں اضافہ نہ ہوگا۔ میں نے انہی میں پناہ لی تھی اس لیے تم بھی ان پر احسان اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔“

مسجد نبوی میں بیعت عامہ:

سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت ختم ہونے پر مسلمان مسجد نبوی میں واپس آ گئے۔ اس

وقت شام ہو چکی تھی۔ اگلے روز حضرت ابو بکرؓ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور پچھلے روز کے واقعے پر اظہار افسوس کیا جب انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر کہا تھا کہ جو شخص کہے گا رسول اللہؐ فوت ہو گئے ہیں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا حضرت عمرؓ نے کہا:

”میں نے تم سے کل ایسی بات کہی تھی جو نہ کتاب اللہ میں پائی جاتی ہے اور نہ میں نے رسول اللہؐ سے کبھی سنی تھی۔ لیکن میں اپنی محبت کے جوش میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمارے تمام کاموں کی نگرانی بہ نفس نفیس فرماتے رہیں گے۔ لیکن اللہ نے تمہارے لیے وہ کتاب باقی رکھی ہے جس سے خود رسول اللہؐ نے ہدایت حاصل کی۔ پس اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو اسی طرح ہدایت پاؤ گے جس طرح آپ نے پائی۔ تمہارا خلیفہ اللہ نے اس شخص کو بنایا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ یہ رسول اللہؐ کا مقرب ہے اور یہی ہے وہ جسے غار میں آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا۔ اس لیے اٹھو اور اس کی بیعت کرو۔“

چنانچہ اس وقت عام بیعت ہوئی جب سقیفہ بنی ساعدہ کی بیعت میں صرف خاص خاص لوگ شریک تھے۔

خلافت کا پہلا خطبہ:

بیعت کے بعد ابو بکرؓ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا جو خلافت کا پہلا خطبہ تھا۔ آپ

نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

”اے لوگو! میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو اور اگر برا کام کروں تو مجھے ٹوکو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تمہارا کمزور شخص میرے نزدیک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں اور تمہارا

قومی آدمی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک اس کے ذمے جو حق ہے وہ اس سے نہ لے لوں۔ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد ترک کر دیتی ہے اس پر اللہ ذلت و خواری مسلط کر دیتا ہے اور اگر کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ اس پر بلائیں اور عذاب عام کر دیتا ہے۔ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کروں۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔“

ابو بکرؓ کی بیعت بالا جماع:

اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابو بکرؓ کی بیعت مسلمانوں کے اجتماع سے ہوئی تھی جس میں سوائے سعد بن عبادہ کے (جنہوں نے سقیفہ کی خاص بیعت میں ان کی بیعت سے انکار کر دیا تھا) باقی تمام صحابہ کبار شریک تھے یا بعض صحابہ بیعت سے الگ بھی رہے تھے؟

بیعت سے مہاجرین کبار کی علیحدگی:

کچھ روایات میں مذکور ہے کہ بعض مہاجرین کبار بیعت سے علیحدہ رہے تھے جن میں حضرت علیؓ بن ابی طالب اور حضرت عباس بن عبدالمطلب شامل تھے۔ شیعہ مورخ یعقوبی لکھتا ہے:

’مہاجرین اور انصار کے چند افراد حضرت ابو بکرؓ کی بیعت میں شامل نہ تھے بلکہ ان کا میاں حضرت علیؓ بن ابی طالب کی طرف تھا۔ ان میں سے مشہور لوگ یہ تھے۔ عباسؓ بن عبدالمطلب، فضلؓ بن عباس، زبیرؓ بن عوام بن العاص، خالد بن سعید، مقدادؓ بن عمرو، سلمانؓ فارسی، ابوذرؓ غفاری، عمارؓ بن یاسر، براءؓ بن عازب، ابیؓ بن کعب۔“

ابوبکرؓ نے عمرؓ، ابو عبیدہؓ بن جراح اور مغیرہؓ بن شعبہ سے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ عباسؓ بن عبدالمطلب سے ملیے اور خلافت میں ان کا حصہ بھی رکھ دیجیے جو ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس طرح ان کے اور ان کے بھتیجے علیؓ بن ابی طالب کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے گا اور یہ بات آپ کو علیؓ کے مقابلے میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔

اس مشورے کے مطابق ابوبکرؓ عباس سے ملے۔ دونوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ ابوبکرؓ نے کہا:

”آپ رسول اللہؐ کے چچا ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خلافت میں آپ کا

حصہ بھی ہو جو آپ کے بعد آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا رہے۔“

لیکن عباس نے یہ پیش کش رد کر دی اور کہا کہ ”اگر خلافت ہمارا حق ہے تو ہم ادھوری خلافت لینے پر رضا مند نہیں ہو سکتے۔“

مخالفین کا اجتماع:

ایک اور روایت میں جسے یعقوبی اور بعض دیگر مورخین نے بھی ذکر کیا ہے، مذکور ہے کہ مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت حضرت علیؓ کی بیعت کرنے کے ارادے سے حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہؐ کے گھر میں جمع ہوئی۔ ان میں خالد بن سعید بھی تھے۔ خالد نے حضرت علیؓ سے کہا:

”اللہ کی قسم! رسول اللہؐ کی جانشینی کے لیے آپ سے بہتر اور کوئی

آدمی نہیں اس لیے آپ ہماری بیعت قبول کیجیے۔“

جب حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو اس اجتماع کی خبر ملی تو وہ چند لوگوں کو لے کر حضرت فاطمہؓ کے گھر پہنچے اور اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت علیؓ تلوار ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر نکلے سب سے پہلے ان کی مڈ بھیڑ حضرت عمرؓ سے ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے ان کی تلوار توڑ ڈالی اور وہ دوسرے لوگوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گئے۔ اس پر حضرت فاطمہؓ باہر

آئیں اور کہا:

”یا تو تم میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ اللہ کی قسم! میں اپنے سر کے بال
 نوچ لوں گی! اور تمہارے خلاف اللہ سے مدد طلب کروں گی۔“
 حضرت فاطمہؓ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر سب لوگ گھر سے باہر نکل گئے۔
 کچھ روز تک تو مذکورہ بالا اصحاب بیعت سے انکار کرتے رہے لیکن آہستہ آہستہ
 یکے بعد دیگرے سب نے بیعت کر لی۔ سوائے حضرت علیؓ کے جنہوں نے چھ مہینے تک
 بیعت نہ کی مگر حضرت فاطمہؓ کی وفات کے بعد انہوں نے بھی بیعت کر لی۔
 ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے چالیس روز بعد بیعت کر لی تھی۔

انکار بیعت کی مشہور ترین روایت:

حضرت علیؓ اور دیگر بنی ہاشم کے بیعت نہ کرنے سے متعلق مشہور ترین روایت وہ
 ہے جو ابن قتیبہ نے اپنی کتاب ”الامامة والسياسة“ میں درج کی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت ابو بکرؓ
 کی بیعت کے بعد حضرت عمرؓ چند لوگوں کو ساتھ لے کر بنی ہاشم کے پاس گئے جو اس وقت
 حضرت علیؓ کے گھر جمع تھے تاکہ ان سے بھی بیعت کا مطالبہ کریں۔ لیکن سب لوگوں نے
 حضرت عمرؓ کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ زبیر بن عوام تو تلوار ہاتھ میں لے کر حضرت عمرؓ
 کے مقابلے کے لیے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ نے اپنے ساتھیوں سے کہا:
 ”زبیر کو پکڑ لو۔“

لوگوں نے زبیر کو پکڑ کر ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ اس پر مجبوراً زبیر نے جا
 کر حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی۔

حضرت علیؓ سے بھی بیعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور

کہا:

”میں تمہاری بیعت نہ کروں گا کیونکہ میں تم سے زیادہ خلافت کا حق

کیا حضرت فاطمہؓ بنت رسول اللہ جیسی باحیاء باعصمت خاتون اپنے منہ سے (نعوذ باللہ) اس قسم کے
 ریگیک الفاظ نکال سکتی تھیں؟ ان الفاظ ہی سے روایت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ (مترجم)

دار ہوں اور تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے تھی، تم نے یہ کہہ کر انصار کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم رسول اللہ کے قریبی عزیز ہیں اور آپ کے قریبی عزیز ہی خلافت کے حق دار ہیں۔ اس اصول کے مطابق تمہیں چاہیے تھا کہ خلافت ہمارے حوالے کرتے مگر تم نے اہل بیت سے چھین کر خلافت غصب کر لی۔ کیا تم نے انصار کے سامنے یہ دلیل پیش نہ کی تھی کہ ہم خلافت کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ رسول اللہ ہم میں سے تھے اس لیے تم ہماری اطاعت قبول کرو اور خلافت ہمارے حوالے کرو؟ وہی دلیل جو تم نے انصار کے مقابلے میں پیش کی تھی، اب میں تمہارے مقابلے میں پیش کرتا ہوں۔ ہم تم سے زیادہ رسول اللہ کے قریبی عزیز ہیں۔ اس لیے خلافت ہمارا حق ہے۔ اگر تم میں ذرہ برابر ایمان ہے تو ہم سے انصاف کر کے خلافت ہمارے حوالے کرو۔ لیکن اگر تمہیں ظالم بننا پسند ہے تو جو تمہارا جی چاہے کرو تمہیں اختیار ہے۔“

حضرت عمرؓ نے یہ سن کر جواب دیا:

”میں اس وقت تک آپ کو نہ چھوڑوں گا جب تک آپ بیعت نہ کریں گے۔“

حضرت علیؓ اس وقت تیزی میں آگئے اور کہنے لگے:

”عمرؓ شوق سے دودھ دوہو جس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ آج تم اس لیے خلافت ابو بکرؓ کی حمایت کر رہے ہو کہ کل کو خلافت تمہارے پاس لوٹ آئے گی لیکن میں کبھی ان کی بیعت نہ کروں گا۔“

حضرت ابو بکرؓ کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے اور درشت کلامی تک نوبت

نہ آجائے انہوں نے کہا:

”علیؓ! اگر تم بیعت نہیں کرتے تو میں بھی تمہیں مجبور نہیں کرتا۔“

اس پر ابو عبیدہ بن جراح حضرت علیؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت نرمی سے کہا:

”بھتیجے! تم ابھی کم عمر ہو اور یہ لوگ بزرگ ہیں۔ نہ تمہیں ان جیسا تجربہ حاصل ہے اور نہ تم ان کی طرح جہاندیدہ ہو۔ اگر قوم میں کوئی شخص رسول اللہ کی جانشینی کے فرائض صحیح طور پر بجالا سکتا اور خلافت کا بوجھ کماحقہ اٹھا سکتا ہے تو وہ صرف ابو بکر ہیں اس لیے تم ان کی خلافت قبول کر لو۔ اگر تم نے لمبی عمر پائی تو یقیناً اپنے علم و فضل، دینی رتبے، فہم و ذکا، سابقیت اسلام، حسب و نسب اور رسول اللہ کی دامادی کا شرف حاصل ہونے کے باعث تمہیں خلافت کے مستحق ٹھہرو گے۔“

یہ سن کر حضرت علیؑ کے جوش کی انتہا نہ رہی اور وہ غصے سے بولے:

”اللہ اللہ! اگر وہ مہاجرین! تم رسول اللہ کی حکومت کو آپ کے گھر سے نکال کر اپنے گھروں میں داخل نہ کرو۔ آپ کے اہل بیت کو ان کے صحیح مقام پر سرفراز کرو۔ اور ان کا حق انہیں دو۔ اے مہاجرین! اللہ کی قسم! ہم خلافت اور حکومت کے مستحق ہیں۔ کیونکہ ہم اہل بیت ہیں۔ ہم اس وقت تک اس کے حق دار ہیں جب تک ہم میں اللہ کی کتاب کا قاری، دین کا فقیہ، رسول اللہ کی سنت کا عالم، رعایا کی ضرورت سے واقف، ان کی تکالیف کو دور کرنے والا اور ان سے مساوات کا سلوک کرنے والا قائم ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ ہم میں ان صفات کا حامل موجود ہے، اس لیے اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ کے راستے سے گمراہی اختیار نہ کرو اور حق کے راستے سے دور نہ چلے جاؤ۔“

راویوں کے بیان کے مطابق بشیر بن سعد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جب انہوں نے حضرت علیؑ کی باتیں سنیں تو کہا:

”اے علیؑ! اگر یہ باتیں جو اس وقت تم نے کہی ہیں، انصار کا گروہ ابو بکرؓ کی بیعت سے پہلے سن لیتا تو وہ لوگ تمہارے سوا کسی کی بیعت نہ کرتے۔“

اس گفتگو کے بعد حضرت علیؑ طیش میں بھرے ہوئے گھر چلے گئے۔ جب رات

ہوئی تو وہ حضرت فاطمہؓ کو لے کر باہر آئے اور انہیں ایک خچر پر بٹھا کر انصار کے پاس لے گئے۔ حضرت فاطمہؓ گھر گھر جاتیں اور ان سے حضرت علیؓ کی مدد کرنے کی درخواست کرتیں۔ لیکن ہر جگہ سے انہیں یہی جواب ملتا:

”اے بنت رسول اللہ! ہم ابو بکرؓ کی بیعت کر چکے ہیں۔ اگر آپ کے خاوند بیعت سے قبل ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور ان کی بیعت کر لیتے۔“

یہ سن کر حضرت علیؓ غصے میں آ کر جواب دیتے:

”کیا میں رسول اللہؐ کی نعلین کو بلا تجہیز و تکفین چھوڑ دیتا اور باہر نکل کر لوگوں سے آپ کی جانشینی کے متعلق لڑتا جھگڑتا پھرتا؟“

حضرت فاطمہؓ بھی کہتیں:

”ابو الحسن (علیؓ) نے وہی کیا جو ان کے لیے مناسب تھا۔ باقی ان لوگوں نے جو کچھ کیا اللہ ان سے ضرور اس کا حساب لے گا اور باز پرس کرے گا۔“

انتخاب متفقہ کے متعلق روایات:

یہ تو ہیں روایتیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن ان کے برعکس بعض ایسی روایتیں بھی ہیں جن میں اس امر سے صراحتاً انکار کیا گیا ہے کہ بنو ہاشم اور بعض مہاجرین بیعت سے علیحدہ رہے۔ ان روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ سقیفہ کی خاص بیعت کے بعد عام بیعت کا وقت آیا تو مہاجرین اور انصار بالا اجتماع آپ کی بیعت میں شریک تھے۔ چنانچہ طبری میں مذکور ہے کہ کسی شخص نے سعید بن زید سے پوچھا:

”کیا آپ رسول اللہؐ کی وفات کے وقت مدینہ میں موجود تھے؟“

حضرت فاطمہؓ کی شان سے یہ بات قطعاً بعید ہے کہ وہ گھر گھر جا کر اپنے خاوند کی بیعت کے لیے لوگوں کو تیار کرتیں۔

انہوں نے جواب دیا:

”ہاں۔“

اس شخص نے پوچھا:

”حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کب کی گئی؟“

انہوں نے جواب دیا:

”اسی روز جب رسول اللہؐ کی وفات ہوئی۔ صحابہ کو یہ بات سخت ناپسند

تھی کہ وہ ایک بھی روز بغیر خلیفہ کے زندگی گزاریں۔“

اس پر اس شخص نے پوچھا:

”کیا کسی شخص نے حضرت ابو بکرؓ کی مخالفت بھی کی؟“

انہوں نے جواب دیا:

”نہیں، سوائے مرتدین کے، یا ان لوگوں کے جو حالت ارتداد کے قریب پہنچ

چکے تھے۔“

پوچھا گیا:

”کیا مہاجرین میں سے بھی کسی نے بیعت کرنے سے انکار کیا؟“

جواب دیا:

”نہیں۔ مہاجرین نے تو اس بات کا انتظار بھی نہ کیا کہ کوئی شخص

انہیں آ کر بیعت کے لیے بلائے بلکہ انہوں نے خود ہی آ کر ابو بکرؓ کی

بیعت کر لی۔“

ایک روایت یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت علیؓ کو اپنے گھر میں یہ خبر ملی کہ حضرت

ابو بکرؓ بیعت لینے کے لیے مسجد نبویؐ میں تشریف فرما ہیں تو ان کے بدن پر ایک قمیض کے سوا

کوئی کپڑا نہ تھا۔ لیکن وہ اسی حالت میں گھر سے باہر نکل آئے اور جلد جلد قدم اٹھاتے

ہوئے مسجد میں پہنچ گئے مہاد بیعت کرنے میں دیر ہو جائے۔ جب بیعت کر لی تو اس کے

بعد گھر سے اور کپڑے منگوا کر پہنے۔

بیعت علی کے متعلق درمیانی رائے:

بعض روایات میں حضرت علیؓ کی بیعت کے بارے میں درمیانی راہ اختیار کی گئی ہے۔ ان روایات کا ملخص یہ ہے کہ بیعت کے بعد حضرت ابو بکرؓ منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے حاضرین پر نظر دوڑائی تو زیر کونہ پایا۔ آپ نے انہیں بلا بھیجا اور کہا:

”اے رسول اللہؐ کے برادر عم زاد اور حواری! کیا آپ مسلمانوں کی لالچی کو توڑنا چاہتے ہیں؟ (کیا بیعت نہ کر کے مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں)

انہوں نے کہا:

”یا خلیفہ رسول اللہؐ! مجھے سرزنش نہ کیجیے۔ میں بیعت کرتا ہوں۔“

چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر بیعت کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے پھر ایک نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ بھی موجود نہیں۔ آپ نے انہیں بھی بلایا اور کہا:

”اے رسول اللہؐ کے برادر عم زاد اور آپ کے محبوب داماد! کیا آپ مسلمانوں کی لالچی کو توڑنا چاہتے ہیں؟“

انہوں نے بھی جواب دیا:

”یا خلیفہ رسول اللہؐ! میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔“

اور یہ کہہ کر بیعت کر لی۔

بنو امیہ کی فتنہ کوشی:

بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنو امیہ نے بنی ہاشم اور ابو بکرؓ کے درمیان اختلاف پیدا کر کے مسلمانوں میں فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ مذکور ہے کہ جب لوگ ابو بکرؓ کی بیعت کے لیے مسجد میں جمع ہوئے تو ابوسفیان بنی ہاشم کے پاس آئے اور کہنے لگے:

”میں ایک غبار دیکھتا ہوں جو خون بہانے ہی سے چھٹ سکتا ہے اے

آل عبد مناف! ابوبکر تمہارے امور کے نگران کب سے ہو گئے؟
 کہاں ہیں وہ لوگ جو کمزور رہنا پسند کرتے ہیں؟ کہاں ہیں علیؑ اور
 عباسؑ جنہیں ذلت و خواری ہی محبوب ہے؟“
 اس کے بعد یہ شعر پڑھے:

ولایقیم علی ضیم یراد بہ

الا الا ذلان غیر الحی والرند

هذا علی الخسف محبوس برمتہ

وذا شیخ فلا یبکی لہ احد

(دو ذلیل چیزوں کے سوا کوئی بھی ظلم پر صبر نہیں کر سکتا۔ ایک تو قبیلے کا
 گدھا، دوسری میخ۔ گدھا بوسیدہ رسی سے بندھا ہوا بھی ہر قسم کی
 ذلت بہتارتا ہے اور میخ گاڑتے وقت زخمی کیا جاتا ہے لیکن کوئی اس
 پر آنسو نہیں بہاتا۔)

میراث کا مطالبہ:

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیعت نہ کرنے کے متعلق روایات غالباً عباسی عہد
 میں بعض مخصوص سیاسی اغراض کی خاطر وضع کی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات حضرت
 علیؑ کے بیعت نہ کرنے کے ثبوت میں ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے کے درست
 ہونے میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس کا بیعت کرنے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ واقعہ
 یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کے بعد حضرت فاطمہؓ بنت رسول اللہؐ اور حضرت عباسؓ عم
 رسول اللہؐ ان کے پاس آئے اور آپؐ کی اس میراث کا مطالبہ کیا جو ارض فدک اور خیبر کی
 جائیدادوں میں آپؐ کے حصے پر مشتمل تھی۔ ابوبکرؓ نے فرمایا:

”میں نے رسول اللہؐ سے یہ حدیث سنی ہے: نحن معاشر

الانبياء لانورث، ماتر کنا صدقة (ہم انبیاء کا گروہ ہیں۔ ہم

کوئی میراث نہیں چھوڑتے، اپنے پیچھے ہم جو کچھ چھوڑیں گے وہ

صدقہ ہوگا)۔ اس جائیداد کی آمدنی سے جس کا ذکر تم نے کیا ہے، آپ کے اہل و عیال کا گزارہ چلتا تھا اس لیے میں بھی اسے وہیں خرچ کروں گا جہاں آپ خرچ کیا کرتے تھے۔“

اس پر حضرت فاطمہؓ ناراض ہو گئیں اور آخری وقت تک انہوں نے حضرت ابو بکرؓ سے کلام نہ کیا۔^۱ وفات کے بعد حضرت علیؓ نے انہیں رات ہی کو دفن کر دیا اور حضرت ابو بکرؓ کو اطلاع نہ دی۔ حضرت فاطمہؓ کی وفات رسول اللہؐ کی وفات کے چھ مہینے بعد ہوئی تھی۔ ابو بکرؓ سے حضرت فاطمہؓ کی ناراضی کے باعث حضرت علیؓ بھی ان سے کشیدہ خاطر تھے۔ لیکن حضرت فاطمہؓ کی وفات کے بعد انہوں نے مصالحت کر لی۔

یہ ہے وہ اصل روایت جس میں ابو بکرؓ سے حضرت فاطمہؓ اور حضرت علیؓ کی ناراضی اور ان سے بول چال ترک کر دینے کا بیان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ٹکڑا بھی ملا دیا جاتا ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کی وفات تک حضرت ابو بکرؓ کی بیعت نہ کی۔ وفات کے بعد ابو بکرؓ تعزیت کے لیے حضرت علیؓ کے پاس گئے۔ علیؓ ابو بکرؓ کو آتے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے:

”اب ہمیں آپ کی بیعت کرنے میں کوئی روک نہیں لیکن ہمارے خیال میں خلافت ہمارا ہی حق ہے، آپ نے اس پر قابض ہو کر ہمارا حق چھینا ہے اور اس طرح ہم پر ظلم کیا ہے۔“
حضرت ابو بکرؓ نے اس کے جواب میں کہا:

”اس مال و جائیداد کے سلسلے میں جو میرے اور تمہارے درمیان وجہ نزاع بنی رہی، میں نے جو کارروائی کی وہ محض تمہاری بھلائی کے لیے

۱۔ میراث کے مطالبے پر حضرت فاطمہؓ کا حضرت ابو بکرؓ سے ناراض ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ابو بکرؓ نے رسول اللہؐ کی حدیث سے آگاہ کر دیا تھا تو ان کے لیے دو ہی راستے تھے۔ یا تو یہ کہ وہ اس حدیث کی صحت سے انکار کر دیتیں یا آپ کے ارشاد پر سر تسلیم خم کر دیتیں۔ کسی روایت میں یہ مذکور نہیں کہ انہوں نے ابو بکرؓ کی بیان کردہ حدیث کی صحت سے انکار کیا ہو۔ جب یہ بات نہیں تو فاطمہؓ جیسی پرہیزگار خاتون کس طرح آپ کے ارشاد سے منہ موڑ کر محض زمین کے چند قطعات کے لیے ابو بکرؓ سے ناراض ہو سکتی تھیں؟ (مترجم)

تھی۔“

مذکورہ صدر اصحاب یہ کہتے ہیں کہ روایت کا آخری حصہ درایہ ناقابل قبول ہے۔ حضرت فاطمہؓ اور حضرت عباسؓ حضرت ابو بکرؓ سے رسول اللہؐ کی میراث کا مطالبہ اسی وقت کر سکتے تھے جب مسلمان بالاتفاق بیعت کر کے حضرت ابو بکرؓ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیتے۔ خلافت سے پہلے اس قسم کا مطالبہ کرنے کے کوئی معنی ہی نہ تھے۔ اگر حضرت علیؓ اور بنو ہاشم نے ان سے بیعت کی ہی نہ تھی اور انہیں خلیفہ تسلیم ہی نہ کیا تھا تو ان سے میراث کا مطالبہ کرنا بے معنی تھا۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علیؓ نے بلا توقف حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی تھی، ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ ان کی بیعت نہ کرنے سے متعلق روایات عباسیوں کے عہد میں بعض مخصوص سیاسی اغراض کے پیش نظر گھڑی گئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایات عباسیوں سے بھی پہلے حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کی جنگوں کے دوران میں بنی ہاشم اور بنی امیہ کی چشمک کے باعث وضع کی گئیں۔

مؤخر الذکر گروہ کا بیان ہے کہ عراق اور فارس کی فتح کے بعد وہاں ایرانی النسل لوگوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے اپنے فائدے کی خاطر اس قسم کی روایات وضع کرنی شروع کیں۔ سلطنت اسلامیہ پر امویوں کے قبضے کی وجہ سے یہ لوگ کھلم کھلا ان روایات کی تشہیر تو نہ کر سکتے تھے لیکن خفیہ طور پر ان کی اشاعت وسیع پیمانے پر کرتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کب موقع ملے اور وہ کھلم کھلا اپنے عقائد کا اظہار کر سکیں۔ ابو مسلم خراسانی کے خروج نے ان کی یہ دیرینہ تمنا پوری کر دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اور جس طرح ان روایات کا سہارا لے کر بنو عباس نے سلطنت حاصل کی وہ تاریخ کا ایک خونین باب ہے۔

جن لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ اور بنو ہاشم نے چالیس دن یا چھ مہینے کے بعد بیعت کی وہ اپنی دلیل میں گذشتہ روایات کے علاوہ یہ امر پیش کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ اور ان کے مددگار لشکر اسامہ میں شامل نہ ہوئے حالانکہ حضرت علیؓ کی شجاعت اور مردانگی ضرب المثل تھی۔ جس کا اظہار وہ رسول اللہؐ کے عہد میں کر چکے تھے۔ علاوہ یہ کہ مہاجرین نے سقیفہ بنی ساعدہ میں بہ مقابلہ انصار اپنی خلافت کی دلیل یہ پیش کی تھی کہ رسول اللہؐ سے روحانی تعلق کے علاوہ ان کا جسمانی تعلق بھی ہے اور عرب سوائے قریش کے اور کسی کی

اطاعت قبول نہ کریں گے کیونکہ وہ کعبہ کے نگہبان ہیں اور جزیرہ نما عرب کے تمام لوگوں کی نگاہیں ہر امر میں قریش ہی کی طرف اٹھتی ہیں۔ یہ دلیل بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ بنو ہاشم دوسرے لوگوں کی نسبت رسول اللہ کی جانشینی کے زیادہ حق دار تھے۔ اس لیے لازم تھا کہ وہ اپنا حق مقدم سمجھتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کرنے سے رکے رہتے اور یہی حضرت علیؓ نے کیا بھی۔ اگر بعد میں وہ بیعت پر رضا مند ہو گئے تھے تو محض اس لیے کہ کہیں ایسا فتنہ پیدا نہ ہو جائے جو مسلمانوں کا اتحاد پارہ پارہ کر دے، خصوصاً اس صورت میں کہ عرب کے طول و عرض میں ارتداد کا فتنہ پھوٹ پڑا تھا اور مدینہ کی حکومت کے خلاف عربوں کی بغاوت سے دین اسلام کی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔

ابو بکرؓ کی پر امن خلافت:

خواہ مورخین میں حضرت علیؓ اور بنی ہاشم کی بیعت خلافت کے متعلق کتنا ہی اختلاف ہو لیکن اس امر پر سب متفق ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے اول روز ہی سے خلافت کا کاروبار بغیر کسی شور و شر اور فتنہ و فساد کے سنبھال لیا۔ اس سلسلے میں ایک بھی روایت موجود نہیں جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ بنی ہاشم کے کسی فرد یا کسی اور شخص نے ابو بکرؓ کے خلاف مسلح بغاوت یا اعلان جنگ کرنے کا ارادہ کیا ہو۔ چاہے اس کا باعث لوگوں کے دلوں میں اس بلند ترین مرتبے کا احساس ہو جو رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکرؓ کو حاصل تھا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تھا ”اگر میں بندوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکرؓ کو بناتا“ یا وہ شرف قربت ہو جو ہجرت کے موقع پر انہیں حاصل ہوا یا ان کے وہ فضائل و محاسن ہوں جن کے باعث لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت کا احساس پیدا ہو گیا تھا، یا وہ مدد ہو جو وہ ہر موقع پر رسول اللہؐ سے روار کھتے تھے یا یہ واقعہ ہو کہ اپنے اپنی آخری علالت میں انہیں نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ بہر حال ان کی بیعت کا سبب خواہ کوئی بھی ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ ان کے مقابلے میں کوئی شخص اٹھا اور نہ کوئی شخص جس نے ایک مرتبہ ان کی بیعت کر لی تھی، بیعت سے کنارہ کشی کرنے والوں کے پاس گیا۔

یہ امر اس بات کی محکم دلیل ہے کہ اولین مسلمانوں کے دلوں میں خلافت کا جو

تصور تھا وہ اس تصور سے بالکل مختلف تھا جو بعد میں بنی امیہ کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا۔ اولین مسلمانوں کے دلوں میں خلافت کا تصور اس عربی تمدن کے عین مطابق تھا جو رسول اللہؐ کی بعثت کے وقت عرب میں رائج تھا۔ لیکن جب اسلامی فتوحات نے وسعت اختیار کی اور عربوں کا اختلاط کثرت سے مفتوحہ قوموں کے ساتھ ہونے لگا تو اس اختلاط اور مملکت اسلامیہ کی وسعت کے نتیجے میں خلافت کے متعلق مسلمانوں کے تصور میں بھی فرق آ گیا۔

مسلمانوں کا تصور خلافت :

ابتداء میں مسلمانوں کا تصور خلافت خاص عربی نقطہ نگاہ سے تھا۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہؐ نے کسی شخص کے لیے خلافت کی وصیت نہ فرمائی۔ اس امر کے پیش نظر جب ہم رسول اللہؐ کی وفات کے دن سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار اور مہاجرین کے درمیان تنازع اور عام بیعت کے بعد بنی ہاشم اور دوسرے تمام مہاجرین کے درمیان خلافت کے سلسلے میں پیدا شدہ چشمک پر غور کرتے ہیں تو بلاشبہ صریحاً عیاں ہو جاتا ہے کہ خلیفہ اول کا انتخاب کرنے کے موقع پر اہل مدینہ نے اجتہاد سے کام لیا۔ کتاب و سنت میں خلافت کے لیے کوئی سند نہ تھی۔ اس لیے مدینہ کے مسلمانوں نے جس شخص کو خلافت کی گراں بار ذمہ داری اٹھانے کا اہل سمجھا اسے خلافت سپرد کر دی۔ اگر انتخاب خلیفہ کا معاملہ مدینہ سے باہر دوسرے قبائل عرب تک بھی محیط ہو جاتا تو حالات بالکل مختلف ہوتے اور اس صورت میں حضرت عمرؓ کے قول کے مطابق حضرت ابوبکرؓ کی بیعت اتفاقیہ اور ناگہانی نہ ہوتی۔

حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کے موقع پر جو طریقہ استعمال کیا گیا تھا وہ بعد کے دو خلیفوں (حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ) کے انتخاب کے وقت استعمال نہ کیا جا سکا۔ حضرت ابوبکرؓ نے اپنی وفات سے قبل حضرت عمرؓ کی خلافت کی وصیت فرمادی تھی اور حضرت عمرؓ نے اپنی وفات سے پہلے انتخاب خلیفہ کے لیے چھ آدمیوں کی ایک کمیٹی مقرر کر دی تھی۔ جب حضرت عثمانؓ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں حضرت علیؓ اور امیر معاویہ کے درمیان اختلافات رونما ہو کر بالآخر خلافت امویوں کے ہاتھ میں آئی تو انتخاب کا طریقہ بالکل بدل گیا اور خلافت باپ کے بعد بیٹے اور بیٹے کے بعد پوتے کی طرف منتقل ہونے لگی۔

ان واقعات اور حوادث کو دیکھتے ہوئے اس قول کی قطعاً گنجائش نہیں رہتی کہ اسلام نے سلطنت کا نظام سنبھالنے کے لیے باقاعدہ اصول مقرر کیے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سراسر ایک اجتہادی معاملہ ہے جو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق بدلتا چلا گیا ہے اور مختلف مدتوں میں ہمارے سامنے پیش ہوتا چلا آیا ہے۔

اسلام کا نظام حکومت:

ابو بکرؓ نے اپنے عہد میں جو نظام جاری کیا وہ خالص عربی نظام تھا۔ رسول اللہؐ کے زمانے سے اتصال اور خود ان کے آپ سے گہرے تعلق کے باعث ان کے زمانے میں جو نظام رائج ہوا وہ تقریباً وہی تھا جو رسول اللہؐ کے زمانے کا تھا۔ لیکن جب حالات متغیر ہوئے اور اسلامی فتوحات میں وسعت پیدا ہوئی تو یہ نظام بھی آہستہ آہستہ متا چلا گیا۔ یہاں تک کہ عہد عباسیہ کے زمانہ عروج اور ابو بکرؓ کے زمانے کے نظام ہائے حکومت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے بعد میں آنے والے تین خلفاء کے جاری کردہ نظاموں میں بھی بہت فرق تھا۔

ابو بکرؓ کا عہد اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل منفرد ہے۔ ان کا زمانہ رسول اللہؐ کی دینی سیاست اور حکومت کی دنیوی سیاست کا سنگم تھا۔ یہ درست ہے کہ دین مکمل ہو چکا تھا اور کسی شخص کو اس میں تغیر و تبدل اور اس کی ترمیم کرنے کا حق حاصل نہ تھا لیکن رسول اللہؐ کی وفات کے معاً بعد عرب میں ارتداد کی وبا پھیل گئی اور بہت سے قبائل اسلام سے روگرداں ہو گئے۔ اس صورت حال کی موجودگی میں ابو بکرؓ کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ اس عظیم الشان خطرے کو دور کرنے کے لیے ایک مضبوط پالیسی مرتب کریں۔ رسول اللہؐ نے اپنی زندگی میں ہمسایہ مملکتوں کے سربراہوں کو اسلام کی دعوت پہنچانے کا ایک اہم فریضہ بھی شروع کیا تھا۔ ابو بکرؓ کو اسے بھی پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا۔

انہوں نے یہ کام کس طرح انجام دیا؟ اور یہ اہم ذمہ داری کس طرح ادا کی؟ اس کا تفصیلی ذکر ہم آئندہ ابواب میں کریں گے۔



تیسرا باب

عرب رسول اللہؐ کی وفات کے وقت

ادھر مدینہ میں ابو بکرؓ کی بیعت کی جا رہی تھی ادھر قبائل عرب میں رسول اللہؐ کی خبر وفات آگ کی سی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ عرب میں کوئی خبر اتنی تیزی سے نہیں پھیلی جتنی وفات رسول اللہؐ کی اطلاع۔ جونہی اس حادثے کی شہرت ہوئی عربوں نے فوراً حکومت مدینہ کا جوا کندھوں سے اتارنے اور بعثت نبویؐ سے قبل کی بدویانہ و غیر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آنا فانا عرب کے ہر قبیلے میں ارتداد کی لہر دوڑ گئی نفاق کا ستارہ اوج پر پہنچ گیا یہودیوں اور نصرائیوں کی بن آئی اور چاروں طرف مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ رسول اللہؐ کی وفات سے مسلمانوں کی حالت اس بکری کی سی ہو گئی جو جاڑے کی سرد اور بارش والی رات کو صحرائے لق و دق میں بغیر چرواہے کے رہ جائے اور اسے سر چھپانے کو کہیں جگہ نہ مل سکے۔

قبل ازیں مہاجرین اور انصار کے درمیان قضیہ خلافت کے بارے میں تفصیل سے بحث کی جا چکی ہے اگر اس موقع پر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی اور ابو بکرؓ و عمرؓ کی حکمت عملی آڑے نہ آ جاتی تو یہ قضیہ کسی صورت دبائے نہ دیتا اور مسلمانوں کو بھی اتفاق و اتحاد نصیب نہ ہوتا۔

اہل مکہ ارتداد کے دروازے پر:

اگر مدینہ اور مکہ کے حالات کا موازنہ کیا جائے تو مدینہ کے واقعات مکہ کے حالات کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھتے تھے۔ مدینہ میں تو صرف خلافت پر جھگڑا تھا لیکن اہل مکہ نے تو ارتداد کی تیاریاں شروع کر دی تھیں اور عامل مکہ عتاب بن اسید، لوگوں کے خوف

سے روپوش ہو گئے تھے۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ اہل مکہ فتنے کی آگ سے بچے رہیں۔ اس لیے وہ رسول اللہ کے مخلص صحابی سہیل بن عمرو کی سعی کے بل پر ارتداد سے محفوظ رہے۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے اہل مکہ کے تذبذب کی حالت دیکھی تو تمام لوگوں کو جمع کیا اور رسول اللہ کی وفات کا ذکر کر کے کہا:

”آپ کی وفات سے اسلام کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئی، اس بارے میں جو شخص شک و شبہ میں گرفتار ہوگا، تذبذب کی راہ اختیار کرے گا اور ارتداد کے متعلق سوچے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔“

ممکن تھا کہ دھمکی کا اثر الٹا ہوتا اس لیے سہیل نے دھمکی کے ساتھ ساتھ ترغیب و تحریض سے بھی انہیں اسلام پر قائم رہنے کی تلقین ان الفاظ میں کی:

”یقیناً اسلام بدستور قائم رہے گا، اسے کوئی ضعف نہ پہنچے گا اور رسول اللہ کے حسب ارشاد خلافت بھی تمہارے ہی حصے میں آئے گی۔“

سہیل کے اس پرزور دعوے نے اہل مکہ کے دلوں پر دھمکی سے زیادہ اثر کیا، وہ ارتداد اختیار کرنے سے رک گئے اور فوراً بعد انہوں نے یہ بھی سن لیا کہ خلافت ابو بکر کے حصے میں آئی ہے جو قریش کے ایک معزز فرد ہیں۔ اس پر وہ مطمئن ہو گئے اور بدستور اسلام پر قائم رہے۔

فتنہ ارتداد اور قبیلہ ثقیف:

طائف کے قبیلہ ثقیف نے بھی ارتداد اختیار کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب وہاں کے عامل عثمان بن ابوالعاص کو معلوم ہوا تو انہوں نے قبیلہ والوں کو اکٹھا کر کے کہا:

”اے ابناء ثقیف! تم لوگ سب سے پیچھے اسلام لائے تھے، اب سب سے پہلے ارتداد اختیار کرنے والے مت بنو۔“

سہیل کا اشارہ رسول اللہ کے اس قول کی طرف تھا ”الاثمۃ من قریش“ یعنی خانہ قریش میں سے ہوں

ثقیف کو وہ سلوک یاد تھا جو جنین کی جنگ کے بعد رسول اللہ نے ان سے کیا تھا۔ پھر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے اور اہل مکہ کے درمیان قرابت ہے اس لیے وہ عثمان بن ابوالعاص کے سمجھانے بجھانے پر اپنے ارادے سے باز آ گئے اور بدستور اسلام پر قائم رہے۔ غالباً ابو بکرؓ کی خلافت نے ثقیف پر بھی وہی اثر کیا جو اہل مکہ پر کیا تھا۔

دیگر قبائل عرب کا طرز عمل:

جس طرح مکہ، مدینہ اور طائف کے درمیان بسنے والے قبائل اسلام پر قائم رہے اسی طرح مزینہ، غفار، جہینہ، بلی، النجوع، اسلم اور خزاعہ نے بھی اسلام کو ترک نہ کیا لیکن ان قبائل کے سوا سارے عرب میں اضطراب برپا ہو گیا۔ جن لوگوں کو اسلام قبول کیے زیادہ دن نہ گزرے تھے یا جن لوگوں کے دلوں نے اسلامی تعلیمات کا اثر قبول نہ کیا تھا انہوں نے کھلم کھلا ارتداد اختیار کر لیا۔ باقیوں کے بھی عقائد میں فرق آ گیا۔ ایک گروہ ایسا تھا جو گو اسلام پر تو قائم تھا لیکن مدینہ کی حکومت اور نبلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا خواہ اس پر مہاجرین قابض ہوں یا انصار۔

یہ لوگ ادائے زکوٰۃ کو جزیہ سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ رسول اللہؐ کی زندگی تک تو زکوٰۃ ادا کرنے میں کوئی حرج نہ تھا کیونکہ آپؐ نبی تھے، آپؐ پر وحی نازل ہوتی تھی اور جو کچھ آپؐ ان سے طلب کرتے تھے وہ آپؐ کا حق تھا لیکن اب کہ آپؐ کو اللہ نے جو ارجمت میں بلا لیا ہے اہل مدینہ ان سے کسی بات میں بڑھے ہوئے نہیں اور انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول اللہؐ کی طرح ان سے ادائے زکوٰۃ کا مطالبہ کریں۔

جن قبائل نے ادائے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا وہ مدینہ کے قریبی قبائل عجم اور ذبیان اور ان سے ملحقہ قبائل بنو کنانہ، غطفان اور فزارہ تھے۔ لیکن جو قبائل مدینہ سے خاصے فاصلے پر واقع تھے وہ ارتداد کی رو میں بہہ گئے تھے اور اکثر نے حسب ذیل مدعیان نبوت کا ذبہ کی پیروی اختیار کر لی تھی:

طلیحہ جس نے بنی اسد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

عجاج جس نے بنی تمیم میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

مسیلمہ جس نے یمامہ میں علم بغاوت بلند کیا تھا۔

ذوالتاج لقیط بن مالک جو عمان میں شورش برپا کرنے کا ذمہ دار تھا۔

ان کے علاوہ یمن میں اسود غنسی نے اپنے حامیوں کی ایک بھاری تعداد جمع کر لی تھی۔ یہ لوگ اس کے قتل ہونے تک لڑتے رہے اور بعد میں بھی جب تک جنگبائے ارتداد کا مکمل خاتمہ نہ ہو گیا وہ بدستور فتنہ و فساد میں مصروف رہے۔

بغاوت اور ارتداد کے عوامل:

غلبہ قریش کے خلاف عرب کے شہریوں اور بدویوں کا اٹھ کھڑا ہونا اور کثیر قبائل کا اسلام سے ارتداد اختیار کر لینا صرف اس وجہ سے نہ تھا کہ یہ قبائل مدینہ سے خاصے فاصلے پر واقع تھے اور انہوں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے علم بغاوت بلند کر دیا بلکہ اس کے علاوہ بعض اور عوامل بھی تھے جنہوں نے اس فتنے کو پروان چڑھنے میں مدد دی۔

اسلام عرب کے طول و عرض اور مکہ و مدینہ سے دور دراز کے علاقوں میں اس وقت تک نہ پھیل سکا جب تک فتح مکہ، غزوہ حنین اور محاصرہ طائف کے واقعات پیش نہ آ گئے۔ اس عرصے تک رسول اللہ کا دائرہ کار مکہ، مدینہ اور ان دونوں شہروں کے درمیان بسنے والے قبائل ہی تک محدود رہا۔ اسلام ہجرت مدینہ سے بہت تھوڑا عرصہ قبل مکہ کی حدود سے نکلا تھا۔ ہجرت کے بعد بھی کئی سال تک رسول اللہ مدینہ میں اسلام کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ بعد میں جب مسلمانوں نے یہود کے اثر و اقتدار کو خنجر بن سے اکھاڑ پھینکا اور قریش کو زیر کر کے مکہ فتح کر لیا تو دیگر قبائل عرب بھی اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور عرب کے طول و عرض سے وفود مدینہ آ کر قبول اسلام کا اعلان کرنے لگے۔ رسول اللہ نے بھی اپنے عمال کو دین کا علم سکھانے اور صدقات وغیرہ وصول کرنے کے لیے ان علاقوں میں بھیجنا شروع کیا۔

جغرافیائی عوامل:

یہ طبعی امر تھا کہ ان قبائل کے دلوں میں مکہ، مدینہ اور قریشی علاقوں کے مسلمانوں

کی طرح دین اسلام کی حقانیت راسخ نہ ہوئی تھی۔ اسلام کو پوری طرح پاؤں جمانے میں بیس سال صرف ہوئے۔ مسلمانوں کو اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لیے سخت جدوجہد سے کام لینا، سالہا سال تک مخالفین کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا اور متواتر دشمن سے لڑائیوں میں مصروف رہنا پڑا تھا۔ بالآخر مخالف قید ہو گئے اور مکہ، طائف، مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کے دلوں میں جنہیں رسول اللہؐ اور آپ کے صحابہ سے بکثرت ملنے جلنے کا موقع ملا۔ اسلامی تعلیمات راسخ ہو گئیں۔ لیکن ان لوگوں پر اسلامی تعلیمات کا کوئی اثر نہ ہوسکا جو اسلامی مراکز سے دور تھے اور جنہوں نے اسلام کی خاطر مسلمانوں کی جدوجہد کو نہ آنکھوں سے دیکھا تھا اور نہ ان کی قربانیوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہؐ کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے اس نئے دین سے چھٹکارا حاصل کرنے کی سعی شروع کر دی جو ان کے خیال میں زبردستی ان پر مسلط کر دیا گیا تھا۔

اجنبی عوامل:

جغرافیائی عوامل کے علاوہ اجنبی عوامل بھی ان قبائل کے خلاف اسلام اٹھنے میں کم اثر انگیز نہ تھے مکہ، مدینہ کے ارد گرد کے علاقے تو ایرانیوں اور رومیوں کی دست برد سے محفوظ تھے لیکن عرب کا شمالی حصہ جو شام سے متصل تھا اور جنوبی علاقہ جو ایران سے ملا ہوا تھا ان دونوں عظیم الشان سلطنتوں کے زیر اثر تھا۔ ان دونوں سلطنتوں کو ان علاقوں میں بہت اثر و رسوخ حاصل تھا اور یہاں کے سردار بھی براہ راست رومیوں اور ایرانیوں کے تابع تھے۔ ان امور کی موجودگی میں کچھ تعجب نہیں کہ ارتداد کی رو میں مندرجہ ذیل عوامل کام کر رہے ہوں!

۱۔ شخصی آزادی اور خود مختاری کا جذبہ۔

۲۔ شمال میں مسیحی اور جنوب و مشرق میں مجوسی سلطنتوں سے قرب کے باعث

مسیحیت اور مجوسیت کا دلوں پر اثر۔

۳۔ آبائی عقیدے (بت پرستی) کی کشش۔

جو نبی رسول اللہؐ کی خبر وفات مشہور ہوئی ان عوامل نے اثر دکھانا شروع کر دیا اور

جا بجا ارتداد کا فتنہ برپا ہونے لگا۔ بعض علاقوں میں تو رسول اللہؐ کی زندگی ہی میں ان عوامل نے اثر کرنا شروع کر دیا تھا جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان ہوگی۔ متعدد ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہو گئے جنہوں نے اپنے قبیلوں کو بغاوت کرنے پر اکسانا اور اپنے جھنڈے تلے جمع کرنا شروع کیا اور اس طرح عرب کے طول و عرض میں ایک زبردست فتنہ پھیل گیا۔

منکرین زکوٰۃ کی منطق:

جو لوگ ادائے زکوٰۃ سے انکاری تھے آپس میں کہتے تھے کہ مہاجرین اور انصار چونکہ خلافت کے بارے میں جھگڑا کر چکے ہیں اور رسول اللہؐ نے وفات سے قبل کسی شخص کی خلافت کے متعلق وصیت نہیں کی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام پر قائم رہتے ہوئے خود مختاری کی حفاظت کریں اور ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ انصار و مہاجرین کی طرح ہم بھی اپنے میں سے کسی شخص کو اپنا امیر مقرر کر لیں جو ہمارے لیے جانشین رسول اللہؐ کے طور پر ہو۔ ابو بکرؓ یا ان کے سوا کسی اور کی اطاعت سے متعلق نہ دین میں کوئی نص موجود ہے اور نہ کتاب اللہ سے اس کا پتا چلتا ہے اس لیے ہم پر صرف اسی شخص کی اطاعت واجب ہے جسے ہم خود اپنا امیر مقرر کریں۔

یہ لوگ اپنی تائید میں یہ امر بھی پیش کرتے تھے کہ رسول اللہؐ نے عرب کے متعدد شہروں کو اپنی زندگی ہی میں بڑی حد تک خود مختاری عطا فرمادی تھی۔ اب اگر آپ کی وفات کے بعد وہ مکمل خود مختاری چاہتے ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے یمن کے عامل بدھان (یا بازان) کو جو ایرانیوں کی جانب سے وہاں حکومت کر رہا تھا۔ مجوسیت ترک کرنے اور اسلام لانے کے بعد بدستور وہاں کا حکم بنائے رکھا۔ اسی طرح بحرین اور حضرموت وغیرہ کے تمام امراء کو بھی قبول اسلام کے بعد ان کے عہدوں پر برقرار رکھا اور اپنی طرف سے کوئی نیا عامل ان علاقوں میں نہ بھیجا۔

زکوٰۃ کے بارے میں ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اصل میں جزیہ ہے جو ان پر عائد کیا گیا ہے حالانکہ جزیہ صرف غیر مسلموں پر واجب ہے۔ اس صورت میں کہ وہ ویسے ہی مسلمان ہیں جیسے مدینہ والے تو وہ کیوں حاکم مدینہ کو زکوٰۃ ادا کریں؟ ان کے اور اہل مدینہ

کے درمیان صرف ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے دین اسلام، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدینہ والے ان پر حکومت کرنے کے بھی حق دار ہیں۔ اہل مدینہ کو بے شک اسلام میں اولیت کا شرف حاصل ہے لیکن دوسرے قبائل پر اپنی اس فضیلت کا اظہار وہ صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی طرف معلمین بھیجیں جو انہیں دین کا علم سکھائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہؐ گیا کرتے تھے۔ وہ اور ہم بے شک ایک ہی امت ہیں۔ لیکن اس سے یہ کسی طرح لازم نہیں آتا کہ کسی فریق کو دوسرے فریق پر غلبہ و تسلط حاصل ہو اور ایک قبیلے کو اس کی آزادی و خود مختاری کی نعمت سے محروم کر دیا جائے۔

اس قسم کے خیالات ان قبائل میں پیدا ہو رہے تھے جو کہ مکہ، مدینہ اور طائف کے قریب واقع تھے۔ لیکن یمن اور دور دراز کے علاقوں کے حالات بالکل مختلف تھے۔ ان لوگوں میں جو نبی رسول اللہؐ کی خبر وفات مشہور ہوئی ان کے ایمان متزلزل ہونے لگے اور انہوں نے نہ صرف ارتداد اختیار کر لیا بلکہ ان لوگوں کے جھنڈے تلے جمع ہو کر سلطنت اسلامیہ سے بغاوت کی تیاریاں شروع کر دیں جنہوں نے قبائلی عصبیت کی آگ بھڑکا کر لوگوں کے دلوں میں اہل مکہ و مدینہ کے خلاف سخت نفرت پیدا کر دی تھی۔ یہ لوگ کسی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان نہ ہوئے تھے بلکہ یہ دیکھ کر کہ رسول اللہؐ کا اقتدار نہایت تیزی سے روم و ایران کی سرحدوں تک پھیل گیا ہے اور سارے عرب پر آپؐ کی حکومت قائم ہو گئی ہے طوعاً و کرہاً اسلام لانے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کے وفد مدینہ میں آتے اور اپنے اور اپنے قبیلوں کی طرف سے اسلام لانے کا اعلان کرتے تھے۔

مدعیان نبوت کا خروج:

فتنے کی آگ سب سے زیادہ بھڑکانے والے لوگ وہ تھے جو نبوت کے مدعی بن کر کھڑے ہوئے اور دعوے کرنے لگے کہ ان پر اسی طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح محمدؐ پر۔ ان لوگوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن بعد میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بعض نے تو رسول اللہؐ کے زمانے ہی میں خروج کر دیا تھا۔

بنی اسد میں طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک بار وہ اپنی قوم کے ساتھ سفر کر رہا

تھا۔ سخت گرمی کے دن تھے اور پیاس کے مارے لوگوں کا دم نکلا جا رہا تھا۔ اچانک انہیں صحرا میں ایک شیریں چشمہ مل گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی نبوت پر لوگوں کا ایمان مستحکم ہو گیا۔

بنی حنیفہ میں مسلمانوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے صرف دعوائے نبوت پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ رسول اللہؐ کے پاس پیغام بھی بھیجا کہ ”مجھے نبوت میں آپ کا شریک کیا گیا ہے۔ اس لیے نصف زمین قریش کی ہے اور نصف زمین میری۔ لیکن قریش بڑی بے انصاف قوم ہے۔“

یمن میں اسود غنسی نبوت کا مدعی بن کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے طاقت حاصل کر کے یمن پر قبضہ کر لیا اور رسول اللہؐ کے عامل کو وہاں سے نکال دیا۔

رسول اللہؐ نے ان مدعیان نبوت کی طرف زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ آپ کو یقین تھا، دین خدا میں اتنی قوت موجود ہے کہ ان مدعیوں کے کذب و افتراء کے مقابلے میں کافی ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ وقت پڑنے پر بخوبی ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

اسود غنسی کا فتنہ:

یہ مدعیان نبوت بھی اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ رسول اللہؐ کی زندگی میں وہ آپ کے مقابلے پر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے اور اسی احساس کے باعث اسود غنسی کے سوا اور کسی مدعی نبوت نے آپ کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کرنے کی جرات نہ کی۔ اسود غنسی کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے رسول اللہؐ کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ ہی کے عہد میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس نے بھی اپنے بھائیوں کی سی روش اختیار کیے رکھی..... اور اندر ہی اندر اپنے لیے زمین ہموار کرتا رہا، رسول اللہؐ کی وفات کے بعد اس نے اعلانیہ اسلام کے خلاف بغاوت کر دی اور میدان مقابلہ میں آ گیا۔ یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتا ہے:

”اسود غنسی نے رسول اللہؐ کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

آپ کی وفات کے بعد اس نے ترقی کرنی شروع کی اور اس کی قوم

کے ہزاروں افراد اس کے حلقہ اطاعت میں داخل ہونے لگے۔
بالآخر دو شخصیتوں قیس بن مکشوح المرادی اور فیروز دیلمی نے اس کے
گھر میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ اس وقت وہ نشے کے عالم میں
تھا۔“

طبری بھی اپنی ایک روایت میں لکھتا ہے:
”رسول اللہؐ کی وفات کے بعد مرتدین سے پہلی جنگ یمن میں اسود
غسی کے خلاف لڑی گئی۔“

رسول اللہؐ کی زندگی کے آخری حصے میں عرب کا ملا پر سکون نہ تھا بلکہ اندر ہی اندر
فتنے کی آگ سلگ رہی تھی۔ عرب کا شمال مشرقی اور جنوبی حصہ سارے کا سارا اس آگ
میں جل رہا تھا۔ اس حالت انتشار کو وہ روحانی قوت ہی دور کر سکتی تھی جو اللہ نے اپنے رسولؐ
کو مرحمت فرمائی تھی۔ اگر رسول اللہؐ کی بالغ نظری، حکمت عملی اور حسن تدبیر کے ساتھ اللہ کا
فضل شامل حال نہ ہوتا تو سخت خطرہ تھا کہ یہ آگ آپؐ کی زندگی ہی میں پورے طور سے
بھڑکنے لگتی اور سارا عرب اس میں جل کر خاکستر ہو جاتا۔

یمن میں فتنہ اسود:

اغلب گمان یہ ہے کہ اسود غسی کا فتنہ رسول اللہؐ کی زندگی کے آخری حصے میں برپا
ہوا تھا۔ مورخین اس بغاوت کا حال جس طرح بیان کرتے ہیں اس سے بعض ایسے پہلو
نمایاں ہوتے ہیں جو خاصے غور و فکر کے محتاج ہیں۔

اس واقعے کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ جب رسول اللہؐ نے بادشاہوں کو تبلیغی
خطوط لکھنے شروع کیے تو کسریٰ شاہ فارس کو بھی ایک خط لکھا جس میں اسے اسلام لانے کی
دعوت دی۔ جب اسے خط کے مضمون کا ترجمہ سنایا گیا تو اس نے اپنے عامل یمن بازانؓ کو
حکم بھیجا کہ ”حجاز سے اس آدمی کا سر منگوا کر مابعد دولت کے پاس بھیج دو جس نے عرب میں
نبوت میں دعویٰ کیا ہے۔“

اس زمانے میں رومی ایرانیوں کے زیر نگیں تھے لیکن کسریٰ کے یہ خط لکھنے کی دیر تھی کہ حالات بدل گئے اور وہ رومی جو اس سے قبل ایرانیوں کی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے اب ان کی غلامی کا جوا اتار پھینکنے کو تیار ہو گئے۔ نہ صرف انہوں نے ایرانیوں کی غلامی سے نجات حاصل کر لی بلکہ ان پر غلبہ پا کر ان کی طاقت و قوت کو بے حد کمزور بھی کر دیا۔

جب بازان کو اپنے آقا کا خط ملا تو اس نے اپنے دو آدمیوں کو وہ خط دے کر رسول اللہؐ کی خدمت میں بھیجا مگر آپؐ نے ان آدمیوں کو یہ کہہ کر لوٹا دیا:

میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے بادشاہ (کسریٰ) کو اس کے بیٹے شیریہ نے ہلاک کر دیا ہے اور اس کی جگہ خود بادشاہ بن بیٹھا ہے۔“

ساتھ ہی آپؐ نے بازان کو اسلام لانے کی دعوت بھی دی اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اسلام لے آیا تو آپؐ اسے بدستور یمن کا حاکم بنائے رکھیں گے۔ اسی عرصے میں ایران کی گڑبڑ، تخت شاہی پر شیریہ کے قبضے اور رومیوں کے غلبے کی خبریں بھی بازان کو مل گئیں۔ اس نے رسول اللہؐ کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ آپؐ نے اپنے وعدے کے مطابق اسے بدستور یمن کا حکم بنائے رکھا۔

بازان کی وفات کے بعد رسول اللہؐ نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے پر مختلف آدمیوں کو حاکم مقرر کر دیا۔ بازان کے لڑکے شہر کو صفاء اور اس کے گرد و نواح کی حکومت تفویض ہوئی۔ باقی عاملوں میں سے بعض تو یمن ہی کے باشندے تھے اور بعض کو رسول اللہؐ نے مدینہ سے حاکم مقرر کر کے بھیجا تھا۔ ان عمال نے اپنی اپنی ولایت میں پہنچ کر نظم و نسق سنبھالا ہی تھا کہ انہیں اسود غنسی کا پیغام ملا کہ وہ فوراً یمن سے نکل جائیں کیونکہ یمن پر حکومت کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے۔ یہ تھی اس فتنے کی ابتداء۔

اسود غنسی کے فتنے کا آغاز:

اسود اصل میں ایک کاہن تھا جو یمن کے جنوبی حصے میں رہتا تھا۔ اس نے شعبدہ بازی اور مسیح و مقدسی گفتگو کی وجہ سے بہت جلد لوگوں کی توجہ اپنی طرف منعطف کر لی۔ بالآخر

وہ نبوت کا مدعی بن بیٹھا اور اپنا لقب ”رحمان الیمین“ رکھا بعینہ جیسے مسلمانہ نے اپنا لقب رحمان الیمامہ^۱ رکھا تھا۔ وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو ہر بات اسے بتا دیتا ہے اور اس کے دشمنوں کے تمام منصوبے طشت از بام کر دیتا ہے۔ اس کا قیام مذحج کے علاقے میں ایک غار میں تھا جسے خبان کہتے تھے۔ جہلاء کی ایک بہت بڑی جماعت ان کی باتوں سے مسحور ہو کر اس کے گرد اکٹھی ہو گئی۔

اسود اس جماعت کو لے کر نجران کی طرف روانہ ہوا اور وہاں کے مسلمان حاکموں، خالد بن سعید اور عمرو بن حزم کو شہر سے نکال دیا۔ اہل نجران کی ایک بھاری تعداد بھی اسود کے ساتھ مل گئی تھی وہ اسے لے کر صفاء روانہ ہوا۔ وہاں شہر بن باز ان سے مقابلہ پیش آیا۔ اسود نے اسے شہید کر دیا اور اس کی فوج کو شکست دی۔ یہ دیکھ کر صفاء میں مقیم مسلمانوں کو وہاں سے مدینہ آنا پڑا۔ انہیں لوگوں میں معاذ بن جبل بھی تھے۔ ادھر خالد بن سعید اور عمرو بن حزم بھی نجران سے مدینہ پہنچ گئے۔ اب یمن پر اسود قابض تھا اور حضرموت سے بحرین احسا اور عدن تک اسی کا طوطی بول رہا تھا۔

فتنہ غنسی کے عوامل:

جب اسود صفاء میں شہر بن باز ان کے مقابلے پر آیا تھا تو اس کے ساتھ صرف سات سو سوار تھے جن میں سے بعض اس کے ساتھ مذحج سے آئے تھے اور بعض نجران سے ہمراہ ہو لیے تھے۔ تعجب ہوتا ہے کہ اس قلیل تعداد سے یہ کاہن اس علاقے کے لوگوں پر کس طرح فتح یاب ہو گیا اور کسی جانب سے بھی اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھی؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس علاقے کے باشندے پہلے ایرانیوں کے زیر نگیں تھے، ان کے بعد حجازی مسلمانوں کے زیر تسلط آ گئے۔ یمن اور حجاز کے لوگوں میں دیرینہ حکومت اور بغض و عناد پایا جاتا تھا۔ جب اسود غنسی نے کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا کہ یمن صرف یمنیوں کا ہے تو وہاں کے

۱۔ لغت کی کتاب لسان العرب میں لکھا ہے کہ رَحْمَنُ اللہ کی صفت ہے جو اس کے سوا اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب میں یہ بھی مذکور ہے کہ رَحْمَنُ کا لفظ عبرانی ہے اور رحیم عربی۔ بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب کے جنوبی حصے میں ایک معبود کا نام رحمان تھا جس سے اہل حجاز واقف نہ تھے۔

باشندے اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ کوئی شخص مسلمانوں کی حمایت میں اس کا ہن اور شعبہ باز کے سامنے کھڑا نہ ہوا۔ یمن مختلف مذاہب کا اکھاڑہ تھا۔ یہاں یہودیت بھی پائی جاتی تھی، نصرانیت کا وجود بھی ملتا تھا اور مجوسیت نے بھی اثر جما رکھا تھا۔ ان کے بعد اسلام نے اپنا علم بلند کیا لیکن ابھی تک اصول یمینوں کے ذہنوں میں راسخ نہ ہوئے تھے۔ جب ایک مدعی نبوت کھڑا ہوا۔ لوگوں کو تحفظ قومیت کا واسطہ دے کر اپنی طرف بلایا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ اجنبی عناصر کو یہاں سے کلیۃً نکال پھینکے گا تو وہ لوگ جو ایک عرصے سے اجنبی تسلط کے باعث تنگ آ چکے تھے، اس کی امداد کو دوڑ پڑے۔ اس صورت میں مسلمانوں کے لیے فرار کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا۔ بقیہ ایرانیوں کے لیے بحر اس کے اور کوئی راستہ نہ تھا کہ یا تو اسود غنی کی اطاعت قبول کر لیں یا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔

فتنہ کا مقابلہ:

جب یہ تشویش ناک خبریں مدینہ میں پہنچیں تو رسول اللہؐ غزوہ موتہ کا انتقام لینے اور شمالی جانب سے حملوں کا سد باب کرنے کے لیے رومیوں پر چڑھائی کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور اسامہؓ کے لشکر کو تیاری کا حکم دے چکے تھے، مگر جب یہ خبریں ملیں تو اب آپ کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک یہ کہ آپ اس لشکر کو بغاوت کے فرد کرنے کے لیے یمن بھیج دیں تاکہ مسلمان وہاں دوبارہ قابض ہو سکیں یا پروگرام کے مطابق اسے رومی سرحد ہی کی جانب روانہ کر دیں اور اسود غنی کا مقابلہ کرنے کے لیے فی الحال انہی مسلمانوں سے کام لیں جو یمن میں موجود تھے۔ اگر وہ اس پر غالب آ گئے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی ورنہ جب اسامہؓ کا لشکر رومیوں پر فتح یاب ہو کر آئے گا تو اسود اور دیگر باغیوں کے مقابلے اور ان کا قلع قمع کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔

بہت ہی احتیاط سے معاملے پر غور کرنے کے بعد رسول اللہؐ نے دوسری تجویز پر عمل کرنا مناسب سمجھا اور و بر بن یمنس کو یمن کے مسلمان سرداروں کے نام یہ پیغام دے کر بھیجا کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنے کی پوری جدوجہد کریں۔ اسود سے جنگ

جاری رکھیں اور ہر ممکن طریقے سے اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں۔ آپ نے یمن کے متعلق فی الحال یہی کارروائی کرنی مناسب سمجھی اور پوری قوت سے لشکر اسامہ کی تنظیم میں مصروف ہو گئے۔

ابھی اسامہ کا لشکر روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ رسول اللہؐ بیمار ہو گئے اور لشکر رک گیا۔ دریں اثناء اسود غنسی اپنی سلطنت مضبوط کرنے کی تدابیر میں مصروف رہا۔ اس نے تمام علاقوں میں اپنے عامل مقرر کیے اور جا بجا فوجیں متعین کیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی اس نے زبردست قوت حاصل کر لی اور عدن تک کا سارا ساحل اور صفاء سے طائف تک کی تمام وادیاں اور پہاڑ اس کے زیر نگیں آ گئے۔

اسود غنسی کے عہدیدار:

قیس عبد یغوث کو اسود غنسی نے اپنا سپہ سالار بنایا اور دوا یرانیوں: فیروز اور داؤدیہ کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ اس نے شہر بن بزان کی بیوہ آزاد سے شادی بھی کر لی جو فیروز کی چچیری بہن تھی۔ اس طرح عرب اور عجم دونوں اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جب اس نے اپنی یہ شان و شوکت دیکھی تو خیال کر لیا کہ روئے زمین کا مالک وہی ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرتابی کر سکے۔

اسود غنسی کے خلاف بغاوت:

لیکن وہی عوامل جو اس کی فتح مندی کا موجب ہوئے تھے، بالآخر اس کے زوال کا باعث بنے۔ انہی قیس، فیروز اور داؤدیہ سے جنہیں اس نے اعلیٰ عہدوں پر متمکن کیا تھا اسے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اور مؤخر الذکر شخصوں اور یمن میں مقیم ایرانیوں کے متعلق تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ حیلوں، سازشوں اور مکر و فریب سے اس کی سلطنت کا تختہ الٹنے کی فکر میں ہیں۔

اسود کی ایرانی بیوی کو بھی اسود کی زبانی ان لوگوں کی مخالفت کا حال معلوم ہو گیا۔ اس کی رگوں میں بھی ایرانی خون دوڑ رہا تھا اور وہ دل میں اس کا ہن کے خلاف نفرت و

حقارت کے جذبات پنہاں کیے ہوئے تھی۔ جس نے اس کے پیارے خاوند کو اس سے جدا کر دیا تھا۔ پھر بھی اس نے نسوانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نفرت و حقارت کو اس سے چھپائے رکھا، اور طرز سلوک سے اس پر ہمیشہ یہی ظاہر کیا کہ وہ اس کی نہایت وفادار بیوی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسود اپنی بیوی کی طرف سے بالکل مطمئن رہا اور اس کے دل میں یہ شائبہ تک نہ گزرا کہ وہ کبھی اسے دغا دے سکتی ہے۔ لیکن وہ اپنے دونوں وزیروں اور قائد لشکر سے مطمئن نہ تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے طرز عمل سے اس وفاداری کا ثبوت بہم نہیں پہنچا رہے جو غلام اپنے آقا اور ولی نعمت سے کیا کرتے ہیں۔ قیس کی طرف سے وہ خصوصاً فکر مند تھا۔ کیونکہ سارا لشکر اس کے ماتحت تھا اور وہ لشکر کی مدد سے اس کے خلاف جو چاہتا کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے قیس کو بلایا اور کہا میرے فرشتے نے مجھ پر یہ وحی نازل کی ہے کہ:

”اگرچہ تو نے قیس کی ہر طرح عزت افزائی کی لیکن جب اس نے ہر طرح عمل دخل کر لیا اور وہی عزت جو تجھے حاصل تھی، اسے بھی حاصل ہو گئی تو اب وہ میرے دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے اور تجھ سے غداری کر کے تیرا ملک چھیننے کے درپے ہے۔“

قیس نے جواب دیا:

”آپ کا خیال درست نہیں۔ میرے دل میں آپ کی قدر و منزلت بدستور ہے اور میں آپ کے خلاف بغاوت کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔“

اسود نے گہری اور غائر نظر سے قیس کا جائزہ لیا اور بولا:

”کیا تو فرشتے کو جھٹلاتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرشتے نے ضرور سچ کہا ہے۔ البتہ مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تو اپنی کچھلی کارروائیوں پر نادم ہے اور جو مخفی ارادے تو نے میرے متعلق کر رکھے تھے۔ ان سے توبہ کرتا ہے۔“

قیس کو اسود کی باتیں سن کر یقین ہو گیا کہ وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس لیے وہ وہاں سے نکل کر فیروز اور دادویہ سے ملا اور ساری سرگزشت انہیں سنا کر رائے دریافت

کی۔ انہوں نے کہا خود ہمیں بھی اسود کی طرف سے خطرہ ہے۔

ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسود نے ان دونوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم قیس سے مل کر میرے خلاف سازشیں کر رہے تھے لیکن یاد رکھو میری مخالفت کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ ان دونوں کو بھی یہ باتیں سن کر یقین ہو گیا کہ اسود کی نیت ان دونوں کی طرف سے ٹھیک نہیں۔

ان واقعات کی خبر یمن کے دوسرے مسلمانوں کو بھی ہو گئی۔ ان کے پاس رسول اللہؐ کی طرف سے یہ ہدایت پہلے ہی آچکی تھی کہ جس طرح بھی ہو اسود غنی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ انہوں نے قیس اور اس کے ساتھیوں کو پیغام بھیجا کہ اسود کے معاملے میں ہم سب کی رائے ایک ہے اس لیے اس کے خلاف بالاتفاق کارروائی کرنی چاہیے۔ نجران اور اس کے قریبی علاقے میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی ان واقعات کا علم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جو اسود کے قریب رہتے تھے لکھا کہ وہ بھی دل و جان سے قتل اسود کے خواہش مند ہیں اور اس کام میں ہر طرح ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ ادھر سے انہیں جواب ملا کہ فی الحال وہ اپنی اپنی جگہوں پر مقیم رہیں اور کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے اسود کو شبہ ہو کہ اس کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے۔

ان لوگوں کی یہ رائے بالکل درست تھی کہ اسود کے خلاف جو کارروائی کی جائے خفیہ کی جائے کیونکہ رازداری سے اس کا کام تمام کر دینا کھلم کھلا لڑائی کرنے سے بہر حال بہتر تھا۔ اب ان لوگوں کے مشوروں میں اسود کی بیوی آزاد بھی شامل ہو گئی، گو بظاہر وہ اپنے خاوند کو یہی جتاتی تھی کہ اسے اس سے بے انتہا محبت ہے۔ اس نے فیروز، دادو یہ اور قیس کو ساتھ ملایا اور انہیں اسود کے سونے کا کمرہ دکھا کر ہدایت کی کہ وہ رات کو نقب لگا کر داخل ہو جائیں۔ محل کے ہر گوشے میں اسود کے سپاہی موجود ہوتے ہیں لیکن سونے کے کمرے کی پشت سپاہیوں سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ وہ پشت سے داخل ہوں اور اسے خواب کی حالت میں اچانک قتل کر ڈالیں، خود بھی اس سے نجات حاصل کر لیں اور اسے بھی ایسے ظالم انسان سے مخلصی دلائیں۔

اسود کا قتل:

چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور رات کو پشت کی طرف سے محل میں داخل ہو کر اسود کو قتل کر ڈالا۔ سچ ہونے پر انہوں نے اوائلی دینی سروس میں اور بعد ازاں سے کہا: ”وہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور عہلہ (اسود غنسی کا نام) کذاب ہے۔ اسود کے سر بھی انہوں نے محل کے باہر پھینک دیا۔ ان کی آوازیں سن کر محل کے پہرے داروں نے ان کا محاصرہ کر لیا لیکن اسی دوران میں اہل شہر کو اسود غنسی کے قتل ہونے کا پتا چل چکا تھا۔ وہ محل کی طرف بھاگے۔ اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور بالآخر فیصلہ ہوا کہ قیس، فیروز اور دادویہ تینوں جن کا انتظام سنبھالیں گے۔

اس بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ اسود غنسی رسول اللہ کی وفات سے قبل قتل ہوا یا بعد میں۔ اس سلسلے میں یعقوبی کی روایت ہم پہلے درج کر چکے ہیں۔ طبری اور ابن اثیر کا بیان ہے کہ وہ آپ کی وفات سے پہلے ہی جہنم واصل ہو گیا تھا۔ جس رات اس کے قتل کا واقعہ ہوا اسی رات اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو اس واقعے کی اطلاع دے دی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا:

”غنسی قتل کر دیا گیا۔ اسے ایک بابرکت آدمی نے قتل کیا جو خود بھی ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔“

لوگوں نے دریافت کیا:

”حضور!“ اس کا قاتل کون ہے؟“

آپ نے فرمایا ”فیروز۔“

ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسود غنسی کے قتل کی خبر رسول اللہ کی زندگی میں مدینہ نہیں پہنچ سکی بلکہ بعد میں پہنچی اور یہ پہلی خوش خبری تھی جو ابو بکرؓ کو ملی۔

ایک روایت خود فیروز کی زبانی مروی ہے جس میں وہ کہتا ہے:

”جب ہم نے اسود کو قتل کیا تو وہاں کا انتظام اسی طرح برقرار رکھا

جس طرح اسود کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے معاذ بن جبل کو بلا بھیجا

کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں اور دین کی تعلیم دیں۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ تھی کیونکہ ہم نے اپنے بہت بڑے دشمن سے نجات حاصل کی تھی۔
یہ ایک رسول اللہ کی خبر وفات پہنچی اور یمن میں دوبارہ اضطراب پیدا ہو گیا۔“

یہ اضطراب کیوں اور کس طرح پیدا ہوا؟ اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، یہ بیان مرتدین کی جنگوں کے ذیل میں آئے گا۔

جنوبی عرب میں بغاوت:

یمن کی مذکورہ بالا بغاوت تو اسلام کے خلاف ایک زبردست مظاہرہ تھا ہی لیکن یمامہ اور خلیج فارس سے ملحقہ قبائل میں بھی حالات پر سکون نہ تھے بلکہ وہاں بھی اندر ہی اندر بغاوت کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان اس صورتحال سے خاصے پریشان تھے۔ کبھی تو وہ شورش کے بانیوں سے صلح کرنے پر آمادہ نظر آتے تھے اور کبھی طاقت کے ذریعے سے ان کا سرکھلنے کی تدابیر میں مصروف ہو جاتے تھے تا کہ ان کا غلبہ و اقتدار بدستور قائم رہے اور اسے کوئی ضعف نہ پہنچے۔ یہ علاقے ایک طرف تو مکہ اور مدینہ سے دور تھے اور اسلام کی تعلیم ان لوگوں کے دلوں میں راسخ نہ ہوئی تھی، دوسری طرف یہ فارس سے متصل تھے اور ایرانیوں سے ان لوگوں کا تجارتی رابطہ قائم تھا، اس لیے تعجب نہیں کہ ان بغاوتوں اور شورشوں میں ایرانیوں کا بھی خفیہ ہاتھ ہو۔

مسلمہ کا دعویٰ نبوت:

گزشتہ اوراق میں ہم اجمالاً بیان کر چکے ہیں کہ بنی حنیفہ کے مدعی نبوت مسلمہ بن حبیب نے دو قاصدوں کے ہاتھ رسول اللہ کو یہ خط مدینہ بھیجا تھا۔

”من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک، اما بعد فانی

قد اشركت فی الآخر معک، وان لنا لنصف الارض

ولقریش نصف الارض، ولكن قریشاً قوم لا یعدلون۔“

(مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کی طرف آپ پر سلامتی ہو۔ بعد ازاں واضح ہو کہ میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں۔ اس لیے نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی۔ لیکن قریش کی قوم انصاف سے کام نہیں لیتی۔)

رسول اللہ نے یہ سنا تو قاصدوں سے دریافت فرمایا:

”تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟“

انہوں نے جواب دیا:

”ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے۔“

آپ نے غضب ناک نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا:

”اللہ کی قسم اگر قاصدوں کا قتل روا ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔“

اس کے بعد مسلمہ کو یہ جواب لکھوایا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد رسول اللہ الیٰ
مسيلمۃ الکذاب اما بعد فان الارض لله يرثها من يشاء
من عباده المتقين۔“

(محمد رسول اللہ کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے متقی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے)

رسول اللہؐ اس خط کے ٹکڑوں سے ناواقف نہ تھے۔ آپ نے اہل یمامہ کے دلوں سے مسلمہ کا اثر زائل کرنے اور انہیں اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے مدینہ سے ایک شخص نہاراً الرحال کو یمامہ بھیجا لیکن وہ جا کر مسلمہ سے مل گیا اور اہل یمامہ کے سامنے گواہی دی کہ واقعی مسلمہ محمد رسول اللہ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ نہاراً الرحال کی تائید نے مسلمہ کے اثر و نفوذ میں بے پناہ اضافہ کر دیا اور اہل یمامہ جوق در جوق مسلمہ کے حلقہ اطاعت میں شامل ہونے لگے۔ پھر بھی رسول اللہ خدائی رحمت سے قطعاً ناامید نہ

ہوئے۔ آپ کو یقین تھا کہ اللہ مسلمانوں کو رومیوں پر ضرور فتح عطا فرمائے گا اور اس فتح کے نتیجے میں تمام داخلی فتنے اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے۔

رسول اللہ کی حکمت عملی:

اس وقت رسول اللہ کی حکمت عملی یہ تھی کہ ہر قیمت پر رومیوں کو زیر کیا جائے اور عرب کی شمالی حدود کو ہر قل کی فوجوں کی تاخت و تاراج سے محفوظ رکھا جائے۔ اس زمانے میں ہر قل کی قوت و طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا اس نے اپنے وہ تمام علاقے جو کچھ عرصہ قبل ایرانوں کے قبضے میں چلے گئے تھے واپس چھین لیے تھے اور صلیب اعظم کو بھی ایرانیوں سے چھڑا کر بیت المقدس واپس لے آیا تھا۔ اس بات کا زبردست خطرہ تھا کہ کہیں رومی فوجوں کا رخ عرب کی جانب نہ پھر جائے کیونکہ وہاں کے حکمران سرزمین عرب میں ایک نئی قوت کو ابھرتے دیکھ کر سخت پریشان ہو رہے تھے۔ غزوہ موتہ میں اسلامی لشکر رومیوں کے مقابلے کی تاب نہ لا کر واپس ہونے پر مجبور ہوا تھا (گو اسے ان کے مقابل میں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑا) غزوہ تبوک نے مسلمانوں کے رعب و داب میں خاصا اضافہ کر دیا تھا پھر بھی عرب پر رومیوں کے حملے کا خطرہ کلیۃً دور نہ ہوا۔ رسول اللہ کا خیال تھا کہ اگر اسلامی فوجیں رومیوں پر غالب آگئیں تو نہ صرف آئندہ کے لیے عرب علاقوں پر ان کی تاخت و تاراج کا سلسلہ رک جائے گا بلکہ شوریہ سرعرب قبائل بھی چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور طوعاً و کرہاً مسلمانوں کی اطاعت کرنے پر مجبور ہوں گے۔

آپ کا یہ خیال بالکل درست تھا کیونکہ اس زمانے میں عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مسلمانوں ہی کا غلغلہ برپا تھا۔ انہیں عرب کی سب سے بڑی طاقت تسلیم کر لیا گیا تھا۔ یمامہ میں مسلمان، عمان میں لقیط اور بنی اسد میں ظلیحہ اس قابل نہ تھے کہ مسلمانوں سے کھلم کھلا جنگ چھیڑ کر فتح یاب ہو سکتے۔

لقیط، ظلیحہ اور مسلمان تینوں ایسے مناسب موقع کے انتظار میں تھے جب باقاعدہ بغاوت کا اعلان کر کے مسلمانوں کا تختہ الٹ سکیں۔ ابتداء میں ان تینوں نے رسول اللہ پر طعن و تشنیع اور آپ کی رسالت پر اعتراض کیے بغیر اپنا پروپیگنڈہ شروع کیا۔ تینوں کا دعویٰ

تھا کہ وہ نبی ہیں اور جس طرح ہر قوم میں اللہ کی طرف سے نبی مبعوث کیے گئے ہیں، انہیں بھی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ وہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں۔

یہ صورت حال ان علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ ان کے زیرِ پافتنہ کی آگ سلگ رہی تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ کب یہ آگ زور شور سے بھڑک اٹھے۔

جو نبی رسول اللہ کی خبر وفات مشتہر ہوئی یہ آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے دیکھتے عرب ایک آتش فشاں پہاڑ میں تبدیل ہو گیا جس سے آگ اور سیال لاوا نکل کر چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ یہ فتنہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا اور ہر جگہ اس کے اسباب و عوامل بھی علیحدہ علیحدہ تھے۔ ان تمام باتوں کا ذکر ہم آگے چل کر وضاحت سے کریں گے لیکن یہاں بعض ضروری باتوں کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

عرب اور فتنہ مدعیانِ نبوت:

فتنہ و فساد کے اس طوفان پر نظر ڈالنے سے بعض اہم امور کا علم ہوتا ہے جن پر غور و فکر سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی فتنہ اٹھا بڑی تیزی سے اٹھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسود غنی نے تھوڑے ہی عرصے میں ملک کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور اس کی حکومت جنوب میں حضر موت سے مکہ و طائف تک پھیل گئی۔ مسیلمہ اور طلحہ نے بھی غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ مزید برآں جن علاقوں میں ارتداد کی و بلاء پھیلی اور جہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کی اطاعت کا جوا کندھوں پر اٹھانے سے انکار کر دیا وہ علاقے تہذیب تمدن اور دولت و ثروت کے لحاظ سے تمام قبائل عرب سے بڑھے ہوئے تھے اور ان کی حدود مملکت ایران سے بہت قریب تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بکرؓ نے اس فتنے کو فرو کرنے میں پوری طاقت صرف کر دی اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک ان علاقوں میں اسلامی سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر کے امن و امان بحال نہ کر دیا۔

اسود غنی کی بغاوت اور مسیلمہ و طلحہ کی تیاریوں سے اس امر کا بھی علم ہوتا ہے کہ

اس زمانے میں دینی اضطراب اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اگر کوئی شخص مذہب کا نام لے کر ذاتی مفاد کے لیے کوئی تحریک چلانا چاہتا تو بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں کسی خاص مذہب کے متعلق تعصب پایا جاتا تھا۔ بلکہ اس کے برعکس کوئی بھی عقیدہ ان لوگوں کے دلوں میں راسخ نہ تھا۔ نصرانیت، یہودیت، مجوسیت، بت پرستی، غرض ہر مذہب و ملت کے پرستار اور مددگار یہاں موجود تھے لیکن سب کے سب باہم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ہر مذہب کے پرستاروں کا دعویٰ تھا کہ انہیں کا مذہب مبنی برحق ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا راستہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ چونکہ ہر مذہب سچائی کا مدعی تھا۔ اس لیے عام انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ کس مذہب کو قبول کرے اور کسے چھوڑے۔ اندریں حالات مدعیان نبوت کے لیے یہ بات آسان ہو گئی کہ وہ اپنے اپنے قبیلے میں عصیت کے جراثیم پھیلا کر اور مختلف شعبہ دلوں کو اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش کر کے انہیں اپنی طرف مائل کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان مدعیان نبوت نے کثیر التعداد لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے اسلامی حکومت کے خلاف بظاہر کامیابی حاصل کر لی۔

مدعیان نبوت کی عارضی کامیابی:

ان مدعیان نبوت کی عارضی کامیابی کا راز ان کے دعوے اور لوگوں کے ان پر ایمان لانے میں مضمر نہ تھا بلکہ اس میں بعض اور عوامل بھی کام کر رہے تھے۔ چنانچہ اسود غسی کی کامیابی کی بڑی وجہ بے پناہ نفرت تھی جو اہل یمن کو اہل فارس اور اہل حجاز سے تھی۔ اسود نے یمنیوں کا یہ جذبہ نفرت ابھار کر انہیں آسانی سے حجازیوں کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ مسیلہ اور طلحہ نے بھی اسود غسی کے نقش قدم پر چل کر اپنی اپنی قوم میں عصیت کے جذبات کو بھڑکایا اور اس طرح لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ اگر ان علاقوں میں اسلام کی بنیاد مضبوط ہوتی اور اس کے اصول لوگوں کے دلوں میں راسخ ہوتے تو ان مدعیان نبوت کو کبھی حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہونے اور کثیر التعداد لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لینے کی توفیق نہ ملتی۔ کیونکہ جو عقیدہ دلوں پر غلبہ حاصل کر چکا ہو اسے شاذ و نادر ہی کوئی

طاقت مغلوب کر سکتی ہے۔ لیکن مذکورہ بالا علاقوں کے لوگوں کا ایمان چونکہ محض رسمی تھا اور وہ اسلام کی حقیق و ماہیت سے قطعاً ناواقف تھے اس لیے جو نہی قومیت کے نام سے تحریکیں شروع ہوئیں اور عصبیت کا واسطہ دلا کر انہیں ابھارا گیا وہ اسلام کو خیر باد کہہ کر اسود اور مسیلمہ جیسے لوگوں کے پیچھے چل کھڑے ہوئے۔

ہمارے نظریے کی تائید اس حقیقت سے ہوتی ہے کہ اس عظیم الشان شورش کے وقت مکہ اور طائف والے بدستور اسلام پر قائم رہے۔ یہ درست ہے کہ یمن میں اسلام کا چرچا وہاں کے حاکم بازان کے قبول اسلام کے وقت سے شروع ہو گیا تھا اور یہ واقعہ فتح مکہ و طائف سے پہلے کا ہے۔ لیکن ہمیں یہ حقیقت بھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ سیزدہ سالہ قیام کے دوران میں رسول اللہؐ کے مشن کی سخت مخالفت کے باوجود آپؐ کی تعلیمات نے اہل مکہ کے دلوں پر اسلام کے متعلق ایسا مخفی لیکن گہرا اثر چھوڑا تھا جو بازان کے قبول اسلام اور معاذ بن جبل کی تعلیم و تربیت کے باوجود اہل یمن کے دلوں پر نہ ہو سکا۔

تیسری بات جس کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یمن کی بغاوت ہی نے بنی یمامہ اور بنی اسد کو اسلامی حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کی جرات دلائی۔ طلحہ اور مسیلمہ دونوں مسلمانوں کی بے پناہ قوت سے خوف کھاتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی جیت نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حکومت سے بغاوت اور سرکشی کی جرات نہ کی۔ لیکن جب اسود غسی میدان مقابلہ میں آ گیا اور اسے ابتداء کا میابی بھی ہوئی تو ان دونوں کو بھی علم بغاوت بلند کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ رسول اللہؐ کی وفات سے ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے۔ اگر اسود غسی مسلمانوں کے خلاف کھڑا نہ ہوتا اور یمن میں فتنہ و فساد اور بغاوت کی آگ نہ بھڑکتی تو ان دونوں کو کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی جرات نہ ہوتی۔

جب ایک بار فتنہ برپا ہو گیا تو اسود غسی کی موت کے باوجود دب نہ سکا۔ بلکہ اس میں زیادتی ہی ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہؐ کی وفات کے بعد اس نے شدت اختیار کر لی اور سارا عرب اس کی لپیٹ میں آ گیا۔

فتنہ ارتداد اور مستشرقین:

بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ فتنے کا اصل باعث وہ عظیم تفاوت تھا جو عرب کے مختلف طبقوں اور علاقوں میں طرز معاشرت کے بارے میں پایا جاتا تھا اور جس کی نظیر عرب کے سوا دوسرے علاقوں میں کہیں نہیں ملتی۔

بدوی اور شہری طرز زندگی میں عظیم تفاوت کے باعث عربوں کو ایک قومیت میں ڈھال دینا آسان کام نہ تھا۔ بدویوں کے لیے حاکم کی اطاعت کا وہ تصور بھی محال تھا جو شہریوں کے ذہنوں میں تھا۔ بدو لوگ شخصی آزادی کے مقابلے میں ہر چیز کو بیچ سمجھتے اور اس پر کبھی آنچ نہ آنے دیتے تھے۔ آزادی ان کے نزدیک متاع حیات تھی۔ اگر کبھی وہ اسے خطرے میں دیکھتے تھے تو زبردست قربانی دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا اپنا فرض اولین خیال کرتے تھے۔ آزادی کا یہی جذبہ مدت دراز تک یمینوں اور شمالی علاقے کے لوگوں کے لیے وجہ عداوت و خصومت بنا رہا۔

مستشرقین لکھتے ہیں کہ بدوی اور شہری طرز معاشرت، بود و باش اور طبائع میں فرق کے باعث رسول اللہ کی وفات سے قبل ہی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسلام نے توحید کا عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اور بت پرستی کو مٹانا اس کا مقصد اولین تھا۔ اسلام کی تعلیم کا اثر اتنا ضرور ہوا کہ عقیدہ توحید عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی عربوں کو یہ خدشہ بھی لاحق ہو گیا کہ عقیدہ توحید عرب کی سیاسی وحدت پر منہج نہ ہو اور اہل باد یہ آزادی کی نعمت سے محروم ہو جائیں۔

یہی خیالات تھے جن کے باعث یمین اور بعض دوسرے علاقے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کی خاطر جدوجہد شروع کر دی۔

ارتداد میں اجنبی ہاتھ:

مستشرقین کا یہ خیال صحیح ہو یا غلط، بہر حال اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ

عربوں کی اس بغاوت اور فتنہ ارتداد میں اجنبی ہاتھ ضرور تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں کو جب رسول اللہؐ کی طرف سے اسلام کی دعوت پہنچی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کے اثر و نفوذ کو بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ قبل اس کے کہ اسلام کا عظیم الشان سیلاب ان کی طرف رخ کرے خود عربوں میں اس کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کر دیئے جائیں اور انہیں اس نئے دین کے خلاف بھڑکا کر خود عربوں کو اپنے ہم قوم مسلمانوں سے بھڑا دیا جائے۔

اس فتنے کے بانیوں نے رسول اللہؐ کی زندگی ہی میں حصول مقصد کے لیے ریشہ دو انیاں شروع کر دی ہیں۔ آپؐ کی وفات سے مفسدین کے حوصلے اور بڑھ گئے اور انہوں نے پوری قوت سے بغاوت کے شعلے بھڑکا کر مسلمانوں کو انتہائی نازک مرحلے سے دوچار کر دیا۔

ابوبکرؓ نے فتنے کا مقابلہ کس طرح کیا، عربوں کا اتحاد دوبارہ کس طرح قائم کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیادوں کو دوبارہ استوار کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے؟ ان سب باتوں کا جواب آئندہ صفحات میں ملے گا۔



چوتھا باب

اسامہؓ کی روانگی

خلیفہ اول کا پہلا حکم:

عرب قبائل کی بغاوت کے نتائج و عواقب سے نہ تو ابو بکرؓ بے خبر تھے اور نہ انصار و مہاجرین کا کوئی فرد۔ اب ان کے سامنے ایک ہی سوال تھا۔ آیا اس موقع پر سب سے پہلے ارتداد کے فتنے کو کچلا جائے یا رسول اللہؐ کے احکام کی تعمیل میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے اسامہؓ کے لشکر کو شام روانہ کر دیا جائے؟ اگرچہ وہ وقت مسلمانوں کے لیے نازک تھا لیکن ابو بکرؓ نے تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے بیعت کے بعد پہلا حکم یہ صادر فرمایا کہ اسامہؓ کا لشکر شام روانہ ہو جائے۔

اسامہؓ کے لشکر میں مہاجرین اور انصار کے معزز ترین افراد شامل تھے اور اسے رسول اللہؐ نے شام کی سرحد پر رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ جنگ موتہ اور غزوہ تبوک کے بعد آپؐ کو خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں اسلام اور مسیحیت کے بڑھتے ہوئے اختلاف اور یہود کی فتنہ انگیزی کے باعث اہل روم عرب پر حملہ نہ کر دیں۔ جنگ موتہ اور غزوہ تبوک میں جو واقعات پیش آچکے تھے ان سے آپؐ کے ان خدشات کو مزید تقویت پہنچی۔ جنگ موتہ میں رسول اللہؐ کے مقرر کردہ تینوں قائدین: زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن رواحہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ بالآخر خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لشکر کو رومیوں کے زرنغے سے نکالا اور انہیں بحفاظت مدینہ لے آئے۔ گواہیں جنگ میں فتح حاصل نہ ہو سکی مگر اتنی قلیل تعداد فوج کو اتنے عظیم الشان لشکر کے محاصرے سے بحفاظت نکال لانا بجائے خود نہایت شجاعانہ کارنامہ تھا۔

اس کے بعد آپؐ بہ نفس نفیس مسلمانوں کو ہمراہ لے کر جانب تبوک روانہ ہوئے لیکن دشمن کو میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرات نہ ہوئی اور اس نے شام کے اندرونی علاقوں میں گھس کر مسلمانوں کے حملے سے محفوظ ہو جانے میں اپنی خیریت سمجھی۔

ان غزوات کے باعث مسلمانوں کے متعلق رومیوں کے ارادے بہت خطرناک ہو گئے اور انہوں نے عرب کی سرحد پر پیش قدمی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہؐ نے اسامہ کو بطور پیش بندی شام روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔

رسول اللہؐ کی ہدایات:

اسامہ بیس برس کے نوجوان تھے۔ رسول اللہؐ نے انہیں اس لیے سردار لشکر مقرر فرمایا تھا کہ ایک طرف تو نوجوانوں میں خدمت دین کے لیے آگے آنے اور اہم ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کا شوق پیدا ہو، دوسری طرف اسامہ اپنے والد زید بن حارثہ کا انتقام لے سکیں جنہیں رومیوں نے جنگ موتہ میں شہید کر دیا تھا۔ آپؐ نے اسامہ کو حکم دیا کہ وہ فلسطین میں بلقاء اور داروم کی حدود میں پہنچ کر دشمن پر حملہ کریں اور اس ہوشیاری سے یہ کام انجام دیں کہ جب تک وہ دشمن کے سر پر نہ پہنچ جائیں اسے مسلمانوں کی آمد کا پتہ نہ لگے۔ انہیں یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ فتح کے بعد فوراً مدینہ واپس آ جائیں۔

اسامہؓ سے رسول اللہؐ کی محبت:

اسامہؓ زمانہ طفولیت ہی سے رسول اللہؐ کے منظور نظر اور محبوب تھے۔ آپؐ کو ان کی اس قدر پاس داری تھی کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال آپؐ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو انہیں اپنی سواری کے پیچھے بٹھالیا اور اسی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ اسامہؓ بھی دلیری اور بہادری میں کسی سے کم نہ تھے اور یہ صفات عہد طفلی ہی سے ان میں نمایاں تھیں۔ جنگ احد کے موقع پر وہ بچے تھے اور بچوں کو لشکر کے ساتھ جانے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن جب اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہؓ راستے میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن

صغریٰ کی وجہ سے انہیں واپس کر دیا گیا۔ جنگ حنین میں انہوں نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے اور ثابت قدمی کا بے نظیر مظاہرہ کیا۔

اسامہؓ کی امارت پر اعتراض

ان اوصاف کے باوجود بعض لوگوں کو اسامہؓ کی امارت پر اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اسامہؓ سے رسول اللہؐ کی محبت اور اسامہؓ کی بہادری مسلم لیکن ایسے لشکر کی امارت جس میں ابوبکرؓ، عمرؓ اور دوسرے جلیل القدر صحابہ شامل ہیں، ایک بچے کو سپرد کرنا مناسب نہیں۔

ان چہ میگوئیوں کی خبر رسول اللہؐ کو بھی عین مرض الموت میں مل گئی۔ اس وقت اسامہؓ کا لشکر مقام جرف میں مقیم تھا اور کوچ کی تیاریوں میں مشغول تھا۔ آپؐ نے اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ وہ آپؐ کو نہلائیں۔ چنانچہ پانی کی سات مشکیں آپؐ پر ڈالی گئیں۔ جن سے آپؐ کا بخار اتر گیا۔ اس وقت آپؐ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر حمد و ثنا اور اصحاب احد کے لیے دعا کرنے کے بعد فرمایا:

”اے لوگو! اسامہؓ کے لشکر کو جانے دو۔ تم نے اس کی امارت پر اعتراض کیا ہے اور اس سے پہلے تم اس کے والد کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اس کے باوجود وہ امارت کے قابل ہے اور اس کا باپ بھی امارت کے لائق تھا۔“

جب رسول اللہؐ کے مرض میں اضافہ ہو گیا تو اسامہؓ کا لشکر جرف ہی میں رک گیا۔ اسامہؓ بیان کرتے ہیں:

”جب رسول اللہؐ کی بیماری بڑھ گئی تو میں اور میرے چند ساتھی مدینہ آئے۔ میں آپؐ کے پاس گیا۔ آپؐ کو شدید ضعف تھا اور بول نہ سکتے تھے۔ آپؐ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے اور اور مجھ پر رکھ دیتے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپؐ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔“

رسول اللہؐ کی وفات کے روز علی الصبح اسامہؓ نے آپؐ سے کوچ کی اجازت مانگی۔ آپؐ نے اجازت دے دی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد آپؐ کی وفات ہو گئی اور اسامہؓ اپنے

لشکر کے ہمراہ جرف سے مدینہ آ گئے۔

رسول اللہؐ کی تجہیز و تکفین میں اسامہؓ اہل بیت کے ساتھ شریک رہے۔ وہ اور رسول اللہؐ کے غلام شقران آپ کے جسد اطہر پر پانی ڈالتے اور حضرت علیؓ غسل دیتے تھے۔ بیعت کے بعد جب ابو بکرؓ نے اسامہؓ کو کوچ کا حکم دیا تو معترضین کی زبانیں پھر حرکت میں آ گئیں اور وہ کوئی ایسا حیلہ تلاش کرنے لگے جس کے ذریعے سے ابو بکرؓ کو اس لشکر کے روانہ کرنے یا کم از کم اسامہؓ کو امیر بنانے سے باز رکھ سکیں۔ انہوں نے خلافت کے بارے میں مہاجرین اور انصار کے اختلافات اور عرب قبائل کی بغاوت کا سہارا لیا اور ابو بکرؓ سے جا کر عرض کیا کہ موجودہ دور مسلمانوں کے لیے سخت نازک اور پر خطر ہے، ہر طرف بغاوت کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اس موقع پر لشکر کو شام بھیج کر مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنا مناسب نہ ہوگا۔ لیکن ابو بکرؓ نے نہایت ثابت قدمی اور اولوالعزمی سے فرمایا:

”مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھے یہ یقین ہو کہ جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں اسامہ کے اس لشکر کو روانہ ہونے سے نہیں روک سکتا جسے رسول اللہؐ نے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ اگر مدینہ میں میرے سوا کوئی بھی تنفس باقی نہ رہے تو بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔“

ایک روایت یہ بھی ہے، جب اسامہؓ نے دیکھا کہ ان کے خلاف چہ میگوئیاں کی جا رہی ہیں تو انہوں نے عمرؓ سے کہا آپ ابو بکرؓ کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ وہ لشکر کی روانگی کا حکم منسوخ کر دیں تاکہ بڑھتے ہوئے فتنوں کے مقابلے میں یہ لشکر مدد و معاون ہو سکے اور مرتدین کو آسانی سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرات نہ ہو۔ ادھر انصار نے عمرؓ سے کہا اگر ابو بکرؓ لشکر کو روانہ کرنے ہی پر مصر ہوں تو ہماری طرف سے ان کی خدمت میں یہ درخواست کریں کہ وہ کسی ایسے آدمی کو لشکر کا سردار مقرر فرمائیں جو عمرؓ میں اسامہؓ سے بڑا ہو۔

عمرؓ نے جا کر سب سے پہلے اسامہؓ کا پیغام دیا۔ ابو بکرؓ نے فرمایا:

”اگر جنگل کے کتے اور بھیڑیے مدینہ میں داخل ہو کر مجھے اٹھا لے جائیں تو بھی میں وہ کام کرنے سے باز نہ آؤں گا جسے رسول اللہؐ نے

کرنے کا حکم دیا ہے۔“

ابو بکرؓ کی ناراضگی:

اس کے بعد عمرؓ نے انصار کا پیغام دیا۔ یہ سنتے ہی ابو بکرؓ نے غضب ناک ہو کر

فرمایا:

”اے ابن خطاب! اسامہؓ کو رسول اللہؐ نے امیر مقرر فرمایا ہے اور تم

مجھے کہتے ہو کہ میں اسے اس کے عہدے سے ہٹا دوں۔“

عمرؓ پریشان ہو کر سر جھکائے واپس چلے آئے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکرؓ

نے کیا جواب دیا تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا:

”میرے پاس سے فوراً چلے جاؤ۔ محض تمہاری بدولت مجھے خلیفہ

رسول اللہؐ سے جھڑکیاں کھانی پڑیں۔“

اس واقعے سے اس مسلک کی ایک جھلک ہمارے سامنے آتی ہے جس پر ابو بکرؓ

ابتداء خلافت سے آخر وقت تک گامزن رہے۔ اسی جھلک کا مظاہرہ آپؐ نے اس وقت کیا

جب فاطمہ الزہراءؓ بنت رسول اللہؐ آپؐ سے اپنے والد کی میراث کا مطالبہ کرنے آئی

تھیں۔ آپؐ نے انہیں فرمایا:

”واللہ! مجھ پر یہ فرض ہے جو کام میں رسول اللہؐ کو کرتے دیکھ چکا

ہوں خود بھی وہی کروں اور اس سے سر مو انحراف نہ کروں۔“

اور یہی نمونہ آپؐ نے اسامہؓ کے لشکر کو بھیجتے وقت دکھایا۔

لشکر کو روانگی کا حکم:

معترضین کے اعتراضات کو رد فرمانے کے بعد ابو بکرؓ نے اسامہؓ کے لشکر کو روانہ

ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ مدینہ کا کوئی شخص جو اس لشکر میں شامل تھا، پیچھے نہ رہے بلکہ مدینہ

سے نکل کر مقام جرف میں لشکر سے مل جائے۔ آپؐ نے فرمایا:

”اے لوگو! میں تمہاری مانند ایک انسان ہوں۔ میں نہیں جانتا آیا تم

مجھ پر وہ بوجھ رکھو گے جس کے اٹھانے کی طاقت صرف رسول اللہؐ میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے رسول اللہؐ کو منتخب فرمایا تھا اور تمام آفات سے آپؐ کو محفوظ رکھا تھا۔ میں تو صرف آپؐ کی پیروی کرنے والا ہو، کوئی نئی چیز تمہارے سامنے پیش کرنے والا نہیں۔ اگر میں سیدھا رہوں تو میری پیروی کرو اور اگر کجی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔“

یہ تھا خلیفہ اول کا نظریہ سیاست۔ انہوں نے واقعی اس سے کبھی انحراف نہ کیا اور سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہؐ کی پیروی اختیار کی۔ آپؐ کی زندگی میں جس قلبی تعلق کا ثبوت ابو بکرؓ نے دیا اس کا حال گزشتہ اوراق میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ اور اس کے رسولؐ پر جو ایمان انہیں تھا اسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی متزلزل نہ کر سکتی تھی اور آپؐ سے جو قلبی و روحانی تعلق تھا اس کی نظیر روئے زمین پر کوئی نہیں پائی جاتی۔

ابو بکرؓ آپؐ کی اطاعت کامل ایمان اور یقین سے کرتے تھے اور اس ایمان و اخلاص میں انہوں نے جس قدر ترقی کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی گرد کو نہ عمر پہنچ سکے، نہ علیؓ، نہ کوئی اور شخص۔

روانگی لشکر کی تیاریاں:

جرف پہنچ کر جب عمرؓ نے لوگوں کو ابو بکرؓ کے جواب سے مطلع کیا تو انہیں خلیفہ کے احکام کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ ابو بکرؓ بھی جرف تشریف لائے اور اپنے سامنے لشکر کو رخصت کیا۔ روانگی کے وقت لوگوں نے یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ اسامہؓ سوار ہیں اور خلیفہ رسول اللہؐ ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اسامہؓ کی تعظیم و تکریم کا جذبہ پیدا ہو اور وہ آئندہ اپنے سردار کے تمام احکام کی تعمیل بے چون و چرا کیا کریں۔

اسامہؓ کو بڑی شرم آئی کہ وہ تو گھوڑے پر سوار ہیں اور رسول اللہؐ کا سب سے محبوب ساتھی، خلیفہ المسلمین اور مسلمانوں کا سب سے قابل تعظیم شخص بڑھاپے کے باوجود

پیدل چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا:

”اے خلیفہ رسول اللہ! یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے۔ ورنہ میں اتر پڑتا ہوں۔“

ابوبکرؓ نے جواب دیا:

”واللہ! نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا۔ کیا ہوا اگر میں نے ایک

گھڑی اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کر لیے۔“

جب لشکر کی روانگی کا وقت آیا تو انہوں نے اسامہ سے کہا:

”اگر تم چاہو تو میری مدد کے لیے عمرؓ کو چھوڑتے جاؤ۔“

اسامہ نے بڑی خوشی سے عمرؓ کو ابوبکرؓ کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے

دی۔

لشکر کو نصیحتیں:

واپسی کے وقت ابوبکرؓ فوج کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ تقریر فرمائی:

”اے لوگو! ٹھہر جاؤ۔ میں تمہیں دس نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھو۔

خیانت نہ کرنا۔ بد عہدی نہ کرنا۔ چوری نہ کرنا۔ مقتولوں کے اعضا نہ

کاٹنا۔ بچے، بوڑھے اور عورت کو قتل نہ کرنا۔ کھجور کے درخت نہ کاٹنا نہ

جلانا۔ پھل والے درخت نہ کاٹنا۔ کسی بھیڑ، گائے یا اونٹ کو سوائے

کھانے کے ذبح نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے

جنہوں نے اپنے آپ کو گرجاؤں میں عبادت کے لیے وقف کر دیا

ہے اور وہ رات دن انہیں میں بیٹھے عبادت کرتے رہتے ہیں، تم

انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچو گے جو

تمہارے لیے برتنوں میں مختلف کھانے لائیں گے، جب بھی کھانا

شروع کرنا اس پر اللہ کا نام ضرور لے لیا کرنا۔ تم ایسے لوگوں سے ملو

گے جنہوں نے سر کا درمیانی حصہ تو منڈا دیا ہو گا لیکن چاروں طرف

بڑی بڑی لٹیس لٹکتی ہوں گی، انہیں تلوار سے قتل کر ڈالنا۔ اپنی حفاظت

اللہ کے نام سے کرنا اللہ تمہیں شکست اور وبا سے محفوظ رکھے۔“
اسامہ کو یہ نصیحت کی:

”رسول اللہؐ نے تمہیں جو کچھ کرنے کا حکم دیا تھا وہ سب کچھ کرنا۔
جنگ کی ابتداء قضاہ سے کرنا۔ اس کے بعد آبل جانا۔ رسول اللہؐ
کے احکام کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا۔“

لشکر کا بلقاء کی جانب کوچ:

یہ نصیحتیں فرما کر ابو بکرؓ تو عمرؓ کے ہمراہ مدینہ واپس آ گئے اور اسامہؓ شام روانہ ہو
گئے۔ مئی کا مہینہ تھا اور سخت گرمی کے دن تھے۔ لشکر تپتے ہوئے صحراؤں اور جنگلوں کو قطع کرتا
ہوا بیس روز بعد بلقاء پہنچ گیا۔ بلقاء کے قریب ہی جنگ موتہ ہوئی تھی جس میں اسامہؓ کے
والد زید بن حارثہ اور ان کے دونوں ساتھی جعفر بن ابی طالب اور عبد اللہ بن رواحہ شہید
ہوئے تھے۔ اسامہؓ نے اپنے لشکر کو وہیں ٹھہرایا اور فوج کے مختلف دستوں کو آبل اور قبائل
قضاہ پر دھاوا بولنے کے لیے روانہ کیا۔ ان جنگوں میں مسلمانوں نے بڑی کامیابی حاصل
کی۔ بے شمار رومی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا اور اس طرح
اسامہؓ اپنے والد کا انتقام لینے میں کامیاب ہو گئے۔

رسول اللہؐ نے اسامہؓ کو حملہ کرنے کے متعلق جو ہدایات دی تھیں انہوں نے ان پر
پوری طرح عمل کیا۔ جہاں جہاں جانے کے لیے آپؐ نے ارشاد فرمایا تھا وہاں گئے اور آپؐ
کی ہدایات کے مطابق دشمن پر اس طرح اچانک حملہ کیا کہ جب تک مسلمانوں کے دستے
رومیوں کے سروں پر نہ پہنچ گئے انہیں مسلمانوں کی آمد کا مطلق پتہ نہ چل سکا۔ اور فتح کے بعد
فوراً مدینہ واپس آ گئے۔

اسامہؓ کی کامیاب واپسی:

دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کی وجہ سے اسامہؓ کی شان اور عزت و توقیر میں بے
حد اضافہ ہو گیا۔ وہی مہاجرین اور انصار جنہوں نے اس سے پہلے تقرر اسامہؓ کی مخالفت کی

تھی، اب خوشی سے پھولے نہ ساتے تھے۔ وہ بڑے فخر سے اسامہ کے کارنامے بیان کرتے اور رسول اللہ کا یہ قول بار بار دہراتے تھے: ”اسامہ امارت کے لائق ہے اور اس کا باپ بھی امارت کے لائق تھا۔“

اسامہ نے اس مہم میں صرف سرحدی جھڑپوں پر اکتفا کی۔ انہوں نے رومیوں کا تعاقب کرنے اور رومی سرحد پر بھرپور حملہ کر کے اندرونی علاقوں میں گھس کر اپنی کامیابی سے مزید فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی کیونکہ ان کا ^{مطمح} نظر صرف یہ تھا کہ عرب کی سرحد رومیوں کے حملے سے محفوظ رہے اور رومی مسلمانوں کو کمزور پا کر مدینہ سے یہودیوں کی جلا وطنی کا انتقام لینے کے بہانے عرب کی سرحدوں میں گھس کر اسے اپنے گھوڑوں کے سموں سے پامال نہ کرنے پائیں۔

لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ رومی ایک وسیع خطہ زمین پر قابض ہونے کی وجہ سے زبردست قوت و طاقت کے مالک تھے۔ مسلمانوں کو بھی اس حقیقت کا پوری طرح علم تھا۔ رسول اللہ نے اپنی وفات سے تین سال قبل ۷ھ میں دحیہ کلبی کو تبلیغی خط دے کر ہرقل کی جانب روانہ فرمایا۔ ہرقل کا ستارہ اس وقت عروج پر تھا اور دحیہ کلبی نے روم کے تمام حالات اور رومیوں کی قوت و طاقت کا بغور مطالعہ کیا۔ علاوہ بریں اسی سال یہود خیبر، فذک اور یتماء میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر فلسطین پہنچے تھے اور ان کے دل جوش انتقام سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فلسطین پہنچ کر رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور یہ کہہ کر انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دی کہ جب رومی ایران جیسی زبردست طاقت پر فتح یاب ہو سکتے ہیں تو مسلمانوں پر بھی ہو سکتے ہیں۔

ان حالات میں بظاہر یہ زیادہ مناسب ہوتا کہ اسامہ سرحدی فتوحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرون ملک میں بھی پیش قدمی کرتے اور جو کام دو سال بعد شروع ہوا اس کا آغاز اسی مہم سے کر دیتے۔

لشکر کا استقبال:

جب اسامہ اپنے مظفر و منصور لشکر کو لے کر مدینہ کے قریب پہنچے تو ابو بکرؓ نے کبار

مہاجرین اور انصار کے ہمراہ شہر سے باہر نکل کر بڑی گرجموشی سے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت سب مسلمانوں کے چہرے فرحت و انبساط سے کھلے ہوئے تھے۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی اسامہؓ نے مسجد نبوی کا رخ کیا اور شکرانے کے طور پر نماز دو گانہ ادا کی۔ مدینہ کو ان کی واپسی چالیس دن اور بعض روایات کے مطابق ستر دن بعد ہوئی۔

بعض مستشرقین نے اس مہم کی اہمیت گھٹانے اور اس کا شمار معمولی سرحدی جھڑپوں میں کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ چنانچہ مستشرق ”فکا“ جس نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں اسامہؓ کے متعلق مقالہ لکھا ہے، کہتا ہے:

”جنگہائے ارتداد کے دوران مسلمانوں کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا انہیں دیکھتے ہوئے اسامہؓ کی فتح یابی مسلمانوں کی نظروں میں زبردست اہمیت حاصل کر گئی، حالانکہ اسامہؓ کی کامیابی کو اس کے سوا اور کوئی اہمیت حاصل نہ تھی کہ وہ بعد میں پیش آنے والی شامی لڑائیوں کی ابتداء ثابت ہوئی۔ اس مہم میں اسامہؓ کا کارنامہ صرف اس حد تک ہے کہ انہوں نے بعض قبائل پر اچانک حملہ کر دیا اور کسی بڑے رومی لشکر سے مٹ بھیڑ ہوئے بغیر مال غنیمت لیے واپس چلے آئے۔ اس کے باوجود مسلمانوں، باغی عربوں اور رومیوں..... تینوں فریقوں پر اس کا دور رس اثر پڑا۔ جب باغی اور مرتد قبائل نے لشکر اسامہؓ کی روانگی کی خبر سنی تو وہ کہنے لگے ”اس لشکر کے بھیجنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان زبردست قوت و طاقت کے مالک ہیں، اگر ان کے پاس قوت و طاقت نہ ہوتی تو وہ ہر گز ایسے موقع پر اس لشکر کو نہ بھیجتے۔ جب سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو چکا ہے۔“

ہر قل کو بھی جب اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور اس نے ایک بڑی فوج مسلمانوں سے مقابلے کے لیے بلقاء روانہ کی۔ یہ واقعات صراحتہً اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس غزوہ کے باعث رومی اور مرتد عرب قبائل، دونوں مسلمانوں کی قوت و طاقت سے مرعوب ہو گئے اسی وجہ سے دومۃ الجندل کے سوا عرب کے شمالی حصے کے رہنے

یہاں والوں نے مدینہ پر حملہ کرنے میں پس و پیش کیا حالانکہ اس سے قبل ان کا مصمم ارادہ تھا کہ مدینہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو رومی سرحدوں پر حملہ کرنے کا مزہ چکھایا جائے۔

پھر بھی شمالی عربوں کے سوا عرب کے دوسرے علاقوں کا یہ حال تھا۔ اس سے قبل تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ رسول اللہؐ کی زندگی کے آخری دور میں بغاوت کی روح کس طرح عرب قبائل میں سرایت کر گئی تھی اور کئی قبائل میں نبوت کے مدعی پیدا ہو گئے تھے۔ اگر آپؐ کی غایت درجہ حزم و احتیاط اور مسلمانوں کی جانب سے قوت و طاقت کے مظاہروں کی وجہ سے ان قبائل اور مدعیان نبوت کو خوف و خطر لاحق نہ ہوتا تو آپؐ کی زندگی ہی میں ہر طرف سے بغاوت کے علم بلند ہو جاتے۔ رسول اللہؐ کی وفات کے بعد باغیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے اپنے خطرناک مخفی ارادوں کا اظہار کھلم کھلا شروع کر دیا۔

اس وقت مسلمان قلت تعداد اور کثرت اعداء کی وجہ سے بے حد مضطرب تھے۔ اگر اس نازک موقع پر ابو بکرؓ کی طرف سے بلند پایہ سیاست کا مظاہرہ نہ کیا جاتا اور مضبوط و محکم پالیسی وضع نہ کی جاتی تو مسلمانوں کا خاتمہ عین ممکن تھا۔



پانچواں باب

منکرین زکوٰۃ سے جنگ

اسامہ شام جاتے ہوئے ابھی راستے ہی میں تھے کہ رسول اللہؐ کی خبر وفات سارے عرب میں پھیل گئی اور ہر طرف بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ان شعلوں کی زد میں سب سے زیادہ یمن کا علاقہ تھا، اگرچہ آگ کا بھڑکانے والا شخص عسی قتل ہو چکا تھا۔ بنی حنیفہ میں مسلمہ اور بنی اسد میں طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا:

”اسد اور غطفان کے حلیف قبیلوں کا نبی ہمیں قریش کے نبی سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ محمد وفات پا چکے ہیں اور طلحہ زندہ ہے۔“

مدینہ میں بغاوتوں کی خبر:

جب ان بغاوتوں کی خبر ابو بکرؓ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک ان علاقوں کے عمال اور امراء کی طرف سے تمام واقعات کی مکمل رپورٹیں موصول نہ ہو جائیں۔

زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ امراء کی طرف سے دھڑا دھڑا رپورٹیں پہنچنے لگیں۔ ان رپورٹوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ باغیوں کے ہاتھوں نہ صرف سلطنت کا امن خطرے میں ہے بلکہ ان لوگوں کی جانوں کو بھی سخت خطرہ ہے جنہوں نے ارتداد کی رو میں باغیوں کا ساتھ نہیں دیا اور بدستور اسلام پر قائم ہیں۔ اب ابو بکرؓ کے لیے پوری قوت سے بغاوتوں کا مقابلہ کرنے اور باغیوں کو ہر قیمت پر زیر کر کے صورتحال کو قابو میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔

اس ہمہ گیر شورش کے نتیجے میں بعض قبائل نے تو کلیۃً اسلام سے انحراف اختیار کر لیا تھا لیکن بعض قبائل اسلام پر تو قائم تھے البتہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔

مؤخر الذکر گروہ میں سے بھی بعض لوگ تو ایسے تھے جو دل و جان سے مال و

سولت پر فریفتہ تھے، اور اللہ کے راستے میں مالی قربانی کرنا ان کے لیے بے حد دشوار تھا۔

لیکن بعض لوگ اسے تاوان کہتے تھے اور ان کے خیال میں رسول اللہ کی وفات کے بعد اہل

مدینہ کے مقرر کردہ امیر کو ان سے زکوٰۃ یا بہ الفاظ دیگر تاوان کے مطالبے کا کوئی اختیار نہ تھا۔

تا نچہ ہر دو فریق نے ادائے زکوٰۃ سے انکار کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ نہ وہ ابو بکر کو اپنا

امیر تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان کے احکام کی بجا آوری کو ضروری سمجھتے ہیں۔

مدینہ کے نواحی قبائل، عجم اور ذبیان، منکرین زکوٰۃ میں شامل تھے اور مسلمانوں

کے لیے ان قبائل سے عہدہ برآ ہونے کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ان سے لڑائی

بھڑدینا آسان کام نہ تھا کیونکہ ابو بکر لشکر اسامہ گو شام روانہ فرما چکے تھے اور مدینہ میں بہت

نی تھوڑی تعداد میں لڑائی کے قابل افراد رہ گئے تھے۔ اس حالت میں مسلمانوں کے لیے دو

راستے تھے۔ ایک یہ کہ منکرین زکوٰۃ کو ادائے زکوٰۃ کے لیے مجبور نہ کیا جائے اور نرمی و

محنت سے انہیں ساتھ ملا کر ان قبائل کے مقابلے میں آمادہ پیکار کیا جائے جنہوں نے کھلم

اعلا اسلام سے انحراف کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ ان سے جنگ کی جائے۔ مؤخر الذکر راستہ اختیار

کرنے سے مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہو جاتی اور اسلامی لشکر کی غیر

جودگی میں پھرے ہوئے باغی قبائل سے لڑائی چھیڑ دینا آسان کام بھی نہ تھا۔

خطابہ سے مشورہ:

ابو بکرؓ نے کبار صحابہ کو جمع کر کے ان سے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کرنے کے

مخلاق مشورہ کیا۔ عمرؓ بن خطاب اور بیشتر مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اللہ اور اس کے

رسل پر ایمان لانے والے لوگوں سے ہرگز نہ لڑنا چاہیے بلکہ انہیں ساتھ ملا کر مرتدین کے

خلاف مصروف پیکار ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس رائے کے مخالف بھی تھے۔ لیکن ان کی

راد بہت تھوڑی تھی۔

بحث طول پکڑ گئی اور بالآخر ابو بکرؓ کو خود اس میں دخل دینا پڑا۔ وہ اس رائے کے حامی تھے کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کر کے انہیں بزور اداۓ زکوٰۃ پر مجبور کرنا چاہیے۔ امر میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بحث کرتے ہوئے پر زور الفاظ میں فرمایا:

”واللہ! اگر منکرین زکوٰۃ مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جسے وہ رسول اللہؐ کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے، تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔“

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا:

”ہم ان لوگوں سے کس طرح جنگ کر سکتے ہیں جب رسول اللہؐ نے صاف فرمایا ہے کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہؐ نہ کہہ دیں۔ جو شخص یہ کلمہ زبان سے ادا کر دے گا اس کی حفاظت جان و مال مسلمانوں کے ذمے ہوگی البتہ جو حقوق اس پر واجب ہوں گے ان کی ادائیگی کا مطالبہ اس سے ضرور کیا جائے گا۔ ہاں اس کی نیت کا حساب اللہ اس سے خود لے گا۔“

لیکن ابو بکرؓ پر عمرؓ کے دلائل کا اثر کچھ نہ ہوا اور انہوں نے فرمایا:

”واللہ! میں صلوٰۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والے لوگوں سے ضرور لڑوں گا کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے ذمے جو حقوق ہوں گے ان کی ادائیگی کا مطالبہ ان سے بہر حال کیا جائے گا۔“

عمرؓ کہا کرتے تھے:

”یہ جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کے لیے ابو بکرؓ کو شرح صدر عطا کیا ہے اور حق وہی ہے جو ابو بکرؓ کہتے ہیں۔“

اس واقعے سے ملتا جلتا ایک واقعہ خود رسول اللہؐ کو بھی پیش آیا تھا۔ طائف

قبیلہ ثقیف کا وفد آپؐ کی خدمت میں قبول اسلام کی غرض سے حاضر ہوا لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ انہیں نماز معاف کر دی جائے۔ رسول اللہؐ نے ان کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا:

”اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں۔“

ابوبکرؓ رسول اللہؐ کے نقش قدم پر چلنا اپنا فرض اولیٰ خیال کرتے تھے، انہوں نے بھی یہی فرمایا:

”واللہ! میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔“

دشمن قبائل کے وفود:

باغی قبائل عبس، ذبیان، بنو کنانہ، غطفان اور فزارہ نے، جو مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فوجیں اکٹھی کیں اور مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ قبائل دو حصوں میں منقسم تھے۔ ایک حصہ ربذہ کے قریب مقام ابرق میں خیمہ زن تھا اور دوسرا ذی القصہ میں جو محلہ کے قریب نجد کے راستے میں واقع ہے۔ ان فوجوں کے سرداروں نے پہلے اپنے وفود مدینہ روانہ کیے جنہوں نے وہاں پہنچ کر بعض لوگوں کے ذریعے سے ابوبکرؓ کو پیغام بھیجا کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں البتہ انہیں ادائے زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ لیکن ابوبکرؓ نے وہی جواب دیا جو پہلے عمرؓ کو دے چکے تھے یعنی ”اگر انہوں نے زکوٰۃ کی ایک رسی بھی ادا کرنے سے انکار کیا تو میں اس رسی کی خاطر ان سے جنگ کروں گا۔“

وفود کی ناکام واپسی:

چنانچہ یہ وفود خائب و خاسر ہو کر واپس اپنے اپنے لشکروں میں چلے گئے لیکن قیام مدینہ کے دوران میں انہوں نے وہاں کے حالات کا بنظر غائر مطالعہ کر لیا تھا اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان دنوں اہل مدینہ بہت کمزور ہیں اور شہر کو بیرونی طاقت کے حملے سے بچا نہیں

سکتے۔

ابوبکرؓ کی ہدایات:

ابوبکرؓ کی دور بین آنکھ نے ان لوگوں کے ارادوں کو بھانپ لیا چنانچہ وفود کے واپس جانے کے بعد انہوں نے اہل مدینہ کو جمع کر کے فرمایا:

”تمہارے چاروں طرف دشمن ڈیرے ڈالے پڑا ہے اور اسے تمہاری کمزوریوں کا علم ہو گیا ہے۔ نہ معلوم دن اور رات کے کس حصے میں وہ لوگ تم پر چڑھ آئیں۔ وہ تم سے ایک منزل کے فاصلے پر خیمہ زن ہیں۔ ابھی تک وہ اس امید میں تھے کہ شاید تم ان کی شرائط قبول کر لو گے۔ لیکن اب ہم نے ان کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے اس لیے وہ ضرور تم پر حملہ کرنے کی تیاریاں کریں گے۔ تم بھی اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار رکھو۔“

اس کے بعد آپؓ نے علیؓ، زبیرؓ، طلحہؓ اور عبداللہ بن مسعود کو بلایا اور انہیں ایک ایک دستہ دے کر مدینہ کے بیرونی راستوں پر متعین کر دیا۔ دوسرے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبویؐ میں پہنچ جائیں اور لڑائی کی تیاری کریں۔

عہد صدیقی کا پہلا معرکہ:

ابوبکرؓ کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ ابھی تین روز بھی نہ گزرے تھے کہ منکرین زکوٰۃ نے مدینہ پر چڑھائی کر دی اور تہیہ کر لیا کہ خلیفہ سے اپنی بات منوا کر ہی واپس جائیں گے۔

مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے جاسوسوں نے منکرین زکوٰۃ کے ارادوں سے علیؓ، زبیرؓ، طلحہؓ، ابن مسعود اور دوسرے لوگوں کو مطلع کر دیا۔ انہوں نے ابوبکرؓ کے پاس خبر بھیجی۔ ابوبکرؓ نے انہیں تو ہدایت کی کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہر کر شہر کے تمام ناکوں کی حفاظت کریں، اور خود اونٹ پر سوار ہو کر مسجد نبویؐ میں تشریف لائے اور تمام مسلمانوں کو جو وہاں جمع

تھے، ساتھ لے کر ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے جو بے خبری میں مسلمانوں پر شب خون مارنا چاہتے تھے۔

ان قبائل کے وہم میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی ان کے مقابلے میں آئے گا۔ کیونکہ انہیں اپنے وفود کے ذریعے سے اہل مدینہ کی کمزوری کا علم ہو گیا تھا۔ لیکن جب ان کی توقعات کے قطعاً برعکس ابوبکرؓ نے ان پر اچانک حملہ کر دیا تو ان کی سراسیمگی کی انتہا نہ رہی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ذی حساتک ان کا تعاقب کیا۔

جب حملہ آور قبائل مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے اس خیال سے کہ مدینہ میں ان کا مقابلہ کرنے والی کوئی طاقت موجود نہیں اپنے چیدہ بہادروں کو ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا تھا۔ لیکن جب قبائل شکست کھا کر بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا شروع کیا تو وہ لوگ جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، موقع کی نزاکت بھانپ کر مسلمانوں کے بالمقابل آگئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ رات بھر لڑائی ہوتی رہی لیکن کسی بھی فریق کے حق میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ بالآخر مخالفین نے کمندیں پھینک کر مسلمانوں کے اونٹوں کی گردنوں میں ڈالنی شروع کیں تاکہ مسلمانوں کو گرفتار کر سکیں۔ یہ اونٹ جنگی نہ تھے کہ اس چال کو سمجھ سکتے۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر مدینہ کی طرف واپس بھاگنا شروع کیا اور اپنے سواروں کو لیے شہر میں داخل ہو گئے۔

عبس، ذبیان اور ان کے مددگار، مسلمانوں کے بھاگ جانے سے بڑے خوش ہوئے اور اسے اپنی فتح مندی اور مسلمانوں کی کمزوری پر محمول کرتے ہوئے مقام ذی القصہ کے خیمہ زن لوگوں کو ان تمام واقعات کی اطلاع دی۔ ذی القصہ والے بھی ان کے پاس پہنچ گئے اور آپس میں صلاح مشورہ ہونے لگا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ وہ اس وقت تک واپس نہ جائیں جب تک مسلمانوں کو ناک چنے چبوا کر اپنی پیش کردہ شرائط قبول کرنے پر مجبور نہ کر دیں۔

ادھر ابوبکرؓ اور تمام مسلمانوں نے اس رات پلک تک نہ جھپکائی بلکہ دشمن سے لڑائی کی تیاریوں میں مشغول رہے۔ رات کے آخری تہائی حصے میں وہ مسلمانوں کو لے کر دوبارہ

دشمن کی جانب روانہ ہوئے۔ پہلے کی طرح اب بھی انہوں نے اس امر کی کامل احتیاط کی کہ دشمن کو کانوں کان مسلمانوں کے آنے کی خبر نہ ہونے پائے۔ صبح صادق کا ظہور ہوا تو مسلمان اور ان کے دشمن قبائل ایک ہی میدان میں تھے۔ لیکن اس فرق کے ساتھ کہ مسلمان لڑائی کے لیے پوری طرح تیار تھے اور دشمن بڑے اطمینان اور آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر اور کون سا موقع ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بے دھڑک اپنی تلواریں دشمن کے سینوں میں پیوست کرنی شروع کر دیں۔ وہ لوگ اس اچانک حملے سے ہڑبڑا کر اٹھے اور اسی نیم بیداری کی حالت میں لڑنا شروع کر دیا لیکن تابہ کے؟ ابو بکرؓ کے ساتھیوں نے اپنی تلواروں کے خوب جوہر دکھائے اور ابھی سورج نے اپنا چہرہ افق عالم پر ظاہر ہی کیا تھا کہ دشمن کے لشکر نے نہایت بے ترتیبی کی حالت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ ابو بکرؓ نے ذی القصد تک ان کا تعاقب کیا۔ آخر جب یہ دیکھ لیا کہ وہ دوبارہ واپس آنے کی جرات نہ کریں گے تو ابو بکرؓ اس جگہ واپس آ گئے جہاں پر تھوڑی دیر قبل میدان کارزار گرم تھا اور نعمان بن مقرن، سالار مہینہ کو تھوڑی سی جمعیت کے ہمراہ اس جگہ چھوڑ کر خود مدینہ تشریف لے آئے۔

جنگ ذی القصد اور جنگ بدر میں مشابہت:

اس موقع پر ابو بکرؓ نے ایمان و یقین، عزت و ثبات اور حزم و احتیاط کا جو مظاہرہ کیا اس سے مسلمانوں کے دلوں میں عہد رسول اللہؐ کے غزوات کی یاد تازہ ہو گئی۔ ابو بکرؓ کے عہد کی یہ پہلی لڑائی بڑی حد تک جنگ بدر سے مشابہ ہے۔ جنگ بدر کے روز مسلمان صرف تین سو تیرہ کی قلیل تعداد میں تھے جبکہ مشرکین مکہ کی تعداد ایک ہزار سے زائد تھی۔ اس موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی، اس کے بالمقابل عبس، ذبیان اور غطفان کے قبائل بھاری جمعیت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہؐ اور آپ کے صحابہ نے حیرت انگیز ایمان کا مظاہرہ کیا تھا اور اسی لیے اللہ نے انہیں مشرکین پر فتح عطا فرمائی۔ اس موقع پر ابو بکرؓ اور آپ کے ساتھیوں نے ایمان کامل کا ثبوت دیا اور دشمن پر فتح حاصل کی۔ جس طرح جنگ بدر دور رس نتائج کی حامل تھی۔ اسی طرح اس جنگ

میں بھی مسلمانوں کی فتح نے اسلام کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا۔

ابو بکرؓ کا عزم و ثبات:

ابو بکرؓ نے عزم و ثبات اور ایمان و ایقان کا جو مظاہرہ کیا وہ چنداں قابلِ تعجب نہیں۔ چونکہ انہوں نے آغاز اسلام ہی سے اپنا مقصد اولین یہ قرار دے رکھا تھا کہ وہ ہر کام میں رسول اللہؐ کی پیروی اختیار کریں گے اور ان کی ساری زندگی اس امر کی شاہد ہے کہ انہوں نے ہر موقع پر اپنے اس عہد کو پوری طرح نباہا اور بڑی سے بڑی روک بھی انہیں ان کے بلند مقصد سے علیحدہ نہ کر سکی۔ اس صورت میں یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ دشمنوں سے ایسے معاملے کے متعلق سمجھوتا کر لیتے جو سراسر حکام الہی کے خلاف تھا۔ ابو بکرؓ کی نظروں کے سامنے رسول اللہؐ کی زندگی کا ایک ایک ورق کھلا ہوا موجود تھا۔ جب کبھی کسی جانب سے منشاء الہی اور الہیامات نبویؐ کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے ان پر زور دیا جاتا تو انہیں رسول اللہؐ کا وہ ورہ یاد آ جاتا جو ابوطالب کی درخواست پر آپؐ نے کہا تھا:

”واللہ! اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں لاکھڑا کریں اور یہ چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں جو مجھے اللہ کی طرف سے تفویض کیا گیا ہے تو بھی میں اس کام کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ یا تو میں دوسروں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لوں یا اپنی کوشش میں ہلاک ہو جاؤں۔“

ابو بکرؓ نے بھی بالکل اسی قسم کا جواب اپنے ساتھیوں کو اس وقت دیا تھا جب انہوں نے اسامہؓ کی روانگی منسوخ کرنے پر زور دیا تھا اور یہی موقف انہوں نے اس وقت اختیار کیا جب لوگوں نے انہیں منکرینِ زکوٰۃ سے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ یہی وہ ایمان صادق تھا جس کے مقابلے میں انہوں نے کسی چیز کی، حتیٰ کہ موت کی بھی، پروا نہ کی اور یہی ایمان صادق، جس کے مقابلے میں دنیا کی تمام آسائشیں ان کی نظروں میں ہیچ تھیں، اس نازک حالت میں اسلام کو تباہی و بربادی سے بچانے میں بھی سب سے بڑا مدد و معاون ثابت ہوا۔

مشورہ صحابہ کے عدم قبول کی وجہ:

سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیا حرج تھا اگر ابو بکرؓ منکرین زکوٰۃ سے جنگ نہ کرنے کے بارے میں عمرؓ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کا مشورہ قبول کر لیتے، اس کا جواب بہت سہل ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ عرب کے اکثر قبائل نے بہت تھوڑا عرصہ قبل بت پرستی سے نجات حاصل کی تھی اور جاہلیت کا دور ختم ہوئے نہایت قلیل عرصہ گزرا تھا۔ اگر ابو بکرؓ فرائض دینی کو ترک کر دینے کے متعلق قبائل عرب کا کوئی مطالبہ تسلیم کر کے ان سے سمجھوتا کر لیتے تو طلحہ، مسلمہ اور دوسرے خود ساختہ نبی فوراً یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے کہ فرائض دینی کی بجا آوری کے متعلق اس سمجھوتے سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمدؐ نے جو پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا تھا وہ (نعوذ باللہ) اللہ کی طرف سے نہ تھا بلکہ آپؐ کا خود ساختہ تھا اور نہ ابو بکرؓ اس کے متعلق سمجھوتا کیوں کرتے۔ قبائل عرب پر اس پروپیگنڈے کا زبردست اثر ہوتا اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ مدعیان نبوت سے مل جاتے جو ابھی ان پر ایمان نہ لائے تھے اور ان کی اطاعت قبول نہ کی تھی۔ ذی القصدہ میں شرمناک شکست کا انتقام لینے کے لیے بنی ذبیان اور بنی عبس کے مشرکین نے ان تمام مسلمانوں کو قتل کر ڈالا جو ان کی دسترس میں تھے، لیکن اس کا اثر الٹا پڑا اور قبائل کے وہ لوگ جو بدستور اسلام پر قائم تھے اپنے عقیدے میں اور پکے ہو گئے اور انہوں نے بے پس و پیش ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر زکوٰۃ پیش کرنی شروع کر دی کیونکہ انہوں نے تمام حالات و واقعات کا مشاہدہ کر کے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ ابو بکرؓ اپنی قوت ایمانی کی بدولت ان مرتدین پر لامحالہ غالب آ جائیں گے، دین حق کا بول بالا ہوگا اور وہ بزدلانہ انتقام جو ہزیمت خوردہ قبائل نے کمزور و بے کس مسلمانوں سے لیا ہے ان کی ہزیمت کے داغ کو نہ مٹا سکے گا اور ان قبائل کو اس کی بہت مہنگی قیمت دینی پڑے گی۔

کسی شک کی گنجائش بھی کہاں تھی؟ صدیق اکبرؓ نے عہد کر لیا تھا کہ ان قبائل سے غریب و بے کس مسلمانوں کے قتل کا انتقام لیا جائے گا اور کسی بھی مشرک کو، جس نے مسلمانوں کے قتل میں حصہ لیا ہے، زندہ نہ چھوڑا جائے گا، اس کام کے لیے صرف لشکر اسامہ کی واپسی کی دیر تھی۔

بیرونی مسلمانوں کی ادائے زکوٰۃ:

ذی القصدہ میں مسلمانوں کی فتح پر قبائل کے جو لوگ بدستور اسلام پر قائم تھے جو کہ درجہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مدینہ آنے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے جو لوگ آئے وہ بنی تمیم کے رئیس صفوان اور زبرقان اور بنی طی کے سردار عدی بن حاتم طائی تھے۔ اہل مدینہ نے بڑی گرمجوشی سے ان لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ لیکن اندر ہی اندر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ کہیں ان لوگوں کا آنا ہمارے لیے مصیبت کا باعث نہ ہو۔ مگر ابوبکرؓ ہمیشہ یہ جواب دیتے کہ نہیں یہ لوگ تمہارے لیے مصیبت کا پیغام لے کر نہیں بلکہ خوش خبری لے کر آئے ہیں۔ یہ تمہارے دشمن نہیں مددگار ہیں۔

اس وقت مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھنا بے حد ضروری تھا کیونکہ ہر جانب خطرات کے بادل منڈلاتے دیکھ کر مسلمانوں کو طبعاً مضبوط سہاروں کی ضرورت تھی۔ عبداللہ بن مسعود اس وقت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں:

”رسول اللہؐ کی وفات کے بعد ہم اس مقام پر کھڑے تھے اگر اللہ ابوبکرؓ کے ذریعے سے ہماری مدد نہ فرماتا تو ہماری ہلاکت یقینی تھی۔ ہم سب مسلمانوں کا بالاتفاق یہ خیال تھا کہ ہم زکوٰۃ کے اونٹوں کی خاطر دوسروں سے جنگ نہ کریں گے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے یہاں تک کہ ہمیں کاملاً غلبہ حاصل ہو جائے۔ لیکن ابوبکرؓ نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کا عزم کر لیا۔ انہوں نے منکرین کے سامنے صرف دو باتیں پیش کیں، تیسری نہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اپنے لیے ذلت و خواری قبول کر لیں اور اگر یہ منظور نہیں تو جلا وطنی یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے لیے ذلت و خواری کی حالت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا، وہ اقرار کریں کہ ان کے مقتول دوزخی اور ہمارے مقتول جنتی ہیں۔ وہ ہمیں ہمارے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں۔ ہم نے ان سے جو مال غنیمت وصول کیا ہے اس کی واپسی کا

مطالبہ نہ کریں لیکن جو مال انہوں نے ہم سے لیا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں۔ جلا وطنی کی سزا بھگتنے کا مطلب یہ ہے کہ شکست کھانے کے بعد اپنے علاقوں سے نکل جائیں اور دور دراز مقامات میں جا کر زندگی بسر کریں۔“

شام سے اسامہؓ کی واپسی:

مختلف قبائل کے مسلمان زکوٰۃ لے کر مدینہ پہنچ ہی رہے تھے کہ اسامہؓ بھی سرزمین روم سے مظفر و منصور واپس آ گئے۔ ابو بکرؓ اور کبار صحابہ نے مقام جرف میں لشکر کا استقبال کیا۔ عامۃ الناس نے بھی بڑے جوش و خروش سے اس فوج کا خیر مقدم کیا۔ جب لشکر مدینہ میں داخل ہوا تو ہر جانب سے خوشی اور مسرت کے گیتوں کی آوازیں آرہی تھیں۔ اسامہؓ سب سے پہلے مسجد نبویؐ میں پہنچے وہ علم جو رسول اللہؐ نے اپنے دست مبارک سے انہیں مرحمت فرمایا تھا، مسجد میں بلند کیا اور نماز شکرانہ ادا کی۔

دوبارہ جنگ:

ابو بکرؓ نے نہایت دوراندیشی سے فیصلہ کیا کہ دشمن کو تیاری کا موقع نہ دیا جائے بلکہ اس پر پے در پے حملے کر کے اس کی قوت و طاقت توڑ دی جائے۔ انہوں نے اسامہؓ اور ان کے لشکر کو فی الحال آرام کرنے کا حکم دیا اور خود ان لوگوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے جو اس سے پہلے ذی القصد کی لڑائی میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ لوگوں نے درخواست کی کہ آپ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی ضرر پہنچ گیا تو اسلامی سلطنت کا نظام تہ و بالا ہو جائے گا، اس لیے آپ اپنی جگہ کسی اور کو لشکر کا سردار مقرر فرمادیں تاکہ اگر وہ میدان میں کام بھی آجائے تو مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ لیکن ابو بکرؓ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے تھے تو جب تک اسے پورا نہ کر لیتے پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ انہوں نے یہ باتیں سن کر فرمایا:

”واللہ! میں ہرگز پیچھے نہ رہوں گا بلکہ تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری

ہمتوں کو بلند رکھوں گا۔“

مدینہ سے روانہ ہو کر ابو بکرؓ ابرق پہنچے جو ذی القصد کے قریب واقع ہے۔ وہاں ذبیان اور بنی بکر سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ جنگ میں مؤخر الذکر قبائل کو شکست پہنچی پڑی اور مسلمانوں نے انہیں اس علاقے سے نکال دیا۔ ابرق بنی ذبیان کی ملکیت لیکن جب ابو بکرؓ نے انہیں وہاں سے نکال دیا تو اعلان کیا کہ ”اب یہ سرزمین مسلمانوں کی ملکیت ہے، آئندہ بنی ذبیان اس پر قابض نہ ہو سکیں گے۔ کیونکہ اللہ نے اسے ہمیں عطا کر دیا ہے۔“ چنانچہ اس کے بعد یہ مقامات مسلمانوں ہی کی ملکیت میں رہے۔ حالات معمول پر آنے کے بعد بھی بنو ثعلبہ نے اس جگہ دوبارہ آباد ہونا چاہا تو ابو بکرؓ نے سخت نہ دی۔

اس طرح منکرین زکوٰۃ کی شکست پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ مدینہ والے بے حد خوش ہوئے۔ ایک تو اسامہ کا لشکر پہنچ جانے کی وجہ سے شہر پر کسی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا تھا، دوسرے اسات اور زکوٰۃ کے اموال متواتر پہنچنے کے باعث مسلمانوں کی غربی و تنگ دستی بھی بڑی حد تک دور ہو گئی تھی۔

سخت خوردہ قبائل کی روش:

عبس، ذبیان، غطفان، بنی بکر اور مدینہ کے قریب بسنے والے دوسرے باغی قبائل کے لیے مناسب تھا کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی اور بغاوت سے باز آ جاتے، ابو بکرؓ کی کامل فتوحات اور ارکان اسلام کی بجا آوری کا اقرار کرتے اور مسلمانوں سے مل کر مرتدین کے خلاف نبرد آزما ہو جاتے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی تھا اور واقعات بھی اسی کی تائید کرتے تھے۔ ان کے ذریعے سے ان کا زور ٹوٹ چکا تھا، روم کی سرحدوں پر حصول کامیابی کے باعث مدینہ کا رعب قائم ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی قوت و طاقت بڑھ چکی تھی اور اب وہ اس دوری کے عالم میں نہ تھے جو جنگ بدر اور ابتدائی غزوات کے ایام میں ان پر طاری تھی۔ لیکن اب بھی ان کے ساتھ تھا اور طائف بھی اور ان دونوں شہروں کی سیادت سارے عرب پر قائم تھی۔ پھر خود ان قبائل کے درمیان ایسے مسلمان کثرت سے موجود تھے جنہیں باغی کسی

صورت ساتھ نہ ملا سکے تھے اور اس طرح ان کی پوزیشن بے حد کمزور تھی۔

لیکن مسلمانوں کی دشمنی نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی تھیں اور سود و زیاں احساس دلوں سے جاتا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا اور قبیلہ بنی اسد کے طلحہ بن خویلد سے جا ملے۔ جو مسلمان ان کے درمیان موجود تھے وہ انہیں ان کے ارادوں سے باز نہ رکھ سکے۔ ان لوگوں کے پہنچ جانے سے طلحہ اور مسیلہ کی قوت و طاقت میں بہرہ اضافہ ہو گیا اور یمن میں بغاوت کے شعلے زور شور سے بھڑکنے لگے۔ یہ حالات دیکھ کر ابو بکرؓ نے فیصلہ کیا کہ جنگ کا سلسلہ بدستور جاری رکھا جائے اور اس وقت تک دم نہ لیا جائے جب تک یمن کا چپہ چپہ اسلامی حکومت کے زیر نگیں نہ آ جائے۔ اگر یہ قبائل عقل سے کام لیتے طلحہ اور دوسرے مدعیان نبوت کو اتنا فروغ حاصل نہ ہوتا اور بہت جلد سارا عرب اسلام آ غوش میں آ جاتا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اس نے مخالفین کو مزید مہلت دی کہ وہ اس عرصے میں اپنی جمعیت اور مضبوط کر لیں۔

اسلام سے ان قبائل کے عناد اور نفرت کی اصل وجہ وہی تھی جس کا ذکر ہم ابتدا میں کر آئے ہیں یعنی قبائلی عصبیت اور یہ جذبہ کہ ہم کسی طاقت کا غلبہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ جب ان قبائل کو مدینہ پر حملہ کرنے میں ناکامی ہوئی بلکہ اس کے برعکس انہیں اپنی بعض بستیوں سے نکلنا پڑا تو بدوی طبائع نے فاتح طاقت کے سامنے سر جھکانا اور اس کی سیادت قبول کے اس کے ماتحت زندگی بسر کرنا گوارا نہ کیا۔ چنانچہ وہ اس خیال سے بنی اسد اور طلحہ سے کرمل گئے کہ ممکن ہے ان کا ساتھ دینے سے وہ اپنی عبرت ناک شکست کا داغ دھو سکیں۔

لیکن ابو بکرؓ تمام قبائلی عصبیتوں سے دور تھے۔ ان کے پیش نظر صرف ایک مقصد اور وہ یہ کہ رسول اللہؐ کا قائم کردہ طریقہ اختیار کیا جائے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے چلا جائے۔ انہوں نے اپنی ساری جدوجہد اسی مقصد کے حصول کے لیے وقف کر دی۔ یہ سیاست تھی جس کے نفاذ کا اعلان انہوں نے بیعت کے دن کیا تھا اور اپنے عہد خلافت میں اسی پر نہایت سختی سے کار بند رہے۔



مرتدین سے جنگ کی تیاریاں

ابو بکرؓ نے قبائل عبس، ذبیان، بکر اور ان کے مددگاروں کو شکست دے کر
 بن کر دیا تھا اور وہ بزاخہ جا کر طیخہ بن خویلد اسدی سے مل گئے تھے۔ ابو بکرؓ نے یہ
 بھی کیا تھا کہ یہ بستیاں چونکہ اللہ نے ہمیں غنیمت میں دی ہیں۔ اس لیے انہیں
 کے مفرور باشندوں کے حوالے نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابرق اور رندہ کے
 پاس کی تمام زمینیں اور چراگاں ہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیں اور مدینہ واپس
 لے آئے۔ اب ان کے پیش نظر مرتدین کا استیصال تھا جو عرب کے مختلف
 میں بغاوت کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور ان کے ہاتھوں اسلام اور مسلمانوں کو
 خطرہ درپیش تھا۔ منکرین زکوٰۃ کی طرح مرتدین کے متعلق بھی انہوں نے تہیہ کر لیا
 انہیں ہر قیمت پر عبرت ناک شکست دی جائے گی اور ان سے کسی قسم کی مصالحت
 نہ کی جائے گی۔

کی تیاری:

جب اسامہؓ کا لشکر اچھی طرح آرام کر چکا تو ابو بکرؓ اسے لے کر مدینہ سے نکلے اور
 حصہ میں قیام فرمایا۔ وہاں انہوں نے گیارہ علم تیار کیے۔ لشکر کو گیارہ حصوں میں تقسیم کر
 حصے پر ایک امیر مقرر کیا۔ پھر ان امراء کو حکم دیا کہ وہ مرتدین کے استیصال کے لیے
 اپنے مقرر کردہ علاقے کی جانب روانہ ہو جائیں اور راستے میں جن قبیلوں کے پاس

سے گزریں وہاں کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے لیں۔

ابوبکرؓ نے مدینہ کی حفاظت کے لیے فوج رکھ چھوڑی تھی وہ باہر جانے والے لشکروں سے بہت کم تھی کیونکہ اب مدینہ کو فوری حملے کا خطرہ نہ تھا۔ منکرین زکوٰۃ کی سر

۱۔ مرتدین کے مقابلے میں فوجیں بھیجتے ہوئے ابوبکرؓ نے اس امر کا خاص خیال رکھا کہ مرتدین کی جمعیت قوت و طاقت کا لحاظ رکھ کر ان کی طرف فوجیں روانہ کی جائیں۔ اسی لیے انہوں نے خالد بن ولید کو طلحہ بن خ سے لڑنے کے لیے بنی اسد کی طرف روانہ فرمایا اور حکم دیا کہ طلحہ سے فراغت حاصل ہونے کے بعد بطاح جا کر تمیم کے سردار مالک بن نویرہ سے جنگ کی جائے۔

بنو اسد اور بنو تمیم مدینہ کے قریب ترین مرتد قبائل تھے اس لیے ضروری تھا کہ جنگ کا آغاز انہیں سے ہو جائے تاکہ ان کی شکست کا اثر دوسرے قبائل پر بھی پڑے اور وہ با آسانی زیر ہو سکیں۔ خالد بجا طور پر مستحق انہیں ان طاقتور قبائل سے جنگ کرنے والی فوجوں کی کمان سونپی جائے۔

عکرمہ بن ابوجہل کو دوسرا جھنڈا دیا گیا اور انہیں یمامہ جا کر بنی حنیفہ کے سردار مسیلمہ سے جنگ کر کے کام سپرد کیا گیا۔

شرحیل بن حسنہ کو تیسرا جھنڈا سپرد کر کے حکم دیا گیا کہ وہ پہلے مسیلمہ کے خلاف عکرمہ کی مدد کریں اور پھر فراغت حاصل ہونے کے بعد عمرو بن عاص کی امداد کے لیے قضاہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔

عکرمہ اور شرحیل کو یمامہ میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی بلکہ یہ فخر خالد بن ولید کے حصے میں آیا اور انہوں نے غزوہ عقرباء میں مسیلمہ کو قتل کر کے بنی حنیفہ کی کمر توڑ دی۔

چوتھا جھنڈا مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کے حوالے کر کے حکم دیا گیا کہ وہ یمن جا کر اسود غسی کے لشکر اور بن معدی کرب زبیدی، قید بن مکشوح مرادی اور ان کے مددگاروں سے جنگ کریں۔ یہاں سے فراغت ہونے کے بعد کندہ اور حضرموت جا کر اشعث بن قیس اور اس کے ساتھی مرتدین سے لڑیں۔

پانچواں جھنڈا اسوید بن مقرن اوسی کو عطا کر کے انہیں تہامہ یمن جانے کا حکم دیا گیا۔

چھٹا جھنڈا اعلاء بن حضرمی کو مرحمت کر کے انہیں بحرین میں حطم بن ضبیعہ اور بنی قیس بن ثعلبہ کے مرتدین کی سرکام حکم دیا گیا۔

ساتواں جھنڈا ام..... حمیر کے حذیفہ بن محسن غلفانی کو دیا گیا اور انہیں عمان جا کر وہاں کے مدعی ذوالمتاج لقیط بن مالک ازدی سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔

آٹھواں جھنڈا عرقہ بن ہرثمہ کو دے کر انہیں مہرہ بھیجا گیا۔

اس جانب اتنے کثیر لشکر بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ ارتداد کا فتنہ اسی حصے میں زیادہ پھل پھول رہا تھا اور یہاں

مرتدین کی سرکوبی کے لیے زیادہ لشکر بھیجنے کی ضرورت تھی۔ اس کے بالقابل شمالی جانب تین فوجیں بھیجی گئیں۔

پہلی فوج عمرو بن عاص کے زیر سرکردگی قضاہ سے لڑنے کے لیے روانہ کی گئی۔ دوسری فوج معن بن حجاز

قیادت میں بنی سلیم اور بنی ہوازن کے شوریدہ سر قبائل کی سرکوبی کے لیے روانہ کی گئی اور تیسری فوج خالد بن

بن عاص کی سالاری میں شام کی سرحدوں پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے بھیجی گئی۔

کے بعد وہاں کے باشندے بڑے اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ کسی قبیلے کو مدینہ پر حملہ کرنے کی جرات بھی کس طرح ہو سکتی تھی جب مسلمانوں کی فتح مندی کی خبریں ہر طرف پھیل چکی تھی، ان کا رعب سارے عرب پر چھا چکا تھا اور ان کی بہادری کا سکہ تمام قبائل پر بیٹھ چکا تھا۔

قیام مدینہ کی وجہ:

ان لشکروں کو رخصت کرنے کے بعد ابو بکرؓ مدینہ واپس تشریف لے آئے اور مستقل طور پر یہیں قیام فرمایا۔ مدینہ میں قیام کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ شہر مسلمانوں کا جنگی ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا اور فوجوں کی نقل و حرکت کے متعلق تمام احکام یہیں سے صادر ہوتے تھے۔ اس لیے خلیفہ کا مستقل طور پر دار الخلافہ میں قیام نہایت ضروری تھا ورنہ فتوحات کا سلسلہ درہم برہم ہو جاتا اور مسلمانوں کو مخالفین کے مقابلے میں وہ کامیابی ہرگز حاصل نہ ہوتی جو ہوئی۔

سب سے ضروری حکم، جو ابو بکرؓ نے لشکروں کے سپہ سالاروں کی روانگی کے وقت دیا، یہ تھا کہ کوئی سپہ سالار مخالف پر فتح پانے کے بعد اس وقت تک کسی دوسری جانب رخ نہ کرے جب تک دربار خلافت سے اس کی اجازت حاصل نہ کر لے کیونکہ ابو بکرؓ کے خیال میں سیاست کا تقاضا یہی تھا کہ دوران جنگ میں دار الخلافہ کی انتظامی مشینری اور جنگی قیادت میں کامل اتحاد ہونا چاہیے۔

مہاجرین کی قیادت کا سبب:

اس موقع پر انصار کے بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ان لشکروں کے سپہ سالار تمام تر مہاجرین ہی ہیں اور انصار میں سے کسی شخص کو قیادت کا علم سپرد نہیں کیا گیا، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ ابو بکرؓ کا اصل منشاء یہ تھا کہ اہل مدینہ اپنے شہر کی حفاظت خود کریں کیونکہ وہ یہاں کے تمام حالات کو خوب جانتے تھے اور دوسروں کی نسبت اپنے شہر کی حفاظت اچھی طرح کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ خیال سراسر غلط تھا کہ ابو بکرؓ نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کی روش

دیکھتے ہوئے انہیں اس خیال کے تحت قیادت سے محروم کر دیا کہ مبادا باہر جا کر وہ بغاوت کا علم بلند کر دیں۔

یہ فوجیں مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کی گئی تھیں اور ابو بکرؓ خوب جانتے تھے کہ انصار ایمان باللہ اور شیفتگی رسولؐ میں مہاجرین سے کسی طرح کم نہ تھے اس لیے انہیں انصار سے کسی قسم کا خدشہ کیونکر لاحق ہو سکتا تھا؟

اگر انصار کے متعلق یہ بات تسلیم کر لی جائے تو اکابر مہاجرین مثلاً علیؓ، طلحہ اور زبیر وغیرہ کے متعلق بھی یہی خیال کیوں درست نہیں ہو سکتا کہ ابو بکرؓ نے انہیں اس لیے مدینہ سے باہر نہ جانے دیا کہ ان کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ تھا۔ حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں اور عمرؓ کو اس وجہ سے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تھا کہ ان سے وقتاً فوقتاً مشورہ لیتے رہیں اور ان کے تدبیر اور مشوروں سے فائدہ اٹھا کر مرکز قیادت کو مضبوط کر سکیں۔

ابو بکرؓ کی بے تعصبی:

آخر ابو بکرؓ کے لیے ان لوگوں سے ڈرنے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ انہوں نے خلافت اپنی مرضی اور خواہش سے حاصل نہ کی تھی بلکہ یہ گراں بار ذمہ داری صرف اس لیے قبول کی تھی کہ مدینہ کے اہل الرائے اصحاب ان کی صلاحیتوں کی بنا پر انہی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور ان کے سوا کسی کی خلافت پر راضی نہ تھے۔ اڑھائی برس کے عرصے میں جو واقعات پیش آئے انہوں نے روز روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ ابو بکرؓ نے خلافت محض اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہوئے قبول کی تھی۔ چنانچہ بیعت لینے کے بعد انہوں نے پہلی ہی تقریر میں فرمایا:

”اے لوگو! مجھے خلیفہ تو بنادیا گیا ہے لیکن میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔

واللہ! میری تو دلی خواہش ہے کہ یہ بار گراں تم میں سے کوئی اور شخص

اٹھائے۔“

اسی طرح ایک بار خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

”حکمران دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بد بخت ہوتے ہیں۔“

یہ سن کر لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا تو فرمایا:

”لوگو! تمہیں کیا ہوا؟ تم اعتراض کرنے والے اور جلد باز ہو۔ جب کوئی شخص حکمران بنتا ہے تو چاہتا ہے کہ دوسروں کا مال بھی اس کے قبضے میں آجائے۔ لیکن اس کی حالت محض سراب کی سی ہوتی ہے۔ وہ ظاہر میں تو خوش و خرم دکھائی دیتا ہے مگر اصل میں حد درجہ غمگین شخص ہوتا ہے۔“

سخ میں ابو بکرؓ کا قیام جس مکان میں تھا وہ بہت معمولی اور دیہاتی طرز کا تھا۔ اگر چاہتے تو خلافت کے بعد اس کی حالت درست کر سکتے تھے لیکن خلافت کے پورے عہد میں وہ مکان جوں کا توں رہا اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئی۔ اسی طرح مدینہ کا مکان بہت سادہ رہا۔ خلافت کے بعد چھ مہینے تک وہ روزانہ پیدل سخ سے مدینہ جاتے تھے اور شاذ و نادر ہی کبھی گھوڑا استعمال کرتے تھے۔ خلافت سے پہلے وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ جب خلافت کا کام بڑھا اور سلطنت کی ذمہ داریاں زیادہ ہوئیں تو تجارت کے لیے وقت دینا مشکل ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ انصرا م سلطنت اور تجارت کا کام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ چونکہ رعایا کی دیکھ بھال اور اس کی خبر گیری تجارت سے زیادہ ضروری ہے اس لیے میرے اہل و عیال کے واسطے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے جو انہیں معمولی طور پر کافی ہو۔ چنانچہ بیت المال سے ان کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا گیا کہ ان سے ان کا اور ان کے اہل و عیال کا گزارہ چل سکے۔ لیکن جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو حکم دیا، جو وظیفہ میں نے بیت المال سے لیا ہے اسے سارے کا سارا واپس کر دو، اس کی ادائیگی کے لیے میری فلاں زمین بیچ دی جائے اور آج میں نے مسلمانوں کا جو مال اپنے اوپر خرچ کیا ہے اس زمین کو فروخت کر کے وہ پوری رقم ادا کر دی جائے۔ چنانچہ جب ان کی وفات کے بعد عمرؓ خلیفہ ہوئے اور وہ رقم ان کے پاس پہنچی تو وہ رو پڑے اور کہا:

”ابو بکرؓ! تم نے اپنے جانشین کے سر پر بہت بھاری بوجھ ڈال دیا ہے۔“

جو شخص ان اعلیٰ صفات اور خصائل کا مال ہوا سے آخر کس چیز کا ڈر ہو سکتا تھا اور کس شخص کی مجال تھی کہ ان پر زبان طعن دراز کرتا۔ تمام مسلمانوں بلکہ سارے عرب میں ان کی عقل و خرد، اصابت رائے، صدق مقال، ایمان و اخلاص اور قربانی و ایثار کے بے نظیر جذبے کی وجہ سے ان کا بیحد احترام کیا جاتا تھا۔ اگرچہ ان صفات حسنہ سے ان کی زندگی کا کوئی بھی دور خالی نہ رہا لیکن ان کا اظہار جس طرح خلافت کی ذمہ داریاں تفویض ہونے کے بعد ہوا پہلے نہ ہو سکا۔ انہیں باتوں کو دیکھتے ہوئے کسی بھی شخص نے ان بلند مقاصد کے بارے میں شک نہ کیا اور کسی بھی جانب سے ان کے احکام کی بجا آوری میں کسی قسم کے تردد کا اظہار نہ کیا گیا۔

خالد بن ولیدؓ:

خالد بن ولید کو ابو بکرؓ نے جس لشکر کی کمان سپرد کی تھی وہ تمام لشکروں سے زیادہ مضبوط تھا اور اس میں مہاجرین و انصار کے منتخب آدمی جمع تھے جن کا انتخاب خود خالد نے کیا تھا۔ صفحات آئندہ میں آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے جنگ ہائے ارتداد میں بے نظیر کارنامے انجام دیئے اور عراق و شام کی جنگوں میں تو انہوں نے وہ معرکے سر کیے جنہیں کسی صورت فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

ان فوجوں کی کامیابی کا راز خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مضمر تھا۔ خالد کو جو جنگی مہارت حاصل تھی اس کا حال کسی سے پوشیدہ نہیں۔ سکندر اعظم، چنگیز خاں، جو لیس سیز رہنی بال اور نپولین کی شخصیتیں خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ نظر آتی ہوں لیکن حق یہ ہے کہ خالدؓ کی شخصیت کے آگے وہ سب ہیچ ہیں۔ وہ اسلام کے بطل جلیل تھے اور ہر قسم کے خطرات و خدشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں دلیرانہ گھس جانا ان کا خاص شیوہ تھا۔ فنون جنگ سے گہری واقفیت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ دشمن کی ہر چال اور اس کا ہر منصوبہ ان کی نگاہ میں ہوتا تھا اور مخالف کی کوئی حرکت ان سے چھپی نہ رہ سکتی تھی۔ تمام مسلمانوں کو ان کی صلاحیتوں کا علم تھا۔ خود رسول اللہؐ نے انہیں جنگ موتہ میں مسلمانوں کی قلیل تعداد فوج کو ہزار ہا رومیوں کے زرعے سے نکال لانے کی بنا پر سیف اللہ کا خطاب

مرحمت فرمایا تھا۔ زندگی بھر انہوں نے کبھی شکست نہیں کھائی، ہمیشہ فتح یاب ہی ہوتے رہے اور اسی حالت میں وفات پائی۔

اسلام لانے سے قبل بھی خالد کا شمار قریش کے چوٹی کے بہادروں میں ہوتا تھا۔ جنگ بدر احد اور خندق میں وہ کفار کے دوش بہ دوش مسلمانوں سے لڑے۔ سر تا پا فوجی ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں خشونت، تندہی اور تیزی آگئی تھی۔ دشمن کو سامنے دیکھ کر ان سے مطلق صبر نہ ہو سکتا اور چاہتے تھے کہ جس قدر جلد ممکن ہو اس پر ٹوٹ پڑیں۔ اللہ کا فضل ہمیشہ ان کے شام حال رہا ورنہ ممکن تھا کہ اپنی جلد بازی کے باعث انہیں بھاری نقصان سے دوچار ہونا پڑتا۔ دشمن بڑی سے بڑی تعداد اور کثیر اسلحہ کے باوجود کبھی انہیں مرعوب نہ کر سکتا تھا۔ صلح حدیبیہ سے اگلے سال رسول اللہ ﷺ القضا کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو خالد مسلمانوں سے حد درجہ نفرت کے باعث مکہ چھوڑ کر ہی چلے گئے۔ لیکن اچانک اللہ نے ان کے دل پر پڑے ہوئے تاریک پردے ہٹا دیئے اور انہیں حق و صداقت سے آگاہی عطا فرمائی۔ رسول اللہ ﷺ کے مدینہ واپس تشریف لے جانے کے بعد خالد مکہ واپس آ گئے اور ایک روز انہوں نے قریش کے مجمع میں علانیہ کہہ دیا کہ اب ہر ذی عقل انسان پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ محمدؐ نہ جادوگر ہیں نہ شاعر، ان کا کلام یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، اب قریش کے لیے آپؐ کا اتباع اختیار کے بغیر چارہ نہیں۔

خالدؓ کی زبان سے یہ کلمات سن کر قریش کو سخت حیرت ہوئی۔ ان کے وہم میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ خالد کا میلان اسلام کی جانب ہو سکتا ہے۔ عکرمہ بن ابو جہل اور خالد کے مابین بحث بھی ہوئی لیکن خلاف معمول اس نے تیزی اختیار نہ کی۔ ابوسفیان اس اجتماع میں موجود نہ تھا۔ جب اسے اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے انہیں بلا کر پوچھا ”کیا تمہارے اسلام لانے کی خبر سچ ہے؟“ خالدؓ نے جواب دیا۔ ”ہاں میں اسلام لے آیا ہوں اور محمدؐ کی رسالت پر یقین رکھتا ہوں۔“ یہ سن کر ابوسفیان کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہالات اور عزیمت کی قسم! اگر یہی بات ہے تو میں محمدؐ سے پہلے تم ہی سے نیٹ لیتا ہوں۔ خالدؓ نے جواب دیا۔ ”اسلام بہر حال سچا ہے خواہ کوئی شخص اس بات کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔“

اسلام لانے کے بعد خالد مدینہ چلے آئے۔ اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے

مسلمانوں میں خاص قدر و منزلت حاصل کر لی اور اس امر کے باوجود کہ ان کی ساری عمر اسلام کی مخالفت میں گزری تھی، ہر شخص انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس عزت و توقیر میں گراں قدر اضافہ اس وقت ہوا جب جنگ موتہ کے بعد انہیں دربار نبوی سے ”سیف اللہ“ کا خطاب مرحمت ہوا۔ بعد میں انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس خطاب کا پورا پورا مستحق ثابت کیا۔ عراق اور شام کی فتوحات انہیں کے ذریعے سے ہوئیں۔ فارس اور روم کی عظیم الشان سلطنتیں جو اس زمانے میں روئے زمین کی مالک تھیں، انہیں کے ہاتھوں نابود ہوئیں۔ ان ہی اوصاف کی بدولت انہیں مرتدین کے مقابلے میں سب سے بڑے لشکر کی سپہ سالاری نصب ہوئی۔

مرتدین کو آخری پیش کش:

لشکروں کی روانگی سے قبل ابوبکرؓ نے مرتدین کو آخری موقع دینے کے لیے انہیں دوبارہ اسلام لانے اور امن سے رہنے کی دعوت دی۔ عرب کے ہر حصے میں انہوں نے متعدد خطوط روانہ کیے جن میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ کی رسالت اور ان کے بشیرو نذیر ہونے کا ذکر کیا اور بتایا کہ جب وہ کام پورا ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں شریف لائے تھے تو اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ رسول اللہ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ان خطوط میں یہ آیات بھی درج کیں۔ 'انک میت وانهم میتون' (اے رسول! تمہیں بھی وفات دی جانے والی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی) 'وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فہم الخالدون' (اے رسول! ہم نے مجھ سے پہلے کسی شخص کو ہمیشہ کی زندگی سے نہیں نوازا یہ ممکن ہے کہ تو وفات پا جائے اور دوسرے لوگ زندہ رہیں؟) 'وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئاً وسیجزی اللہ الشاکرین' (محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر دوسرے رسولوں کی طرح محمد بھی وفات پا جائیں یا شہید کر دیئے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان

نہ پہنچا سکے گا اور عنقریب اللہ شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا۔)

مرتدین کے نام خطوط:

ان آیات کے درج کرنے سے ابو بکرؓ کا مقصد ان لوگوں کا فتنہ فرو کرنا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر محمدؐ سچے ہوتے تو کبھی وفات نہ پاتے۔

ان آیات کے علاوہ آپؐ نے لکھا:

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ مسلمان ہونے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے بعد جہالت اور شیطان کے بہکانے کے باعث دین حق سے پھر گئے ہیں۔ میں تمہاری جانب مہاجرین، انصار اور تابعین کا لشکر بھیج رہا ہوں۔ میں نے اسے حکم دے دیا ہے کہ جب تک وہ تمہارے سامنے اسلام کا پیغام نہ پہنچا دے جنگ نہ کرے۔ پس جو شخص یہ دعوت قبول کرے گا، اسلام کا اقرار کر کے تمام مخالفانہ سرگرمیوں سے باز آ جائے گا اور نیک کام کرے گا اس کی جان بخشی کر دی جائے گی، لیکن جو شخص انکار کرے گا اور فساد پر آمادہ ہوگا اس سے جنگ کی جائے گی اور وہ اللہ کی تقدیر کو اپنے اوپر نافذ ہونے سے روک نہ سکے گا۔ ایسے لوگوں کو آگ میں جلایا جائے گا اور بری طرح قتل کیا جائے گا۔ ان کی عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں گے۔ کسی شخص سے اسلام کے سوا کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔ ان باتوں پر غور کرنے کے بعد جو شخص ایمان لے آئے گا تو یہ ایمان اس کے لیے بہتر ہوگا، لیکن جو شخص بدستور حالت ارتداد پر قائم رہے گا وہ اللہ کو ہرگز عاجز نہ کر سکے گا۔ میں نے قاصد کو حکم دے دیا ہے کہ وہ میرا یہ خط مجمع عام میں پڑھ کر سنا دے۔ اسلام لانے کی علامت اذان ہوگی۔“

اسی لیے جب مسلمان مرتدین کی بستیوں کے قریب پہنچ کر اذان دیتے اور اس

کے جواب میں بستی کی جانب سے بھی اذان کی آواز سنائی دیتی تو مسلمان ان سے کوئی تعرض نہ کرتے لیکن اگر اذان کی آواز نہ آتی تو ایک بار پھر اتمام حجت کرنے کے بعد ان سے جنگ شروع کر دیتے۔

ہدایت کی کوشش:

ابوبکرؓ نے قاصدوں کے ہاتھ یہ خطوط عرب کے گوشے گوشے میں بھیج دیئے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس طرح متردد لوگوں کو غور و فکر کی مہلت مل جائے کیونکہ لوگ محض اس خدشے کے باعث مرتدین کے ساتھ ہو گئے تھے کہ اگر وہ اسلام پر قائم رہے تو انہیں مرتدین کے ہاتھوں سخت مظالم برداشت کرنے پڑیں گے۔ لیکن اب کہ انہوں نے اپنے آپ کو دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا دیکھا تو دوبارہ اسلام لانے کا اعلان کر دیا یا کم از کم مرتدین کے سرداروں کی حمایت سے دست کشی اختیار کر لی۔ اس وجہ سے ان کی جانیں بچ گئیں۔

یہ خطوط سن کر کثیر التعداد مرتدین کی ہمتیں بھی پشت ہو گئیں اور انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ غرض ابوبکرؓ کی اس پالیسی سے مسلمانوں کو زبردست فائدہ پہنچا۔ پھر بھی اس پالیسی سے کسی کمزوری کا اظہار مطلق نہ ہوتا تھا۔ ابوبکرؓ کا منشا یہ نہ تھا کہ پہلے تو مرتدین کو بہلا پھسلا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں لیکن اس پر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو مصالحت کی کوئی اور راہ اختیار کریں۔ اس کے برعکس انہوں نے اپنے خطوط کا لفظ لفظ نہایت سنجیدگی سے تحریر کیا تھا۔ جو دھمکیاں خطوط میں دی گئی تھیں وہ خالی خولی نہ تھیں بلکہ وہ انہیں لباس عمل پہنانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں لکھ دیا تھا، امراء عسا کر کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ پہلے مرتد لوگوں کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو ان سے درگزر کریں لیکن انکار کی صورت میں ان سے جنگ کریں اور اس وقت تک جنگ کریں کہ وہ اسلام لانے کا اقرار کر لیں، اسلام کا اقرار کر لینے کے بعد وہ انہیں ان حقوق سے آگاہ کریں جو ان پر عائد ہوتے ہیں اور ان حقوق سے بھی باخبر کریں جو حکومت کے ذمے عائد ہوتے ہیں۔ پھر ان سے جو لینا ہو وہ لیں اور انہیں جو دینا ہو وہ دیں، انہیں مہلت قطعاً نہ دیں۔ جو شخص یہ دعوت قبول کر

لے اس پر کسی شخص کو دست دراز کرنے کا حق نہیں۔ اگر وہ اپنے دل میں ان باتوں سے مختلف باتیں چھپائے جو اس نے اپنی زبان سے ادا کی ہیں تو اس کا حساب لینا صرف اللہ کا کام ہے۔ لیکن جو شخص قبول دعوت سے انکار کر دے تو اس سے جہاں کہیں وہ ہو، جنگ کی جائے اور اسے قتل کیا جائے۔ اس سے اسلام کے سوا کوئی چیز قبول نہ کی جائے۔ قتل کرنے کے لیے تلوار اور آگ دونوں استعمال کی جائیں۔

بہترین سیاست کا کرشمہ:

ابوبکرؓ نے اس موقع پر جو پالیسی اختیار کی وہ بہترین سیاست کا کرشمہ تھی۔ بعض لوگ اس امر پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ ابوبکرؓ نے نہایت نرم دل ہونے کے باوجود اس تند رخت رویہ کیوں اختیار کیا؟ لیکن اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ ابوبکرؓ کو اللہ اور اس کے رسولؐ پر جو کامل ایمان تھا اس کے باعث انہیں دین کے معاملے میں نرمی برتنے کا کبھی خیال بھی نہ آیا۔ یہ درست ہے کہ نرم دل لوگ سختی اور تندہی کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی اجانب سے ان کے عقائد پر زرد پڑے تو ان کی سختی کی انتہا نہیں رہتی۔ انسانی فطرت میں ایک خاص حد تک سختی اور نرمی کا مادہ رکھا گیا ہے مگر بعض اوقات جب معاملات اس مقرر حد سے بڑھ جائیں تو اس کا رد عمل بالکل الٹ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبائع پر سختی غالب ہوتی ہے، انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کبھی نرمی بھی برت سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر نرمی نے پوری طرح قابو پالیا ہوتا ہے اور انہیں دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کبھی سختی پر بھی اتر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس قسم کے نظارے اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جن لوگوں سے سختی کی توقع نہیں کی جاسکتی وہ انتہائی سختی پر اتر آتے ہیں اور جن سے نرمی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ وہ انتہائی نرمی برتنے لگتے ہیں۔ وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ سختی اور نرمی دونوں کی حدود مقرر ہیں۔ بعض واقعات کے نتیجے میں جب یہ حدود ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہے۔

کیا کوئی شخص خیال کر سکتا تھا کہ اسامہ کو شام بھیجے وقت ابوبکرؓ وہ رویہ اختیار کریں

گے جو اکابر مہاجرین اور انصار کی رائے کے بالکل خلاف تھا؟ یا منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں اس قدر سختی برتیں گے کہ اسلامی لشکر کے مدینہ سے غیر حاضر ہونے کے باوجود چند آدمی لے کر ان کے مقابلے کو نکل آئیں گے؟ انہی واقعات پر بس نہیں بلکہ بعد کے واقعات نے بھی بتا دیا کہ ابو بکرؓ، جن کی سرشت میں نرم دلی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، مخالفین کے مقابلے میں نہایت سخت دل واقع ہوئے۔ اس کی وجہ، جیسا کہ بیان کی جا چکی ہے، یہی ہے کہ ابو بکرؓ کو اللہ اور اس کے رسولؐ پر کامل ایمان تھا اور انہیں وثوق تھا کہ انہوں نے جو چیز قبول کی ہے وہی حق ہے۔ اس لیے جب بعض لوگ اس چیز کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے مطلق صبر نہ ہو سکا اور وہ پورے عزم اور عدیم النظیر ہمت سے دین میں رخنہ اندازی کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ ابو بکرؓ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس وقت تک خاموش نہ بیٹھیں گے جب تک منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کو حق کی طرف نہ لے آئیں یا ان کا قلع قمع نہ کر لیں اور اگر اس غرض کے لیے انہیں تنہا بھی لڑنا پڑا تو اس سے بھی دریغ نہ کریں گے۔

جنگ ہائے ارتداد کی اہمیت:

مرتدین سے جو جنگیں پیش آئیں ان کا شمار زمانہ اسلام کی فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے۔ اگر ان جنگوں میں مسلمان فتح یاب نہ ہوتے تو تھوڑے ہی عرصے میں عرب دوبارہ اسی پرانی جاہلیت کا شکار ہو جاتے جسے فنا کرنے کے لیے رسول اللہؐ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ لیکن اللہ نے مقدر کر دیا تھا کہ اس کا دین غالب رہے گا۔ اس غرض سے اس نے ابو بکرؓ کو چنا۔ انہوں نے انتہائی پامردی سے تمام دشمنان اسلام کا مقابلہ کر کے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور کر دیا۔ پوری تاریخ اسلام میں کہیں بھی ایسی نظیر نہیں ملتی جہاں ایسے محکم ایمان کا مظاہرہ کیا گیا ہو جیسا ابو بکرؓ نے کیا اور عزم و استقلال کا ایسا ثبوت دیا گیا ہو جیسا ابو بکرؓ نے دیا۔



طلیحہ اور جنگ بزاخہ

قبائل عبس، ذبیان، بنو بکر اور ان کے وہ مددگار جنہوں نے مدینہ پر چڑھائی میں حصہ لیا تھا داغ ہزیمت دھونے کے لیے طلیحہ بن خویلد اسدی سے جا کر مل گئے تھے۔ مزید برآں طی، غطفان، سلیم اور وہ بدوی قبائل بھی جو مدینہ کے مشرق اور شمال مشرق میں آباد تھے طلیحہ کے حامی بن گئے تھے۔ یہ سب قبائل عیینہ بن حصن فزاری کی طرح کہتے تھے ”حلیف قبائل (اسد اور غطفان) کا نبی ہمیں قریش کے نبی سے زیادہ محبوب ہے۔ محمدؐ وفات پا چکے ہیں لیکن طلیحہ زندہ ہے۔“

ان قبائل کو خوب معلوم تھا کہ ابو بکرؓ ان پر ضرور حملہ کریں گے لیکن انہوں نے مطلق پروانہ کی اور برابر لڑائی کی تیاریوں میں مصروف رہے۔ طلیحہ کی متابعت انہوں نے اس ضد میں آ کر اختیار کی تھی کہ وہ اپنے اوپر مدینہ کی حکومت کیوں تسلیم کریں؟ اپنی آزادی ہاتھ سے کیوں جانے دیں اور زکوٰۃ جو ایک قسم کا تاوان ہے، کیوں ادا کریں؟

طلیحہ پہلے سمیراء میں مقیم تھا۔ وہاں سے بزاخہ آ گیا کیونکہ اس کے خیال میں لڑائی کے لیے بزاخہ نسبتاً زیادہ مناسب اور محفوظ جگہ تھی۔

طلیحہ کا دعوائے نبوت:

طلیحہ نے رسول اللہؐ کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ نہ کیا تھا بلکہ وہ اسود غسی اور مسلمہ کی طرح آپؐ کی زندگی کے آخری دنوں ہی میں یہ دعویٰ کر چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کے برعکس عربوں کو دوبارہ بت پرستی اختیار کرنے کی دعوت نہ دی۔ کیونکہ بت پرستی کو رسول اللہؐ عرب سے بالکل مٹا چکے تھے اور اب اس کے پھیلنے کا

کوئی امکان باقی نہ رہا تھا۔ توحید کی دعوت عرب کے کناروں تک پہنچ چکی تھی اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ بت پرستی ہدیان کی ایک قسم ہے جس سے ہر شریف انسان کو شرمانا چاہیے۔

مدعیان نبوت نے لوگوں میں یہ بات پھیلانی شروع کی کہ ان پر اسی طرح وحی نازل ہوتی ہے جس طرح محمدؐ پر نازل ہوتی ہے اور ان کے پاس بھی اسی طرح آسمان سے فرشتہ آتا ہے جس طرح محمدؐ کے پاس آتا ہے۔ ان میں سے بعض نے آیات قرآنی کے مشابہ کچھ عبارتیں بنانے کی کوشش کی اور جیسی بری بھلی وہ بنیں انہیں لوگوں کے سامنے وحی آسمانی کے طور پر پیش کیا۔ لیکن ان عبارتوں پر سرسری نظر ڈالنے ہی سے ان کی قلعی کھل جاتی ہے اور حیرت ہوتی ہے ان مدعیان نبوت کو کس طرح جرات ہوئی کہ انہوں نے ایسی بے سرو پا باتوں کو وحی آسمانی کا نام دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور وہ لوگ بھی کس عجیب قسم کی ذہنیت کے مالک تھے جنہوں نے اس نامعقول اور بے ہودہ بکواس کو وحی الہی سمجھ کر قبول کر لیا۔ ذیل میں نمونہ اس ”وحی“ کا ایک ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے جو طلحہ پر اتر کر تھی۔

”والحمام والیمام، والصد الصوام، قد صمن قبلکم

باعرام لیبلغن ملکنا العراق والشام۔“

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کاہن لوگ مسجع و مقفی عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان پر رعب بٹھاتے تھے۔ قریش بھی یہ کہہ کر رسول اللہؐ کا انکار کرتے تھے کہ یہ شخص کاہن ہے اور جو کچھ اس پر اترتا ہے وہ اسی قسم کی مسجع و مقفی عبارتیں ہیں جو عموماً کاہن لوگ سنایا کرتے ہیں۔ لیکن بالآخر عربوں اور تمام انسانوں پر یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ قرآن محمدؐ کا معجزہ ہے اور جن و انس میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اس کی نظیر پیش کر سکے۔ طلحہ اور اسود غسی وغیرہ بھی کاہن تھے اور دوسرے کاہنوں کی طرح انہوں نے بھی بعض مسجع و مقفی عبارتیں بنا کر انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیا تھا حالانکہ ان عبارتوں کو سننا بھی مذاق سلیم پر گراں گزرتا تھا اور کوئی باذوق ان عبارتوں کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ تعجب ہے کہ یہ خرافات سننے کے بعد لوگ کس طرح ان مدعیان نبوت کے پھندوں میں گرفتار ہو گئے اور ان عبارتوں کو کلام الہی یقین کرنے لگے۔

طلیحہ نے لوگوں کے سامنے جو تعلیم پیش کی وہ بیشتر پردہ اخفا میں ہے البتہ تاریخ سے اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنے پیروؤں کو نماز میں رکوع و سجود کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا، اللہ کا یہ منشاء نہیں کہ تم اپنے چہرے زمین پر رگڑو یا نماز میں اپنی پٹھیں کمان بناؤ۔ صاف ظاہر ہے کہ اس نے یہ سب کچھ عیسائیوں کے طریقہ عبادت سے لیا تھا۔ طلیحہ، مسیلمہ اور ان جیسے دوسرے مدعیان نبوت کی پیش کردہ تعلیمات اور باتیں اس لیے پردہ اخفا میں ہیں کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے انہیں مدون کرنے کی کوشش نہ کی۔ بعد میں جو چیزیں مدون ہوئیں وہ بھی صرف ان باتوں پر مشتمل تھیں جن سے دین اسلام کی تائید ہوتی تھی۔

ہر شخص کو علم ہے کہ صدر اول میں قرآن کریم کے سوا، جو ابو بکرؓ کے حکم سے یکجا کیا گیا، کوئی چیز مدون نہیں کی گئی۔ احادیث کی تدوین بھی پہلی صدی ہجری کے بعد عمل میں آئی۔ اس حقیقت کے پیش نظر تعجب نہیں کہ طلیحہ اور دوسرے مدعیان نبوت کے متعلق جن روایات کا وجود ملتا ہے وہ بے سرو پا ہی ہوں۔ خصوصاً اس صورت میں کہ یہ روایات اس زمانے کے عربی طرز بود و ماند، تہذیب و تمدن اور رسوم کے برعکس ہیں اور اس وقت کے واقعات و حالات سے قطعاً مناسبت نہیں رکھتیں۔

مرتدین کی سرکوبی اور ضرارؓ کی روانگی:

رسول اللہؐ کی زندگی ہی میں طلیحہ نے بنی اسد میں، اسود غنسی نے یمن میں اور مسیلمہ نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اسی لیے آپ نے ضرار بن ازور کو بنی اسد کے مسلمان عمال کے پاس یہ ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ وہ مرتدین کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ اس حکم کے مطاب مسلمانوں نے واردات کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور طلیحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سمیراء کے مقام پر فروکش ہوا۔

مختلف میدان ہائے جنگ میں اپنی فتح یابی کی خبریں سن کر مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی اور مرتدین کی تعداد گھٹتی جاتی تھی۔ بالآخر ضرارؓ نے طلیحہ سے جنگ کرنے کے لیے سمیراء کی جانب کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک مسلمان، اس خیال سے کہ طلیحہ کو جہنم

اصل کرنے کا شرف اس کے حصے میں آئے، فوج سے علیحدہ ہو کر طلحہ کے کمپ میں جا پہنچا اور اس پر تلوار سے وار کیا لیکن تلوار چٹ گئی اور طلحہ بچ گیا۔ یہ دیکھ کر طلحہ کے حاشیہ برداروں نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ ان کے نبی پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا۔

مسلمان طلحہ سے جنگ کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہی تھے کہ رسول اللہؐ کی خبر وفات پہنچ گئی۔ اس پر ان میں اضطراب برپا ہو گیا اور ان کی تعداد گھٹنے لگی۔ بعض لوگ اسلامی لشکر سے بھاگ کر طلحہ سے جا ملے۔

ابوبکرؓ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد جب عیس اور ذبیان کے قبائل بھی طلحہ سے مل گئے تو اس کی قوت و طاقت اور تعداد میں بے حد اضافہ ہو گیا اور ظاہر بین آنکھ کو نظر آنے لگا کہ طلحہ کو مغلوب کرنا آسان کام نہیں۔

عیسینہ اور مسلمہ کا الحاق:

طلحہ کی قوت و طاقت میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب عیس اور ذبیان کے علاوہ بعض دوسرے قبائل بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ بنو اسد، غطفان اور طئی رسول اللہؐ کی بعثت سے پہلے ایک دوسرے کے حلیف تھے لیکن بعض رنجشوں کی بنا پر اسد اور غطفان قبیلہ طئی کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے طئی کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ اس واقعے کا اثر اتنا ہی نہ ہوا کہ اسد و غطفان اور طئی کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی بلکہ بنی اسد اور غطفان میں دوستی کا جو معاہدہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ رسولؐ کی وفات کے بعد عیسینہ بن حصن فزاری نے غطفان کو جمع کر کے کہا کہ جب سے ہمارے اور بنی اسد کے درمیان اختلاف برپا ہوا ہے ہمیں برابر نقصان ہی پہنچ رہا ہے۔ میں اب دوستی کے پرانے معاہدے کی تجدید اور طلحہ کی فرمانبرداری کا اقرار کرتا ہوں۔ واللہ! اپنے حلیف قبیلے کے نبی کی اطاعت کرنا ہمارے لیے قریش کے نبی کی اطاعت کرنے سے بہتر ہے۔ پھر محمدؐ وفات پا چکے ہیں اور طلحہ زندہ ہے۔

عیسینہ کی قوم نے اس کی بات تسلیم کر لی اور طلحہ کی اطاعت کا اعلان کر دیا۔ اس طرح مرتدین کی شان و شوکت بہت بڑھ گئی اور ان قبائل میں جو مسلمان آباد تھے وہ بھاگ

کر مدینہ پہنچ گئے۔

مرتدین کو ابو بکرؓ کی دھمکی:

مذکورہ بالا قبائل نے بزاخہ میں جمع ہو کر ارتداد کا اعلان کیا اور مدینہ کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو بکرؓ نے دوسرے قبائل کی طرح ان سے بھی جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور انہیں ایک خط بھیج کر دھمکی دی کہ اگر وہ دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے تو ان سے جنگ کر کے انہیں تباہ برباد کر دیا جائے گا۔ خالد کو طلیحہ اور اس کے بعد مالک بن نویرہ سے جنگ کرنے کا حکم ملا تھا چنانچہ وہ ان بستیوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ اسی اثناء میں قبیلہ طسی کے ایک سردار عدی بن حاتم زکوٰۃ لے کر مدینہ آئے۔ ابو بکرؓ نے انہیں بلایا اور ہدایت کی کہ وہ اپنے قبیلے میں جائیں اور مرتدین کو ڈرائیں کہ اگر وہ حالت ارتداد پر قائم رہے تو ان کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ ادھر خالد نے فی الفور بزاخہ کا قصد نہ کیا بلکہ اجاء کی طرف مڑ گئے اور یہ ظاہر کیا کہ وہ خیبر کی جانب جا رہے ہیں اور وہاں سے مزید کمک لے کر پھر بزاخہ کی طرف کوچ کریں گے۔

عدیؓ کی سعی و جہد:

ابو بکرؓ کی ہدایت کے مطابق عدی نے اپنے قبیلے میں پہنچ کر لوگوں کو سمجھایا بھجھایا اور انہیں دوبارہ اسلام لانے کی تلقین کی لیکن لوگوں نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا اور کہا: ”ہم ابو الفصیلؓ کی اطاعت کبھی نہ کریں گے۔“

اس پر عدی نے ان سے کہا:

”تمہاری جانب ایک ایسا لشکر بڑھا چلا آ رہا ہے جو تم پر ہر گز رحم نہ کرے گا اور قتل و غارت کا بازار اس طرح گرم کرے گا کہ کسی بھی شخص کو امان نہ مل سکے گی۔ میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، آگے تم جانو تمہارا کام۔“

عدی نے مسلمانوں کی قوت و طاقت اور بہادری کا ذکر تفصیل سے کیا اور انہیں

سمجھایا کہ ابو بکرؓ نے اپنے تمام مخالفین کو حرف غلط کی طرح مٹا دینے کا تہیہ کر لیا ہے اس لیے تم اصرار سے باز آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔

عدی کی باتوں پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی کیونکہ وہ لوگ مشاہدہ کر چکے تھے کہ ابو بکرؓ نے اسلامی لشکر کے مدینہ سے سینکڑوں میل دور سرحد روم پر ہونے کے باوجود عیسٰی، ذبیان اور ان کے مددگار قبائل کو بری طرح شکست دی تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خالد بن ولید بہادری اور تندہی و سختی میں ضرب المثل ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کسی صورت بھی نہ کر سکیں گے۔

بنی طئی کا دوبارہ قبول اسلام:

عدی کی یہ باتیں سن کر بنو طئی نے باہم مشورہ کیا اور بالآخر طے پایا کہ عدی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور انہیں دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دینے سے ان کا مقصد ذاتی فائدہ حاصل کرنا نہیں بلکہ محض اپنی قوم کی خیر خواہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عدی سے کہا:

”ہم آپ کا مشورہ قبول کرتے ہیں۔ آپ خالد بن ولید کے پاس جائیں اور انہیں ہم پر حملہ کرنے سے روک دیں۔ اس عرصے میں ہم اپنے ان بھائیوں کو بلانے کی کوشش کریں گے جو بزاخہ میں طلحہ کے لشکر میں موجود ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے، اگر ہم نے کھلم کھلا طلحہ کی مخالفت کی تو وہ ہمارے ان بھائیوں کو قتل کرادے گا۔“

عدی اپنی قوم کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ وہ فی الفور سخ پھینچے اور خالدؓ

سے جا کر کہا:

”آپ تین روز تک ٹھہر جائیں۔ اس عرصے میں آپ کے پاس پانچ سو بہادر جمع ہو جائیں گے جو دشمن کے مقابلے کے لیے بے حد مفید ثابت ہوں گے۔ تین روز کا یہ انتظار اس امر سے بہتر ہے کہ آپ انہیں آگ میں دھکیل دیں اور خود ان کے جلنے کا تماشا دیکھیں۔“

خالد بن ولید سے کوئی بات مخفی نہ تھی۔ وہ جنگی حالات سے پوری طرح باخبر تھے اور جانتے تھے کہ اگر طئی کے آدمی طلحہ کا ساتھ چھوڑ گئے تو اس کی قوت و طاقت میں معتد بہ کمی واقع ہو جائے گی اور یہ بات مسلمانوں کے لیے بے حد مفید ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے بنی طئی کی جانب کوچ کرنے کا ارادہ تین روز کے لیے ملتوی کر دیا۔ عدی دوبارہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ قبیلے کے لوگوں نے طلحہ کے لشکر میں اپنے آدمیوں کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ فوراً واپس آ جائیں کیونکہ مسلمانوں نے طلحہ کے لشکر پر حملہ کرنے سے پہلے ان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا ہے اس لیے وہ آئیں اور اس حملے کو روکیں۔

یہ پیغام پہنچنے پر طلحہ کو مطلق شبہ نہ ہوا اور اس نے بنی طئی کے لوگوں کو بڑی خوشی سے اپنے قبیلے کی طرف واپس جانے کی اجازت دے دی۔ قبیلے میں پہنچ کر ان کی بات چیت اپنے آدمیوں سے ہوئی اور بہت کچھ بحث و تمحیص کے بعد انہوں نے بھی عدی کی رائے سے اتفاق کر لیا چنانچہ تمام لوگ دوبارہ اسلام قبول کر کے عدی کے ہمراہ خالد کے پاس پہنچ گئے۔

اب خالد نے انس کا قصد کیا کیونکہ ان کا ارادہ وہاں جا کر قبیلہ جدیلہ سے جنگ کرنے کا تھا۔ عدی نے پھر مداخلت کی اور کہا:

”قبیلہ طئی ایک پرندے کے مانند ہے اور جدیلہ قبیلہ طئی کا ایک پر ہے۔

آپ مجھے کچھ روز کی مہلت دیں۔ شاید اللہ جدیلہ کو بھی اسی طرح بچا

لے۔ جس طرح غوث کو بچایا ہے۔“

خالد نے بڑی خوشی سے عدی کی درخواست منظور کر لی اور انہیں جدیلہ کی طرف

جانے کی اجازت دے دی۔ وہ وہاں گئے اور سمجھا بجھا کر انہیں بھی دوبارہ قبول اسلام پر

آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ جدیلہ کے ایک ہزار سوار لے کر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ مورخین

عدی کے اس کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قبیلہ طئی نے عدی جیسا مدبر، عقل مند

اور بابرکت انسان آج تک پیدا نہیں کیا، وہ اس قبیلے کے بہترین فرد تھے۔

مقابلے کے لیے طلیحہ کا اصرار:

طئی اور جدیلہ کے دوبارہ قبول اسلام کی خبریں طلیحہ کو بڑا خہ میں ملیں۔ یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سن کر اسے کس قدر گھبراہٹ ہوئی اور کس طرح اس کے سب عزائم پر اوس پڑ گئی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ طلیحہ تو شاید اس ارادے سے باز بھی آ جاتا لیکن عیینہ بن حصن کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ عیینہ کو جو سات سو فزاریوں کے ساتھ طلیحہ کے لشکر میں موجود تھا، ابو بکرؓ سے سخت دشمنی تھی اور وہ مدینہ کی حکومت پر کاری ضرب لگانا چاہتا تھا۔

عیینہ وہی شخص ہے جو غزوہ احزاب کے موقع پر بنی فزارہ کا سردار تھا۔ اس غزوے کے دوران میں جب کفار کے تین لشکروں نے بنو قریظہ سے مل کر مدینہ پر زبردست حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو ان میں سے ایک لشکر کا سپہ سالار عیینہ تھا۔ غزوہ احزاب میں کفار کی شکست کے بعد بھی اس نے مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا لیکن رسول اللہؐ نے شہر سے نکل کر اس حملے کو روکا اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ غزوہ ذی قرد کہلاتا ہے۔ گو بعد میں حالات سے مجبور ہو کر اسے اسلام قبول کرنا پڑا لیکن اس کا دل بدستور اسلام کے خلاف بغض و عداوت سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ رسول اللہؐ کی وفات کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ابو بکرؓ کی حکومت کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے طلیحہ، طئی اور جدیلہ کی جماعت اور ایک کثیر فوج سے محروم ہونے کے باوجود اپنی نبوت سے نہ پھر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو عیینہ اس کا دشمن بن جائے گا اور ارد گرد کے قبائل کو اس کے خلاف بھڑکا کر اس کی زندگی خطرے میں ڈال دے گا۔ اس لیے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ بدستور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرتا رہے اور منتظر رہے کہ آئندہ کیا وقوع میں آتا ہے۔

طلیحہ کے خلاف پیش قدمی:

قبیلہ طئی کی دونوں شاخوں کو ساتھ ملانے کے بعد خالدؓ نے طلیحہ کے خلاف پیش

قد می شروع کر دی اور عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اقرم انصاریؓ کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے لشکر سے آگے بھیجا۔ یہ دونوں عرب کے معزز ترین فرد اور بہادری میں ضرب المثل تھے۔ راستے میں ان دونوں کو طلحہ کا بھائی حبال مل گیا۔ انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ جب طلحہ کو بھائی کے قتل کی خبر پہنچی تو وہ اپنے دوسرے بھائی سلمہ کو ساتھ لے کر ان دونوں کی تلاش میں نکلا۔ اور بالآخر انہیں پکڑ لیا۔ سلمہ نے ثابت کو تو مقابلے کی مہلت ہی نہ دی اور فوراً شہید کر ڈالا لیکن عکاشہؓ نہایت جواں مردی سے طلحہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ طلحہ کو مجبوراً اپنے بھائی سلمہ سے مدد لینا پڑی۔ ان دونوں نے مل کر عکاشہ کو بھی شہید کر دیا اور اپنے کیمپ کو لوٹ گئے۔

مسلمانوں میں اضطراب:

خالد بن ولید لشکر لیے آگے بڑھے چلے آ رہے تھے کہ لوگوں نے ان دونوں شہیدوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی دیکھیں۔ اسی سے ان میں سخت ہيجان برپا ہو گیا۔ خالد نے یہی مناسب سمجھا کہ سردست دشمن کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے ہيجان میں کمی ہو جائے اور وہ اپنی فوج کو بیش از بیش منظم کر کے زیادہ کامیابی سے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ وہ لشکر لے کر بنی طئی کی جانب لوٹ آئے اور عدی کی مدد سے لشکر کی تعداد میں مزید اضافے کی تدابیر شروع کر دیں۔ جب مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ ان کی تعداد اور قوت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ خالد انہیں لے کر بزانہ پہنچے۔

بنی طئی کا اظہار معذرت:

قیس اور بنو اسد طلحہ کے ہمراہ مسلمانوں سے لڑائی کے لیے جمع تھے۔ بنی طئی کے کچھ لوگوں نے خالد سے درخواست کی کہ ہمیں بنی اسد کے مقابلے سے باز رکھا جائے کیونکہ وہ ہمارے حلیف ہیں البتہ قیس کے مقابلے میں ہم آپ کی ہر طرح امداد کر سکتے ہیں۔ خالد

یہ کامل ابن اشیر کی روایت ہے لیکن طبری اور قاموس میں مذکور ہے کہ حبال، سلمہ بن خویلد کا بیٹا تھا یعنی طلحہ کا بھائی نہیں بھتیجا تھا۔

نے فرمایا:

”قیس بھی شان و شوکت اور قوت و طاقت میں بنو اسد سے کم نہیں لیکن میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم کسی قبیلے سے چاہے لڑو چاہے نہ لڑو۔“

مگر عدی نے مومنانہ جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا:
 ”واللہ! حلیف ہونے کے باوجود مجھے کوئی چیز بنی اسد کا مقابلہ کرنے سے باز نہ رکھ سکے گی۔ جب انہوں نے دشمنان اسلام کا ساتھ دیا تو وہ ہمارے حلیف بھی نہ رہے۔ واللہ! اگر میرا اپنا خاندان بھی اسلام کی مخالفت کرے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔“
 یہ سن کر خالدؓ نے کہا:

”ایک فریق سے لڑنا بھی جہاد ہی ہے۔ تم اپنے اہل قبیلہ کی رائے کی مخالفت نہ کرو بلکہ وہی کرو جس میں تمہارے قبیلے والوں کی خوشی ہو اور اسی قبیلے سے لڑائی کرو جس سے تمہارے قبیلے والے لڑنا چاہیں۔“
 چنانچہ بنو طیّی قبیلہ قیس سے لڑے اور باقی مسلمان بنو اسد سے۔

آغاز جنگ اور فرارِ طلحہ:

طلحہ کے لشکر کی کمان عیینہ بن حصن کر رہا تھا۔ خود طلحہ خیمے میں کھیل اوڑھے لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب لڑائی کا بازار خوب گرم ہو گیا اور عیینہ کو خالد اور مسلمانوں کی قوت کا پتا چلا تو وہ طلحہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا:
 ”کیا جبریل آپ کے پاس کوئی وحی لائے؟“

اس نے کہا ”ابھی نہیں۔“

یہ سن کر وہ واپس چلا گیا اور لڑنے میں مشغول ہو گیا۔ جب لڑائی نے مزید شدت اختیار کی اور مسلمانوں کا دباؤ مرتدین پر برابر بڑھتا چلا گیا تو وہ پھر طلحہ کے پاس آیا اور پوچھا:

”اب بھی جبریل کوئی وحی لائے یا نہیں؟“

طلیحہ نے وہی جواب دیا کہ ابھی نہیں۔ عیینہ نے جھنجھلا کر پوچھا:

”آخر کب تک آئے گی؟“

طلیحہ نے کہا:

”میری عرض تو ملاءِ اعلیٰ تک پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھو کیا جواب ملتا

ہے؟“

اس پر وہ پھر میدانِ جنگ میں آ گیا اور لڑنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا

کہ خالدؓ نے اس کے لشکر کا محاصرہ کر لیا ہے اور اب شکست کوئی دم کی بات ہے تو وہ گھبراہٹ

میں پھر طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا:

”اب بھی کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں؟“

طلیحہ نے جواب دیا ”ہاں۔“

اس نے پوچھا۔ ”کیا؟“

طلیحہ نے جواب دیا۔ یہ وحی نازل ہوئی ہے: ”ان لك رحاً كرحاه و

حديثا لاتنساہ“ (تیرے پاس بھی ویسی ہی چکی ہے جیسی مسلمانوں

کے پاس ہے اور تیرا ذکر بھی ایسا ہے جسے تو کبھی نہ بھولے گا۔) ۱

یہ سن کر عیینہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا اور چیخ اٹھا:

قد علم الله ان سيكون حديثا لاتنساہ (بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ

مقریب ایسے واقعات پیش آئیں گے جنہیں تو کبھی نہ بھولے گا۔)

اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف آیا اور پکار کر کہا:

”اے بنو فزارہ! طلیحہ کذاب ہے۔ اسے چھوڑ دو اور بھاگ کر جانیں

بچاؤ۔“

یہ سن کر فزارہ تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ باقی لشکر طلیحہ کے گرد جمع ہو گیا اور پوچھا

اہل عرب جنگ کو چکی سے تعبیر کرتے تھے۔ طلیحہ کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں بھی ویسی ہی سخت جنگ درپیش

ہے جیسی مسلمانوں کو اور اس جنگ کے واقعات تمہیں کبھی نہ بھولیں گے۔

کہ اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ طلحہ نے پہلے سے اپنے لیے ایک گھوڑے اور اپنی بیوی نوار کے لیے ایک اونٹ کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب اس نے لوگوں کو اس پریشانی کی حالت میں دیکھا تو وہ کود کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنی بیوی کو بھی سوار کر کے یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا:

”جو شخص میری طرح اپنے اہل و عیال کو لے کر بھاگ سکے وہ بھاگ جائے۔“

طلحہ کا دوبارہ قبول اسلام:

اس طرح طلحہ کی طاقت و قوت جو اس نے ابو بکرؓ کے مقابلے میں جمع کی تھی، ملیا میٹ ہو گئی اور اس کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ بھاگ کر شام پہنچا اور وہاں بنو کلب میں سکونت اختیار کر لی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ان تمام قبائل نے جو اس سے پہلے اس کے حلقہ اطاعت میں شامل تھے، اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ بھی اسلام لے آیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ آیا۔ جب وہ مدینہ کے قریب سے گزرا تو بعض لوگوں نے ابو بکرؓ کو اطلاع دی۔ انہوں نے فرمایا:

”اب میں اس کے خلاف کیا کر سکتا ہوں۔ اس سے تعرض نہ کرو

کیونکہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے۔“

جب عمرؓ خلیفہ ہوئے تو طلحہ ان کی بیعت کرنے کے لیے آیا۔ اسے دیکھ کر عمرؓ نے

فرمایا:

”تو عکاشہ اور ثابت کا قاتل ہے۔ میرا دل تیری طرف سے کبھی

صاف نہیں ہو سکتا۔“

اس نے جواب دیا:

”امیر المؤمنین! آپ کو ان دونوں کی طرف سے کیا فکر ہے؟ اللہ نے

انہیں میرے ہاتھ سے عزت کے بلند مقام تک پہنچا دیا (شہادت

دی) لیکن مجھے بھی ان کے ہاتھوں سے ذلیل نہ کرایا۔“

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے اس کی بیعت لے لی۔ پھر فرمایا:

”اے دغا باز! تیری کہانت کا کیا بنا؟“

اس نے جواب دیا:

”امیر المومنین! وہ ختم ہو گئی۔ ہاں، کبھی کبھی ایک دو پھونک میں مار لیتا

ہوں۔“

عمرؓ سے رخصت ہو کر وہ اپنی قوم میں چلا آیا اور وہیں مقیم ہو گیا۔ عراق

کی جنگوں میں اس نے ایرانیوں کے مقابلے میں کارہائے نمایاں

انجام دیئے۔

عیسینہ بن حصن میدان جنگ سے فرار ہو کر اپنی قوم بنو فزارہ میں پہنچ گیا

اور اعلان کر دیا کہ طلحہ کذاب اور بزدل ہے اور اپنے لوگوں کو مسلمانوں

کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنی بیوی کے ہمراہ فرار ہو گیا ہے۔

دوسرے مرتد قبائل کا استیصال:

خالدؓ نے چشمہ بزاخہ پر کامل ایک مہینہ قیام فرمایا۔ اس دوران میں وہ ان بقیہ

قبائل کی سرکوبی میں مصروف رہے جو ابھی تک ارتداد اور سرکشی پر قائم تھے اور ام زمل سے مل

کر مسلمانوں کے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو چن چن کر قتل

کر دیا جن کے ہاتھ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے آلودہ تھے اور مرتدین کے متعدد

سربراہ آوردہ اشخاص کو، جو اسلامی فوجوں کے مقابلے کو نکلے تھے، گرفتار کر کے مدینہ بھجوا دیا۔

ان لوگوں میں سے مشہور شخص یہ تھے! قرہ بن ہبیرہ، فجاءہ السلمی، ابو شجرہ بن عبد العزیٰ السلمی

وغیرہ۔ یہ لوگ اس وقت تک حالت اسیری میں رہے جب تک ابو بکرؓ نے ان کے متعلق

فیصلہ نہ سنا دیا۔

بقیہ مرتد قبائل:

ام زمل اور طلحہ کے لشکر کے مفروضین کا حال بیان کرنے سے قبل اس سوال کا

جواب دینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کا کیا بنا جو طلحہ کی قوم، بنی اسد کی طرح دوبارہ اسلام میں داخل نہ ہوئے؟ کیا ان کی عقل یہ تقاضا نہ کرتی تھی کہ جب طلحہ کا کذب ان پر ظاہر ہو گیا تھا تو وہ محمد رسول اللہؐ کی رسالت پر ایمان لے آتے؟ بات یہ ہے کہ اگرچہ سارے عرب کو رسول اللہؐ کے سامنے مجبوراً سر تسلیم خم کرنا پڑا لیکن درحقیقت وہ لوگ صدق دل سے آپ پر ایمان نہ لائے تھے۔ ان میں بہت سے لوگوں کو بتوں کی عبادت فضول معلوم ہوئی تو وہ ان کی پرستش چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ رسول اللہؐ نے ان پر جو دوسرے فرائض عائد کر دیئے وہ ان کے لیے بڑے تکلیف دہ تھے اور ان کی آزاد طبائع ان فرائض کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھیں۔ اسی لیے انہوں نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ جب ابو بکرؓ کا زمانہ آیا تو ان لوگوں نے اداۓ زکوٰۃ سے انکار کر دیا کیونکہ مال کی محبت ان کے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ رچی ہوئی تھی۔ اسی طرح وہ نماز اور دوسرے فرائض اسلام سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ طلحہ، مسیلہ اور دوسرے مدعیان نبوت کی پیروی انہوں نے اسی لیے اختیار کی تھی کہ اپنی گردنوں سے وہ طوق اتار کر پھینک سکیں جو فرائض اور ارکان اسلام کی شکل میں ان کی گردنوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ چنانچہ طلحہ کے فرار ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اسلامی حکومت کی اطاعت کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اور دوسری جگہ جا کر خالد سے دوبارہ جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی کیونکہ ان کا خیال تھا، وہ بالآخر ضرور فتح یاب ہوں گے اور ابو بکرؓ کو مجبور کر سکیں گے کہ فرائض اسلام کی بجا آوری میں ان پر اتنی سختی نہ کریں جتنی وہ اب کر رہے ہیں۔

لڑائی کے لیے دوبارہ تیار ہو جانے کا ایک سبب اور بھی تھا اور اس کا تعلق بدوؤں کی نفسیات سے ہے: ان قبائل اور مہاجرین و انصار کے درمیان پرانے جھگڑے چلے آ رہے تھے جب رسول اللہؐ نے ان پر غلبہ پالیا تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ کے احکام کی بجا آوری پر بظاہر رضامند ہو گئے۔ لیکن یہ سب کچھ انہوں نے بحالت مجبوری، اپنی مرضی کے خلاف، محض اس لیے کیا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہو چکے تھے۔ جو نہیں انہیں کچھ مہلت اور آزادی ملی وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک لمحہ بھی سوچ بچار میں ضائع نہ کیا۔ انہیں جنگ خندق کا واقعہ یاد تھا۔ جب قریب تھا کہ مدینہ اپنے

دروازے کفار کے لیے کھول دیتا اگر ایک سخت آندھی کافروں کے تمام منصوبے تہ و بالا کر کے نہ رکھ دیتی۔

بظاہر مسلمان ہونے کے بعد یہ لوگ چپکے ہو رہے اور دیکھتے رہے کہ کیا ہونے والا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہؐ کی وفات ہو گئی۔ پھر کیا تھا، یہ لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے سارے ملک میں فساد برپا کر دیا۔ جب تک اسلامی فوجیں ان کی سرکوبی کے لیے پہنچیں انہوں نے اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر اپنی جمعیت کو مضبوط کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ قسمت ضرور ان کا ساتھ دے گی اور وہ دوبارہ اس آزادی و خود مختاری سے بہرہ ور ہو سکیں گے جس سے رسول اللہؐ کے عہد میں محروم ہو چکے تھے۔ اگر تمام قبائل اپنے اس موقف پر مضبوطی سے قائم رہتے تو یقیناً خالدؓ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ آسانی سے مرتدین پر فتح نہ پا سکتے لیکن عدی بن حاتم کی کوششوں سے قبیلہ طسّی کی دونوں شاخیں طلحہ سے الگ ہو کر مسلمانوں سے مل گئیں۔ یہ دیکھ کر طلحہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہی گھبراہٹ اور پریشانی اس کی شکست اور فرار کا موجب بنی۔

طلحہ کے فرار ہونے کے بعد عینہ بھی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ رہا۔ اس دوران میں بنو عامر، جو طلحہ کے طرف داروں میں سے تھے اور بزاخہ سے کچھ فاصلے پر آباد تھے، اس انتظار میں رہے کہ دیکھیں کس فریق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے؟ جب خالدؓ نے بنو اسد اور قیس کو شکست فاش دے دی تو بنو عامر نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ اب ان کے لیے مسلمان ہو جانا ہی بہتر رہے گا، چنانچہ وہ بھی اسد، غطفان اور طسّی کی طرح خالدؓ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔

قاتلوں پر خالدؓ کی سختی:

خالدؓ نے غطفان، ہوازن، سلیم اور طسّی کے لوگوں کی جان بخشی اس شرط پر کی تھی کہ وہ ان کو ان کے حوالے کر دیں۔ جنہوں نے ان غریب مسلمانوں کو قتل کیا تھا جو بزمانہ ارتداد ان کے چنگل میں پھنس گئے تھے۔ چنانچہ جب یہ لوگ ان کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے ان کے سرداروں کے سوا باقی سب کو قتل کر دیا

اور ان کی لاشیں آگ میں جلا دیں۔ اس کے بعد قرہ بن ہبیرہ، عیینہ بن حصن اور دوسرے سرداروں کو بیڑیاں پہنا کر ابو بکرؓ کی خدمت میں روانہ کر دیا اور ساتھ ہی حسب ذیل مضمون کا ایک خط بھی ارسال کیا:

”بنو عامر ارداد کے بعد اسلام لے آئے لیکن میں نے ان کی جان بخشی اس وقت تک نہ کی جب تک انہوں نے ان لوگوں کو میرے حوالے نہ کر دیا۔ جنہوں نے غریب و بے کس مسلمانوں پر سخت ظلم ڈھائے تھے۔ میں نے ایسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس خط کے ساتھ قرہ بن ہبیرہ اور اس کے ساتھیوں کو روانہ کر رہا ہوں۔“

خالد کی روش پر ابو بکرؓ کی خوشنودی:

خالدؓ نے جن لوگوں کو قتل مسلمانوں کی پاداش میں تلوار کے گھاٹ اتار دیا تھا ان کی طرف سے ابو بکرؓ کے دل میں قطعاً رحم پیدا نہ ہوا بلکہ انہوں نے ان دشمنان اسلام اور دشمنان رسولؐ کو اس سزا کا قرار واقعی مستحق سمجھا اور خالدؓ کو جواب میں لکھا:

”اللہ تمہیں اپنے انعام سے بہرہ ور کرتا رہے۔ میری یہ نصیحت ہے کہ تم اپنے معاملات میں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہمیشہ تقویٰ کی راہ پر چلو کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے اور اس کے بندوں پر احسان کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر کام کرو اور کبھی سستی نہ برتو۔ ہر شخص کو، جس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہو، قابو پانے کے بعد قتل کر دو۔ دوسرے لوگوں کے متعلق بھی، جنہوں نے اللہ سے دشمنی اور سرکشی اختیار کر کے اس کے احکام کی خلاف ورزی کی اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ ان کا قتل کر دینا مناسب ہے تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے۔“

ابو بکرؓ کا یہ خط خالدؓ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مرتدین کو مرعوب کرنے کی پالیسی پر اور زور شور سے عمل شروع کر دیا۔ چنانچہ ایک مہینے تک وہ بزاخہ کے چشمے پر مقیم رہ کر

مرتدین کا قافیہ تنگ کرتے رہے۔

مرتد قیدیوں کو ابو بکرؓ کی معافی:

لیکن خالدؓ کے برعکس ابو بکرؓ نے ان قیدیوں پر سختی نہ کی جو میدان جنگ سے پابجولاں مدینہ پہنچے تھے۔ عیینہ بن حصن مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا اور طلحہ کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں سے جنگ کر چکا تھا۔ وہ قرہ بن ہبیرہ کے ساتھ قید ہو کر مدینہ آیا۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ مدینہ کے لڑکے اسے کھجور کی شاخوں سے مارتے اور کہتے تھے:

”اے اللہ کے دشمن! تو ہی ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا تھا؟“

عیینہ جواب دیتا:

”میں تو کبھی اللہ پر ایمان نہیں لایا۔“

لیکن اس کے باوجود ابو بکرؓ نے اس کی جاں بخشی کر دی اور اسے کچھ نہ کہا۔

قرہ بن ہبیرہ:

قرہ بن ہبیرہ بنو عامر سے تعلق رکھتا تھا۔ رسول اللہؐ کی وفات کے بعد عمرو بن عاص عمان سے مدینہ آتے ہوئے راستے میں اس کے پاس ٹھہرے تھے۔ اس وقت بنو عامر ارتداد کے لیے پرتول رہے تھے۔ جب عمرو بن عاص نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو قرہ نے علیحدگی میں ان سے مل کر کہا:

”عرب تمہیں تاوان (زکوٰۃ) دینے پر ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ اگر تم

ان کے اموال انہیں کے پاس رہنے دو اور ان پر زکوٰۃ عائد نہ کرو تو وہ

تمہاری باتیں ماننے اور اطاعت قبول کرنے پر رضامند ہو جائیں

گے۔ لیکن اگر تم نے انکار کیا تو پھر وہ ضرور تمہارے خلاف اٹھ

کھڑے ہوں گے۔“

یہ سن کر عمرو بن عاص نے جواب دیا:

”اے قرہ! کیا تو کافر ہو گیا ہے اور ہمیں عربوں کا خوف دلاتا ہے؟“

جب قرہ اسیر ہو کر مدینہ آیا اور ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو اس نے کہا:

”اے خلیفہ رسول اللہ! میں تو مسلمان ہوں اور میرے اسلام پر عمرو

بن عاص گواہ ہیں۔ وہ مدینہ آتے ہوئے ہمارے قبیلے میں سے

گزرے تھے۔ میں نے انہیں اپنے پاس ٹھہرایا تھا اور بڑی خاطر

تواضع کی تھی۔“

ابو بکرؓ نے عمرو بن عاص کو بلایا اور ان سے قرہ کی باتوں کی تصدیق چاہی۔ عمرو بن

عاص نے سارا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ جب وہ زکوٰۃ کی بات پر پہنچے تو قرہ کہنے لگا:

”عمرو بن عاص اس بات کو جانے دو۔“

عمرو بن عاص نے کہا:

”کیوں؟ واللہ! میں تو سارا حال بیان کروں گا۔“

جب وہ بات ختم کر چکے تو ابو بکرؓ مسکرائے اور قرہ کی جان بخشی کر دی۔

علقمہ بن علاشہ:

عفو و درگزر کی یہ پالیسی ابو بکرؓ کی جانب سے کمزوری کی آئینہ دار نہ تھی بلکہ اس

سے صرف وہ جوش و خروش اس انداز سے سرد کرنا مقصود تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ

ہو۔ لیکن جہاں معاملہ رسول اللہؐ کی رسالت تک پہنچتا تھا وہاں ابو بکرؓ کسی قسم کی نرمی ہرگز گوارا

نہ کر سکتے تھے۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے چند مثالیں کافی ہوں گی۔

بنی کلب کے ایک شخص علقمہ بن علاشہ نے رسول اللہؐ کے زمانے میں اسلام قبول

کیا تھا لیکن آپؐ کی زندگی ہی میں مرتد ہو گیا اور شام چلا گیا۔ آپؐ کی وفات کے بعد وہ

اپنے قبیلے میں واپس آیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ ابو بکرؓ نے خبر

پا کر قعقاع بن عمروؓ کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا لیکن مقابلے کی نوبت آنے سے پیشتر ہی

علقمہ فرار ہو گیا۔ اس کی بیوی، بیٹیاں اور دوسرے ساتھی اسلام لے آئے اور اس کے ساتھ

جانے سے انکار کر دیا۔ بعد میں علقمہ بھی تائب ہو کر ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں

نے اس کی توبہ قبول کر لی اور جان بخشی کر دی کیونکہ اس نے نہ مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور نہ کسی مسلمان کو قتل کیا تھا۔

فجاء ایاس:

لیکن اس کے مقابل انہوں نے فجاء ایاس بن عبد یلیل کے عذرات قبول نہ کیے اور نہ اس کی جان بخشی ہی کی۔ یہ شخص ابو بکرؓ کے پاس آیا اور ان سے عرض کی کہ آپ مجھے کچھ ہتھیار دیجیے، میں جس مرتد قبیلے سے آپ چاہیں گے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اسے ہتھیار دے کر ایک قبیلے سے لڑنے کا حکم دیا۔ لیکن فجاء نے وہ ہتھیار قبیلہ سلیم، عامر اور ہوازن کے مسلمانوں اور مرتدین دونوں کے خلاف استعمال کیے اور کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اس پر ابو بکرؓ نے طریفہ بن حجاز کو ایک دستے کے ہمراہ فجاء کی جانب بھیجا۔ لڑائی میں فجاء گرفتار ہوا اور طریفہ اسے اپنے ہمراہ مدینہ لے آئے۔ ابو بکرؓ نے اسے جلا دینے کا حکم دیا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر فجاء مسلمانوں کو قتل نہ کرتا تو اسے اتنی ہولناک سزا نہ دی جاتی جس پر بعد میں ابو بکرؓ کو افسوس بھی ہوا۔

ابو شجرہ:

اسی ضمن میں ابو شجرہ بن عبد العزیٰ کا واقعہ بیان کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ واقعہ عیینہ، قرہ اور علقمہ کے واقعات سے بڑی حد تک مشابہت رکھتا ہے۔ ابو شجرہ، مشہور شاعرہ خنسا کا بیٹا تھا جس نے اپنے بھائی صحر کی یاد میں بڑے دل دوز مرثیے کہے ہیں۔ ابو شجرہ اپنی والدہ کی طرح شاعر تھا۔ وہ مرتدین سے مل گیا اور ایسے شعر کہنے لگا جن میں اپنے ساتھیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جاتا تھا اور ان سے لڑنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ چنانچہ منجملہ اور اشعار کے اس کا ایک شعر یہ بھی تھا:

فرویت رمحی من کتیبة خالد

وانی لارجو بعدها ان اعمر

(میں نے اپنا نیزہ خالدؓ کے لشکر کے خون سے سیراب کر دیا ہے اور)

مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی میں اسی طرح کرتا رہوں گا۔)

لیکن جب اس نے دیکھا کہ خالد کے خلاف اس کی ترغیب و تحریض بار آور ثابت نہیں ہوئی اور لوگ برابر اسلام قبول کر رہے ہیں تو وہ بھی اسلام لے آیا۔ ابو بکرؓ نے اس کی بھی جان بخشی کر دی اور اسے معاف کر دیا۔

عمرؓ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ ابو شجرہ ان کے پاس آیا۔ وہ اس وقت زکوٰۃ کا مال غرباء میں تقسیم کر رہے تھے۔ ابو شجرہ نے کہا:

”امیر المؤمنین! مجھے بھی کچھ دیکھے کیونکہ میں حاجت مند ہوں۔“

عمرؓ نے پوچھا: ”تو کون ہے؟“

جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ابو شجرہ ہے تو فرمایا:

”اے اللہ کے دشمن! کیا تو وہی نہیں جس نے کہا تھا:

فرویت رمحی من کتیبة خالد

وانی لارجو بعدها ان اعمر

اس کے بعد انہوں نے اسے درے مارنے کا حکم دیا مگر وہ بھاگ کر اونٹنی پر سوار

ہو کر اپنی قوم بنو سلیم میں آ گیا۔

ام زمل کا خروج:

جب لوگوں میں یہ خبریں مشہور ہوئیں کہ ابو بکرؓ بالعموم ایسے لوگوں کے متعلق عفو و درگزر سے کام لے رہے ہیں جو مرتد ہونے کے بعد اسلام لے آتے ہیں تو ان قبائل کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا جنہوں نے طلحہ کی مدد کی تھی اور وہ بھی رفتہ رفتہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن غطفان، طئی، سلیم اور ہوازن کے بعض لوگ جنہوں نے بزاخہ میں خالدؓ کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، بھاگ کر ام زمل سلمیٰ بنت مالک کے پاس پہنچے اور وعدہ کیا کہ اس کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور جانیں قربان کر دیں گے لیکن پیچھے نہ ہٹیں گے۔ لاریب یہ مفزورین اتنے آتش زیر پا تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کا جوش و خروش نہ ان کی عبرت ناک شکست ٹھنڈا کر سکی اور نہ ابو بکرؓ کا عفو و درگزر ان پر کچھ اثر کر سکا اور وہ ایک بار

پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اگر مسلمانوں سے ان کی نفرت اور ان کے خلاف سخت غیظ و غضب کا جذبہ ان کے دلوں میں موجزن نہ ہوتا تو طلحہ کے بزدلانہ فرار اور اس کے کذب و افتراء کا حال ظاہر ہو جانے کے بعد وہ ضرور خالدؓ کی اطاعت قبول کر لیتے۔ ام زمل بھی مسلمانوں سے خار کھائے بیٹھی تھی اور اس کے دل پر ایک ایسا چرکا لگا ہوا تھا جو مرور زمانہ کے باوجود مندمل نہ ہو سکا تھا۔ اس لیے طبعی امر تھا کہ بزاخہ کا شکست خوردہ لشکر ام زمل کے پاس جمع ہوتا اور اپنے مقتولین کا انتقام لینے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرتا۔

ام زمل ام قرفہ کی بیٹی تھی جو رسول اللہؐ کے زمانے میں قتل کر دی گئی تھی۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ زید بن حارثہ بنی فزارہ کی جانب گئے۔ وادی القرئی میں ان کا سامنا بنی فزارہ کے چند لوگوں سے ہوا۔ انہوں نے زید کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور خود انہیں گہرا زخم پہنچایا۔ وہ اسی حالت میں مدینہ پہنچے۔ ان کے زخم مندمل ہونے پر رسول اللہؐ نے انہیں ایک لشکر کے ہمراہ دوبارہ بنی فزارہ کی جانب روانہ فرمایا۔ اس مرتبہ زید کے لشکر کو کامیابی ہوئی۔ بنی فزارہ کے اکثر آدمی قتل یا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ ان قیدیوں میں ام قرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ چونکہ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر انہیں مقابلے کے لیے تیار کیا تھا اس لیے اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا اور اس کی بیٹی ام زمل کو لونڈی بنالیا گیا۔ یہ عائشہ صدیقہؓ کے حصے میں آئی لیکن انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ کچھ عرصے تک تو یہ عائشہؓ ہی کے پاس رہی پھر اپنے قبیلے میں واپس چلی آئی۔ والدہ کے قتل نے اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکا دی تھی چنانچہ وہ اس انتظار میں رہی کہ موقع ملنے پر مسلمانوں سے اس قتل کا بدلہ لے۔ فتنہ ارتداد نے اس کے لیے یہ موقع جلد بہم پہنچا دیا اور وہ بزاخہ کے ہزیمت خوردہ لشکر کو ساتھ لے کر مسلمانوں کے بالمقابل میدان میں نکل آئی۔

اس کی والدہ ام قرفہ اپنی قوم میں بڑی عزت اور شان کی مالک تھی۔ وہ عیینہ بن حصن کی چچی اور مالک بن حذیفہ کی بیوی تھی۔ اس کے بیٹوں کا شمار بھی بنی فزارہ کے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کے پاس ایک جنگی اونٹ تھا جس پر سوار ہو کر وہ دوسرے قبائل سے لڑنے کے لیے اپنی قوم کے آگے چلا کرتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد یہ اونٹ ام زمل

کے حصے میں آیا۔

عزت و افتخار میں ام زمل بھی اپنی والدہ کی ہم پلہ تھی اور اس کا مرتبہ اپنی قوم میں وہی تھا جو اس کی والدہ کا تھا۔ جب ابو بکرؓ اور خالدؓ کے مقابلے میں شکست کھانے والے مفرورین ام زمل کے گرد جمع ہوئے تو اس نے ان کی ہمت بندھا کر انہیں ایک بار پھر خالدؓ کی فوج سے ٹکر لینے کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس کے گرد جمع ہوتے گئے اور اس کی قوت و طاقت میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ جب خالدؓ کو اس کا پتا چلا تو وہ بڑا خدشہ سے اس لشکر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔

ام زمل کی شکست:

دونوں فوجیں میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئیں اور لڑائی شروع ہو گئی۔ ام زمل اونٹ پر سوار اشتعال انگیز تقریروں سے برابر فوج کو جوش دلا رہی تھی۔ مرتدین بھی بڑی بہادری سے جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ ام زمل کے اونٹ کے گرد سو اونٹ اور تھے۔ جن پر بڑے بڑے بہادر سوار تھے اور وہ بڑی پامردی سے ام زمل کی حفاظت کر رہے تھے۔ مسلمان شہسواروں نے ام زمل کے پاس پہنچنے کی سر توڑ کوشش کی لیکن اس کے محافظوں نے ہر بار انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ پورے سو آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد مسلمان ام زمل کے اونٹ کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے اونٹ کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور ام زمل کو نیچے گرا کر قتل کر ڈالا۔ اس کے ساتھیوں نے جب اس کے اونٹ کو گرتے اور اسے قتل ہوتے دیکھا تو ان کی ہمت نے جواب دے دیا اور بدحواس ہو کر بے تحاشا میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ اس طرح اس فتنے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور جزیرہ نمائے عرب کے شمال مشرقی حصے میں ارتداد کا خاتمہ ہو گیا۔

جنوبی حصے کے مرتدین:

ابو بکرؓ نے جس اولوالعزمی سے شمال مشرقی عرب کی بغاوتوں کو فرو کیا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ باقی حصے اس سے عبرت حاصل کرتے اور اسلامی حکومت کی مخالفت سے باز آ

جاتے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ابو بکرؓ کے بھیجے ہوئے لشکر انتہائی نامساعد حالات میں بھی
 دار الخلافہ سے سینکڑوں میل دور جانے اور دشمن کو زیر کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔ انہیں
 خالد بن ولید کی فتح یابی اور طلحہ کے انجام کی بھی تمام خبریں معلوم ہو چکی تھیں۔ لیکن ان سب
 امور کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں ان
 کا خیال تھا کہ اگر قریش کا ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو دوسرے
 قبائل کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے۔ لیکن ان قبائل اور مدعیان نبوت نے یہ حقیقت فراموش کر
 دی تھی کہ رسول اللہؐ کا مقصد اولیں اپنی قوم کو توحید کی طرف بلانا تھا، اپنے لیے اقتدار حاصل
 کرنا اور کسی صلے یا انعام کا مطالبہ کرنا نہ تھا۔ توحید کی تبلیغ کے نتیجے میں تیس سال تک آپؐ کو
 سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ والوں نے آپؐ سے دشمنی کا برتاؤ کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ
 رکھی۔ آپؐ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آپؐ کو قتل کرنے کے مشورے کیے گئے اور بالآخر آپؐ کو مکہ
 سے نکل کر مدینہ کی جانب ہجرت کرنی پڑی۔ وہاں بھی مکہ والوں نے آپؐ کو پھین سے نہ
 بیٹھنے دیا اور بار بار مدینہ پر فوج کشی کی۔ انتہائی جدوجہد کے بعد آخر کار رسول اللہؐ کی مساعی
 بار آور ہوئیں اور عرب کثرت سے آپؐ کے حلقہ اطاعت میں داخل ہونے لگے۔ لیکن
 مدعیان نبوت کی نظروں سے یہ تمام حقائق اوجھل ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر محمدؐ اپنی
 قوم کی سخت مخالفت کے باوجود کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتے جب ان کی قوم
 پوری طرح ان کے ساتھ ہے۔ مگر انہیں یہ یاد نہ رہا کہ محمدؐ کو گوگوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے تھے
 اور ان مدعیان نبوت کا سارا کاروبار ہی کذب و افتراء کی بنیادوں پر قائم تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ
 اس حالت میں کیونکر کامیاب ہو سکتے تھے؟

شمالی حصے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ابو بکرؓ نے جنوبی حصے پر توجہ مبذول
 کی جہاں کے لوگ بدستور حالت ارتداد پر قائم تھے اور کسی طرح بھی اسلام قبول کرنے کو تیار
 نہ تھے۔ ان لوگوں سے عہدہ برآ ہونے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ابو بکرؓ نے خالدؓ
 کو بزانہ سے بطاح اور وہاں سے یمامہ جانے کا حکم دیا۔



آٹھواں باب

سجاح اور مالک بن نویرہ

بنو عامر اور ان کے مسکن:

عرب کے جنوبی حصے میں بنی تمیم کے قبائل بنی عامر کے قریب ہی آباد تھے۔ یہ قبائل مدینہ سے جانب شرق خلیج فارس تک پھلتے چلے گئے تھے اور شمال مشرق میں ان کی حدود دریائے فرات کے دہانے تک تھیں۔ بنو تمیم کو عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں قبائل عرب کے درمیان خاص مقام حاصل تھا۔ یہاں کے لوگ شجاعت اور سخاوت میں مشہور تھے اور شاعری اور فصاحت و بلاغت میں بھی یہ دوسرے قبائل سے کسی طرح کم نہ تھے۔ چنانچہ اب ایک تاریخ اور ادب کی کتابوں میں اس قبیلے کی شاخوں: بنی حنظلہ، دارم، بنی مالک اور بنی یربوع کے کارناموں کا ذکر محفوظ چلاتا ہے۔

ادائے زکوٰۃ سے انکار:

چونکہ یہ قبائل دریائے فرات اور خلیج فارس تک آباد تھے۔ اس لیے ایرانیوں سے بھی ان کا تعلق تھا۔ یہ لوگ زیادہ قبر پرست تھے اگرچہ ان میں سے بہت سے عیسائی بھی ہو گئے تھے۔ دوسرے قبائل کی طرح یہ بھی مسلمانوں کی بالادستی قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ اسی لیے جب رسول اللہ نے اپنے محصلین کو ان قبائل سے جزیہ وصول کرنے کی غرض سے بھیجا تو سب سے پہلے بنو تمیم نے جزیہ دینے سے انکار کیا اور بنو العنبر تو تلواریں اور نیزے لے کر محصل کا استقبال کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ نے عیینہ بن حصن کو ان کی طرف بھیجا جنہوں نے ان قبائل کو بزور مطیع کیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے

آئے۔ اس پر ان کا ایک وفد مدینہ آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت رسول اللہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے با آواز بلند اپنی شرافت، عزت اور حسب و نسب کا واسطہ دے کر اور جنگ حنین کے واقعات کا ذکر کر کے اپنے قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ رسول اللہ ان کی آوازیں سن کر باہر تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا ”ہم آپ سے فخر و مباہات میں مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔“ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خطیب ان کے خطیب سے زیادہ فصیح و بلیغ، مسلمانوں کا شاعر ان کے شاعر سے زیادہ سحر بیان اور مسلمانوں کی گفتگو ان کی گفتگو سے زیادہ شیریں ہے تو یہ لوگ اسلام لے آئے۔ رسول اللہ نے ان کے قیدی رہا کر دیئے اور یہ انہیں اپنے ہمراہ لے کر خوشی خوشی واپس چلے گئے۔

رسول اللہ نے بنی تمیم کی مختلف شاخوں کے لیے مختلف امیر مقرر فرمائے تھے۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا جو بنی یربوع کا سردار تھا۔ جب ان اعمال نے رسول اللہ کی خبر وفات سنی تو ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ آیا ابو بکرؓ کی خدمت میں زکوٰۃ بھیجی جائے یا خاموشی اختیار کی جائے۔ اس اختلاف نے یہاں تک شدت اختیار کی کہ آپس ہی میں سخت لڑائی ہونے لگی۔ ایک فریق مدینہ کا تسلط قبول کرنے کو تیار تھا لیکن دوسرے فریق کو اس سے انکار تھا اور وہ ابو بکرؓ کو زکوٰۃ بھیجنے پر آمادہ نہ تھا۔ مالک بن نویرہ موخر الذکر فریق سے تعلق رکھتا تھا۔

بنی تمیم میں سجاج کا ورود:

ابھی ان اعمال میں یہ اختلاف برپا ہی تھا کہ سجاج بنت حارث عراق کے علاقے لجزیرہ سے اپنے قبیلے تغلب کے ہمراہ وہاں پہنچی۔ تغلب کے علاوہ اس کے ساتھ ربیعہ، نمر، ایاد اور شبان کے لوگوں پر مشتمل ایک لشکر بھی تھا۔ سجاج اصل میں بنی تمیم کی شاخ بنو یربوع سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن اس کی نہیال عراق کے قبیلہ تغلب میں تھی۔ اس کی شادی بھی بنو تغلب ہی میں ہوئی تھی اور یہ وہیں رہتی تھی۔ یہ بڑی ذکی اور فہیم عورت تھی اور اسے کہانت کا دعویٰ بھی تھا۔ لوگوں کی قیادت اور رہبری کا فن اسے خوب آتا تھا۔ جب اسے رسول اللہ کی خبر وفات ملی تو اس نے نواحی قبائل کا دورہ کیا اور انہیں مدینہ پر بلانے کے لیے آمادہ

کرنے لگی۔

سجاح کے آنے کی غرض:

بعض مورخین کہتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ درست کہتے ہیں کہ سجاح کسی ذالچ اور کہانت کا کاروبار وسیع کرنے کے لیے شمالی عراق سے سرزمین عرب میں وارد نہ ہو تھی بلکہ اصل میں وہ عراق کے ایرانی عمال کی انگلیخت پر یہاں آئی تھی تاکہ فتنہ و فساد پھیل سکے۔ اور اس شورش سے فائدہ اٹھا کر اہل ایران اپنے رو بہ انحطاط اقتدار کو سنبھالا دے سکیں جو یمن میں دربار ایران کے مقرر کردہ ایک عامل ”بدبان“ کے اسلام لانے کے بعد سے گزر شروع ہو گیا تھا۔

مذکورہ بالا مورخین اپنی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سجاح واحد عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس جیسی ہوشیار اور ذکی و فہیم عورتیں ہی اکثر اوقات جاسوس اور لوگوں کو ورغلا نے اور پھسلانے کے کام پر مامور کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ عرب میں اس وقت تک ٹھہری رہی جب تک اس کی کوششوں سے فتنہ و فساد اور بغاوت کی آگ پورے زور سے نہ بھڑک اٹھی۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو یہ عراق واپس چلی آئی اور بقیہ عمر سکون و اطمینان سے بسر کی۔

ایرانیوں کی سرشت کو دیکھتے ہوئے کوئی تعجب نہیں کہ انہوں نے اسے بلاد عرب میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کے لیے آلہ کار بنایا ہو اور یہ خیال کیا ہو، بجائے اس سے کہ عرب پر چڑھائی کرنے کے لیے ایرانی فوج روانہ کی جائے، اس ہوشیار عورت کے ذریعے سے خود عربوں کو ایک دوسرے سے بھڑا کر ان کی طاقت ختم کر دی جائے تاکہ کسی محنت و مشقت کے بغیر جزیرہ نما پر دوبارہ تسلط بٹھاسکیں۔

بنی تمیم کا طرز عمل:

سجاح ان عوامل سے متاثر ہو کر جزیرہ عرب میں داخل ہوئی۔ یہ طبعی امر تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم بنو تمیم میں پہنچی۔ بنی تمیم کا اس وقت جو حال تھا۔ وہ ہم پہلے بیان کر

چکے ہیں۔ ایک گروہ زکوٰۃ ادا کرنے اور خلیفہ رسول اللہ کی اطاعت کرنے پر آمادہ تھا لیکن دوسرا فریق اس کی سخت مخالفت کر رہا تھا۔ ایک تیسرا فریق تھا جس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، اور کیا نہ کرے۔

اس اختلاف نے اتنی شدت اختیار کی کہ بنو تمیم نے آپس ہی میں لڑنا اور جدال و قتال کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں ان قبائل نے سجاح کے آنے کی خبر سنی اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سجاح مدینہ پہنچ کر ابو بکرؓ کی فوجوں سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پھر تو اس اختلاف نے مزید وسعت اختیار کر لی۔

سجاح اس ارادے سے بڑھی چلی آرہی تھی کہ وہ اپنے عظیم الشان لشکر کے ہمراہ اچانک بنو تمیم میں پہنچ جائے گی اور اپنی نبوت کا اعلان کر کے انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گی۔ سارا قبیلہ بالا اتفاق اس کے ساتھ ہو جائے گا اور عیینہ کی طرح بنو تمیم بھی اس کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ بنو یربوع کی نبیہ، قریش کے نبی سے بہتر ہے کیونکہ محمدؐ وفات پا گئے اور سجاح زندہ ہے۔ اس کے بعد وہ بنو تمیم کو ہمراہ لے کر مدینہ کی طرف کوچ کرے گی اور ابو بکرؓ کے لشکر سے مقابلے کے بعد فتح یاب ہو کر مدینہ پر قابض ہو جائے گی۔

سجاح اور مالک بن نویرہ:

سجاح اپنے لشکر کے ہمراہ بنو یربوع کی حدود پر پہنچ کر ٹھہر گئی اور قبیلے کے سردار مالک بن نویرہ کو بلا کر مصالحت کرنے اور مدینہ پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی..... مالک نے صلح کی دعوت تو قبول کر لی لیکن اس نے مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر ابو بکرؓ کی فوجوں کا مقابلہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے قبیلے کے مخالف عنصر کا صفایا کر دیا جائے۔ سجاح کو بھی یہ بات پسند آئی اور اس نے کہا:

”جو تمہاری مرضی۔ میں تو بنی یربوع کی ایک عورت ہوں۔ جو تم کہو

گے وہی کروں گی۔“

مالک بن نویرہ کے اوصاف:

سجاح اپنے ارادے سے فوراً کس طرح باز آ گئی اور مالک کی رائے کو بے پس و پیش کیونکر قبول کر لیا؟ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی جو سجاح کی رائے کی اس فوری تبدیلی کے راز سے پردہ اٹھا سکے۔ البتہ روایات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مالک اپنے قبیلے کا نہایت معزز اور صاحب اثر شخص تھا، اعلیٰ درجے کا شہسوار اور بلند پایہ شاعر تھا۔ تکبر اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کی زلفیں لمبی لمبی اور خوبصورت تھیں۔ شیریں مقال، نہایت ہنس مکھ اور آداب مجالس سے پوری طرح واقف تھا۔ اس کا بھائی تمیم بن نویرہ اگرچہ شعر گوئی میں اس کے ہم پلہ تھا لیکن صورت کے لحاظ سے دونوں بھائیوں میں بعد المشرقین تھا۔ جہاں مالک انتہائی خوش شکل اور وجیہ تھا۔ وہاں متمم بن نویرہ انتہائی بد صورت اور کانا تھا۔ ایک مرتبہ عرب کے ایک قبیلے نے چھاپہ مارکت متمم بن نویرہ کو گرفتار کر لیا اور اپنے قبیلے میں لے جا کر اسے رسیوں سے جکڑ دیا۔ جب مالک کو یہ خبر ملی تو وہ اونٹنی پر سوار ہو کر اس قبیلے میں جا پہنچا اور لوگوں میں گھل مل کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے اس خوبی سے ان کے دل لبھائے کہ انہوں نے متمم کو فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بنو تغلب نے بھی متمم کو قید کر لیا تھا۔ مالک اس کا فدیہ ادا کرنے کے لیے وہاں پہنچا۔ وہ لوگ اس کے حسن و جمال سے بے حد متحیر ہوئے۔ وہاں بھی مالک اپنی خوش گفتاری اور شیریں زبانی سے ان کے دل لبھانے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے متمم کا فدیہ لینے سے انکار کر دیا اور اسے فوراً چھوڑ دیا چنانچہ وہ رہا ہو کر اپنے قبیلے میں آ گیا۔ اسی طرح بہت ممکن ہے کہ سجاح بھی مالک کی خوش گفتاری اور مردانہ خوبصورتی سے متاثر ہو گئی ہو اور اس کے کہنے سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ منسوخ کر دیا ہو۔

سجاح نے مالک کے علاوہ بنو تمیم کے دوسرے سرداروں کو بھی مصالحت کی دعوت دی۔ لیکن وکیع کے سوا کسی نے یہ دعوت قبول نہ کی۔ اس پر سجاح نے مالک، وکیع اور اپنے لشکر کے ہمراہ دوسرے سرداروں پر دھاوا بول دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں جانبین کے کثیر التعداد آدمی قتل ہوئے اور ایک ہی قبیلے کے لوگوں نے ایک دوسرے کو گرفتار کر لیا۔

لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مالک اور وکیع نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے اس عورت کی اتباع کر کے سخت غلطی کی ہے۔ اس پر انہوں نے دوسرے سرداروں سے مصالحت کر لی اور ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیئے۔ اس طرح قبیلہ تمیم میں امن قائم ہو گیا۔

سجاح کی شکست:

اب یہاں سجاح کی دال گلنی مشکل تھی۔ اس نے بنو تمیم سے بوریا بستر اٹھایا اور مدینہ کی جانب کوچ کر دیا۔ نباج کی بستی پر پہنچ کر اوس بن خزیمہ سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی جس میں سجاح نے شکست کھائی اور اوس بن خزیمہ نے اس طرح پر اسے واپس جانے دیا کہ اس امر کا پختہ اقرار کرے، وہ کبھی مدینہ کی جانب پیش قدمی نہ کرے گی۔

اس واقعے کے بعد اہل جزیرہ کی فوج کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے سجاح سے کہا:

”اب آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں؟ مالک اور وکیع نے اپنی قوم سے صلح کر لی ہے۔ نہ وہ ہمیں مدد دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس بات پر رضامند کہ ہم ان کی سر زمین سے گزر سکیں۔ ان لوگوں سے بھی ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے اور مدینہ جانے کے لیے ہماری راہ مسدود ہو گئی ہے۔ اب بتائیے ہم کیا کریں۔“

سجاح نے جواب دیا:

”اگر مدینہ جانے کی راہ مسدود ہو گئی ہے تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں، تم یمامہ چلو۔“

انہوں نے کہا:

”اہل یمامہ شان و شوکت میں ہم سے بڑھے ہوئے ہیں اور مسلمہ کی طاقت و قوت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔“

ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب اس کے لشکر کے سرداروں نے سجاح سے

آئندہ اقدام کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب دیا:

علیکم بالیمامہ، ود فواد فیف الحمامہ، فانھا

غزوة صرامہ، لایلحکم بعدہا نہ امہ۔

”(یمامہ چلو۔ کبوتر کی طرح تیزی سے ان پر جھپٹو۔ وہاں ایک زبردست جنگ پیش آئے گی جس کے بعد تمہیں پھر کبھی ندامت نہ اٹھانی پڑے گی۔“)

یہ مسجع و مقفی عبارت سننے کے بعد، جسے اس کے لشکر والے وحی خیال کرتے تھے، انہیں اس کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے کس مقصد کے لیے یمامہ کا قصد کیا جب خود اسے اپنی قوم بنو تمیم میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد مدینہ کی جانب کوچ کرتے ہوئے اوس بن خزیمہ کے ہاتھوں اسے شکست اٹھانی پڑی تھی۔ کیا اس کے لشکر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ان ناکامیوں کو دیکھنے کے بعد اسے یمامہ نہ جانے کا مشورہ دیتا؟ یا یہ خیال کیا جائے کہ اس کی وفات پر ان لوگوں کو اس درجہ یقین تھا کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کی باتوں کو وحی خیال کرتے اور نہایت فرماں برداری سے اس کی اطاعت اور اس کے احکام کی تعمیل میں کوئی دقیقہ سعی فروگزاشت نہ کرتے تھے؟

سجاح اور مسلمہ کی شادی:

سچ تو یہ ہے کہ سجاح کا سارا قصہ ہی عجائب و غرائب کا مجموعہ ہے۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے لشکر کے ہمراہ یمامہ پہنچی تو مسلمہ کو بڑا فکر پیدا ہوا۔ اس نے سوچا اگر وہ سجاح کی فوجوں سے جنگ میں مشغول ہو گیا تو اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی، اسلامی لشکر اس پر دھاوا بول دے گا اور ارد گرد کے قبائل بھی اس کی اطاعت کا دم بھرنے سے انکار کر دیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے سجاح سے مصالحت کرنے کی ٹھانی۔ پہلے اسے تحفے تحائف بھیجے پھر کہلا بھیجا کہ وہ خود اس سے ملنا چاہتا ہے۔ سجاح اپنا لشکر لیے پانی کے ایک چشمے پر مقیم تھی، اس نے مسلمہ کو باریابی کی اجازت دے دی۔ یہ مسلمہ بنی حنیفہ کے چالیس آدمیوں کے ہمراہ اس کے پاس آیا کیמپ میں پہنچ کر خلوت میں اس سے تملق آمیز گفتگو کی اور کہا کہ عرب کی آدھی زمین کے مالک قریش ہیں اور آدھی زمین کی مالک تم ہو۔ اس کے

مسلمہ نے کچھ مسجع و مقفی عبارتیں سجاح کو سنائیں جن سے وہ بہت متاثر ہوئی۔ سجاح نے اس جواب میں اسے اسی قسم کی بعض عبارتیں سنائیں یہ ملاقات خاصی دیر تک جاری رہی۔ مسلمہ نے اپنی خوش کلامی اور چال بازی سے سجاح کا دل موہ لیا اور سجاح کو اقرار کرتے ہی پڑی کہ مسلمہ اس سے ہر طرح فائق ہے۔

سجاح کو پوری طرح اپنے قبضے میں لینے اور ہم نوا بنانے کے لیے مسلمہ نے یہ دوزخ پیش کی کہ ہم دونوں اپنی نبوتوں کو یکجا کر لیں اور باہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ سجاح نے جو پہلے ہی اس کی خوش کلامی اور محبت آمیز باتوں سے مسحور ہو چکی تھی، حایت خوشی سے یہ مشورہ قبول کر لیا اور مسلمہ کے ساتھ اس کے کمپ میں چلی گئی۔ تین روز بعد وہاں رہی، اس کے بعد اپنے لشکر میں واپس آئی اور ساتھیوں سے ذکر کیا کہ اس نے مسلمہ کو حق پر پایا ہے اس لیے اس سے شادی کر لی ہے۔

سجاح کا مہر:

لوگوں نے اس سے پوچھا ”آپ نے کچھ مہر بھی مقرر کیا؟“ اس نے کہا ”مہر تو مقرر نہیں کیا۔“ انہوں نے مشورہ دیا۔ ”آپ واپس جائیے اور مہر مقرر کر آئیے کیونکہ آپ ہی شخصیت کے لیے مہر لیے بغیر شادی کرنا زیبا نہیں۔“ چنانچہ وہ مسلمہ کے پاس واپس گئی اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ مسلمہ نے اس کی خاطر عشاء اور فجر کی نمازوں میں تخفیف کر دی۔ مہر کے بارے میں یہ تصفیہ ہوا کہ مسلمہ یمامہ کی زمینوں کے لگان کی نصف آمدنی سجاح کو بھیجا کرے گا۔ سجاح نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ سال کی نصف آمدنی اس سے اس کا حصہ پہلے ہی ادا کر دے۔ اس پر مسلمہ نے نصف سال کی آمدنی کا حصہ دے دیا جسے لے کر وہ جزیرہ واپس چلی گئی۔ بقیہ نصف سال کی آمدنی کے حصول کے لیے اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بنو حنیفہ ہی میں چھوڑ دیا۔ وہ ابھی وہیں مقیم تھے کہ اسلامی لشکر آ پہنچا اور مسلمہ سے جنگ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ سجاح بدستور بنو تغلب میں مقیم ہی یہاں تک کہ امیر معاویہ نے قحط والے سال (عام الحجامہ) اسے اس کی قوم کے ساتھ یمیم میں بھیج دیا جہاں وہ وفات تک مسلمان ہونے کی حالت میں مقیم رہی۔

یہ ہے سجاح کا قصہ اور..... جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں..... بہت ہی عجیب قصہ ہے۔ وہ جزیرہ سے ابو بکرؓ کے مقابلے کو روانہ ہوتی ہے لیکن مالک بن نویرہ سے بات چیر کے بعد اس کی رائے بدل جاتی ہے اور وہ مدینہ پر ہلہ بولنے کے بجائے یمامہ کا رخ کر ہے۔ وہاں مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے فوراً بعد وہ اپنے قبیلے میں لوٹ آتی ہے اور بقیہ ساری عمر اس طرح بسر کرتی ہے جیسے کہ وہ اپنے قبیلے سے باہر نکلی ہی نہ تھی اور اپنے پہلے خاوند کے سوا کسی سے شادی کی ہی نہ تھی۔ مسلمانوں کا معاملہ بھی سجاح کے معاملے سے کم تر نہیں۔ اگر سجاح سے اس کی شادی کا قصہ درست ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو درجے کا سیاست دان اور لوگوں کے دلی جذبات بھانپ لینے والا شخص تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ اس طرح سجاح سے چھٹکا حاصل کرے تاکہ ابو بکرؓ کی بھیجی ہوئی افواج کا مقابلہ دل جمعی سے کیا جاسکے۔ اس نے سجاح کو میٹھی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں سے رام کر لیا اور چال بازی سے کام لے کر اسے اس کے قبیلے میں واپس بھیج دیا۔ مالک بن نویرہ اور مسلمانوں کے ساتھ سجاح کے تعلقات جس قسم کے رہے ان پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ سجاح ایک ہوشیار کاہنہ، مسجع مقفی عبارتیں بنا۔ میں ماہر، بہت نرم طبیعت اور نسوانی خصوصیات کی پوری طرح حامل تھی۔ ادھر مسلمان بھی ایک ہوشیار سیاست دان تھا۔ وہ خوبصورت نہ تھا لیکن میٹھی میٹھی باتوں سے لوگوں کے دل موہ لیتا تھا۔ عورتوں سے اسے بہت کم رغبت تھی اور عورت کا حسن و جمال اس پر مطلق اثر نہ کرتا تھا اسی وجہ سے اس نے اپنی شریعت میں یہ بات رکھ دی تھی کہ جس شخص کے بیٹا پیدا ہو اس کے لیے اس وقت تک اپنی بیوی کے پاس جانا ناجائز ہے جب تک وہ بیٹا زندہ ہے۔ اگر بیٹا مر جائے تو دوسرے بیٹے کے حصول کے لیے بیوی کے پاس جاسکتا ہے لیکن جس کا بیٹا موجود ہو اس کے لیے عورتیں حرام ہیں۔

مالک کی پریشانی:

جس زمانے میں مسلمانوں اور سجاح کے درمیان مندرجہ بالا واقعات ظہور پذیر ہو رہے تھے، خالد بن ابیہؓ میں مرتدین کو شکست دے کر اسلامی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے

میں مصروف تھے۔ ام زمل سے جنگ اور اس کے قتل کا واقعہ پیش آچکا تھا۔ بطاح میں مالک بن نویرہ تک یہ تمام خبریں پہنچ چکی تھیں۔ جنہیں سن کر اس کا دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی بند کر رکھی تھی اور سجاج سے مل کر بنو تمیم کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے باعث خالدؓ کی نظروں میں مجرم قرار پا چکا تھا۔ اس کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ سجاج کے لشکر کی مدد کے باوجود مقابل قبائل کے ہاتھوں اسے شکست ہو چکی تھی۔ وکیع، جو اس کا دست راست شمار ہوتا تھا، اس کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں سے مل گیا تھا اور زکوٰۃ ادا کر دی تھی۔ ان حالات کی موجودگی میں مالک سخت پریشان تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ آیا مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دے اور پہلے کی طرح ابو بکرؓ کو زکوٰۃ دینے کا اقرار کرے یا اپنے ارادے پر قائم رہ کر انتظار کرے کہ آئندہ واقعات کیا رخ اختیار کرتے ہیں؟

خالدؓ کا کوچ:

خالد، اسد، غطفان اور اس علاقے میں بننے والے دیگر قبائل کی سرکوبی سے فارغ ہو چکے تھے۔ اور ان تمام قبائل نے اسلام قبول کرنا اور مدینہ کی حکومت کو تسلیم کرنا منظور کر لیا تھا۔ چونکہ ان قبائل کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا اس لیے انہوں نے بطاح جا کر مالک بن نویرہ اور دوسرے قبائل سے، جو ابھی تک تردد و تذبذب کی حالت میں تھے، لڑنے کا ارادہ کیا۔ جب انصار کو آپ کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے کچھ تردد کا اظہار کرتے ہوئے کہا:

”خليفة المسلمين نے ہمیں بنی تمیم کی طرف جانے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے ہمیں یہ ہدایت کی تھی کہ جب ہم طلحہ کی سرکوبی سے فارغ ہو جائیں اور اس علاقے کے لوگوں کو اپنا مطیع کر لیں تو دوسرا حکم آنے تک یہیں مقیم رہیں۔“

لیکن خالدؓ نے ان کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا:

”تم سے ابو بکرؓ نے خواہ کچھ ہی عہد لیا ہو لیکن مجھے پیش قدمی جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میں تمہارا امیر ہوں اور تمام خبریں مجھ تک پہنچتی

ہیں۔ اگر دربار خلافت سے میرے پاس کوئی حکم نہ بھی پہنچے لیکن میں دیکھوں کہ دشمن پر قابو پانے کے بعض مواقع مجھے فراہم ہیں تو میں ان سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ اسی طرح اگر میں دیکھوں کہ ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو گو ان سے نبٹنے کے لیے خلیفہ المسلمین کی جانب سے کوئی ہدایت میرے پاس نہ بھی ہو پھر بھی میں جو قدم مناسب سمجھوں گا اٹھاؤں گا۔ مالک بن نویرہ کی شرارتیں روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں اس کے مقابلے کو ضرور جاؤں گا۔ میں تمہیں ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کرتا۔ اگر تم جانا نہیں چاہتے تو نہ جاؤ، میں مہاجرین اور تابعین کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔“

چنانچہ انہوں نے انصار کو براخہ ہی میں چھوڑا اور خود بطاح کی جانب روانہ ہو گئے۔

بعد میں انصار نے باہم مشورہ کیا اور طے پایا کہ ان کے لیے پیچھے رہنا مناسب نہیں انہیں بھی اپنے ساتھیوں سے مل جانا چاہیے کیونکہ اگر خالدؓ نے مالک بن نویرہ پر قابو پا لیا تو وہ اس فتح کے فوائد سے محروم رہ جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ خالدؓ کے لشکر پر کوئی مصیبت پڑی تو لوگ یہ کہہ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے کہ انہوں نے ایسے نازک موقع پر اپنے بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک قاصد کے ہاتھ خالدؓ کو کہلا بھیجا کہ وہ بھی آرہے ہیں اس لیے اپنا کوچ ملتوی کر دیں چنانچہ خالد انصار کے انتظار میں تھوڑی دیر ٹھہر گئے۔

مالک کا اپنی قوم کو مشورہ:-

جب خالدؓ لشکر کے ہمراہ بطاح پہنچے تو انہوں نے میدان خالی پایا کیونکہ مالک بن نویرہ نے اپنی قوم کو گرد و نواح میں منتشر کر دیا اور کہا تھا:

”اے بنو یربوع! ہم نے اپنے امراء کا کہا نہ مانا جنہوں نے ہمیں

ابوبکرؓ کی اطاعت کا مشورہ دیا تھا لیکن میں دیکھتا ہوں، ہماری حالت ایسی نہیں کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں اس لیے میں تمہیں صلاح دیتا ہوں کہ تم دوبارہ اسلام قبول کر لو اور منتشر ہو جاؤ تاکہ کسی کو یہ شبہ بھی پیدا نہ ہو سکے کہ تم مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہو۔“
اپنی قوم کو منتشر کرنے کے بعد وہ خود بھی روپوش ہو گیا۔

بطاح پہنچ کر جب خالدؓ نے میدان خالی پایا تو انہوں نے اپنے لشکر کو مختلف جگہوں میں منقسم کر کے ارد گرد کے علاقے میں روانہ کر دیا، اور حکم دے دیا کہ اگر مالک کے پاس کوئی شخص کہیں مل جائے تو پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہو تو اسے ان کے سامنے حاضر کیا جائے، اور جو شخص آنے سے انکار کرے اسے فی الفور قتل کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں ابوبکرؓ کی ہدایت اپنے امراء کو یہ تھی کہ مسلمان کسی جگہ پڑاؤ ڈالیں تو اذان دیں۔ اگر اس کے جواب میں قریبی بستیوں سے کی آواز آئے تو انہیں چھوڑ دیں لیکن اگر نہ آئے تو ان کا مقابلہ کریں۔ بعد میں بھی اگر اسلام کا اقرار کریں تو انہیں چھوڑ دیں اور ان سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کریں۔ اگر وہ دینے کا اقرار کریں، فنبھا ورنہ انہیں قتل کر دیں۔

بنو نوریہ کی گرفتاری:

خالدؓ بن ولید نے جو دستے نواحی علاقوں میں بھیجے تھے ان میں سے ایک دستہ بنو نوریہ کو بنو ربیع کے چند آدمیوں کے ساتھ گرفتار کر کے لے آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی ہدایت کے مطابق اگر مالک اور اس کے ساتھی اسلام کا اقرار کر لیتے تو خالدؓ انہیں سب سے لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے مالک کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور وہ قتل کر دیا گیا۔
مالک کے قتل نے مدینہ میں سخت ہرجاں برپا کر دیا اور جو جوش و خروش اس موقع پر ہوا وہ عرصے تک ٹھنڈا نہ ہو سکا۔ عمرؓ کی خلافت کے دوران میں عمرؓ اور خالدؓ کے درمیان جو بحث پیش آئے ان میں مالک بن نوریہ کے قتل کو بھی بہت دخل تھا۔

قتل مالک پر مختلف روایتیں:

مالک بن نویرہ کے قتل کے متعلق روایات میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ خود ان لوگوں میں، جو مالک اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لائے تھے، باہم اختلاف تھا کہ آیا مالک اور اس کے ساتھیوں نے اسلام کا اقرار کر لیا تھا اور اذان کی آواز کا جواب دیا تھا یا نہیں؟ طبری میں ابوقادہ انصاری (جو خود بھی مالک کو گرفتار کرنے والوں میں شامل تھے) کی زبانی یہ روایت ہے، ”ہم نے رات کے وقت ان لوگوں پر چھا مارا تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ہم نے کہا ’ہم مسلمان ہیں۔‘ انہوں نے جواب دیا ’ہم بھی مسلمان ہیں۔‘ ہم نے پوچھا ’اگر تم مسلمان ہو تو ہتھیار کیوں اٹھائے ہوئے ہو؟‘ انہوں نے کہا ’یہ ہتھیار تمہارے مقابلے کے لیے نہیں۔‘ ہم نے کہا ’اگر تم واقعی مسلمان ہو تو ہتھیار رکھ دو۔‘ چنانچہ انہوں نے ہتھیار رکھ دیئے۔ اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی اور انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نماز ادا کی۔“

یہاں تک تو سب لوگ متفق تھے۔ اختلاف آگے چل کر شروع ہوا۔ ابوقادہ کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ادائے زکوٰۃ کا اقرار بھی کر لیا تھا لیکن دوسرے لوگ کہتے تھے نہیں انہوں نے زکوٰۃ دینے کا اقرار نہیں کیا اور زکوٰۃ نہ دینے پر اصرار کیا۔ گواہوں کے درمیان اختلاف کی موجودگی میں خالدؓ کے لیے کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق انہوں نے فی الحال مالک اور اس کے ساتھیوں کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ رات سخت ٹھنڈی تھی اور جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا خنکی بڑھتی جاتی تھی۔ خالدؓ نے قیدیوں کو ترس کھاتے ہوئے یہ اعلان کر دیا۔ ”دافؤ اسراکم“ (اپنے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ) لیکر کنانہ کی زبان میں مدافاة کا لفظ قتل کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جن لوگوں کی تحویل میں یہ قیدی تھے وہ کنانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے منادی کر کے والوں کی آواز سنی تو خیال کیا کہ خالدؓ نے ان قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تلواروں سے ان کا کام تمام کر دیا۔ جب خالدؓ نے چیخ و پکار سنی تو وہ اپنے خیمے سے باہر آئے لیکن اس وقت تک تمام قیدیوں کا کام تمام ہو چکا تھا۔ انہوں نے واقعہ سن کر فرمایا:

”جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔“

لیکن اس کے بالمقابل ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ خالدؓ نے مالک کو اپنے پاس بلا کر باتیں کرنی شروع کیں تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گواہیوں میں سے کون سی درست ہے، اس کے اسلام لانے کی یا ارتداد اور ادائے زکوٰۃ سے انکار کرنے کی۔ جب ادائے زکوٰۃ کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی تو مالک نے کہا:

”میرا تو خیال نہیں کہ تمہارے ’صاحب‘ نے تمہیں ایسا حکم دیا

خالدؓ کو یقین ہو گیا کہ وہ ادائے زکوٰۃ سے انکاری ہے۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا:

”کیا تو انہیں اپنا صاحب خیال نہیں کرتا؟“

یہ کہہ کر انہوں نے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی گردنیں مارنے کا حکم دے دیا۔

ابوالفرج اپنی کتاب ”الاغانی“ میں اس گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ابن سلام کی روایت ہے، خالدؓ کو غلطی پر سمجھنے والے کہتے ہیں کہ گفتگو کے

دوران میں مالک نے خالدؓ سے کہا:

”کیا تمہارے صاحب (رسول اللہؐ) نے تمہیں اسی بات کا حکم دیا

ہے؟“

اصل میں اس کی مراد یہ نہ تھی کہ وہ ادائے زکوٰۃ کا منکر ہے بلکہ یہ تھی کیا رسول

اللہؐ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جو لوگ ادائے زکوٰۃ کے منکر ہوں ان پر چڑھائی کر دو؟ لیکن جو

لوگ اس معاملے میں خالدؓ کو بے قصور سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے واقعی اسلام سے انکار

کیا تھا اور دلیل میں مالک کے یہ اشعار پیش کرتے ہیں:

وقلت خنوا اموالکم غیر خائف

ولا ناظر فیما یجیئ من الغد

فان قال بالامر المخوف قائم

منعنا وقلنا: الدین دین محمدؐ

(”میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اموال کو بے دھڑک

قبضے میں رکھو اور نہ دیکھو کہ کل کیا وقوع میں آتا ہے۔ پھر اگر خوفناک

امر (اسلامی حکومت) کو کوئی قائم کرے تو ہم اس کی مخالفت کریں

گے اور کہہ دیں گے کہ دین وہی ہے جو محمد لائے تھے۔

یعنی اس نے اپنی قوم کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی صورت بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور

ادائے زکوٰۃ پر اصرار کیا جائے تو یہ کہہ دیا جائے کہ ہم تو محمدؐ پر ایمان لائے ہیں، ابو بکرؓ کے دین پر نہیں۔“

ابن خلکان یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب خالدؓ نے مالک کو گفتگو کے لیے

بلایا تو اس نے کہا:

”میں نماز پڑھنے کا اقرار کرتا ہوں لیکن زکوٰۃ دینے سے انکاری

ہوں۔“

خالدؓ نے فرمایا:

”کیا تجھے معلوم نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ نماز

کے بغیر زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی؟“

مالک نے کہا:

”کیا آپ کے صاحب بھی یہی کہتے تھے؟“

خالدؓ نے جواب دیا:

”کیا تو انہیں اپنا صاحب خیال نہیں کرتا؟ اللہ کی قسم! میں نے تیری

گردن اڑانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔“

اس کے بعد بحث طول پکڑ گئی اور گفتگو میں تیزی آتی گئی۔ آخر خالدؓ نے کہا:

”میں تو تجھے قتل کر کے رہوں گا۔“

اس نے کہا:

”کیا تمہارے صاحب نے تمہیں یہ حکم دیا تھا؟“

خالدؓ نے کہا:

”اب تو میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔“

یہ کہہ کر آپ نے اپنے آدمیوں کو اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔

بعض لوگ موخر الذکر روایت کو پہلی روایت پر ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت ادھوری معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ قصہ قرہ بن ہبیرہ، فجاۃ السلسی، ابو شجرہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آچکا تھا لیکن خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کی طرح انہیں قتل نہ کیا بلکہ ابو بکرؓ کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ وہ ان سے جو سلوک مناسب سمجھیں کریں۔ مالک بن نویرہ کا جرم ان لوگوں سے کسی طرح بھی بڑھ کر نہ تھا پھر انہوں نے اسے کیوں قتل کر دیا۔ اور خلیفۃ المسلمین کے پاس نہ بھیجا؟ حالانکہ بن تمیم میں اسے جو درجہ اور رسوخ حاصل تھا وہ ان لوگوں سے کسی طرح بھی کم نہ تھا اور خالدؓ اس سے خوب واقف تھے۔

خالدؓ سے ابوققادہ کی ناراضگی:

اس واقعے کے متعلق روایات میں یہ مذکور ہے کہ خالدؓ کے دافؤ اسراکم کا حکم دینے کے بعد جب لوگوں نے مالک اور اس کے ساتھی قیدیوں کو قتل کر دیا تو خالدؓ بہت ناراض ہوئے پھر بھی یہ فرمایا:

”جب اللہ کسی بات کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے۔“

تو ابوققادہ نے یہ سمجھا کہ یہ خالدؓ کا محض ایک بہانہ ہے ورنہ اصل میں ان کا منشاء بھی یہی تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ وہ خالدؓ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے۔ اس پر خالدؓ نے انہیں ڈانٹا اور وہ ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے۔

اس کے بالمقابل دوسری روایات میں یہ مذکور ہے کہ ابوققادہ خالدؓ کے ام تمیم سے نکاح کرنے کے بعد مدینہ گئے اور ان کے ساتھ مالک کا بھائی متمم بن نویرہ بھی تھا۔ جب مدینہ پہنچے تو ابوققادہ سیدھے ابو بکرؓ کے پاس گئے اور انہیں مالک کے قتل اور لیلیٰ سے نکاح کا واقعہ سنایا اور یہ بھی کہا انہوں نے قسم کھالی ہے کہ آئندہ کبھی خالدؓ کے ساتھ ہو کر نہ لڑیں گے۔ لیکن ابو بکرؓ خالدؓ کے کارناموں اور فتوحات سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے ابوققادہ کی بات پر کوئی توجہ نہ کی اور کہا کہ انہیں ایسے شخص کے متعلق ایسی بات نہ کہنی چاہیے جسے رسول اللہؐ

نے سیف اللہ کا خطاب مرحمت فرمایا ہو۔

اس پر بھی ابوقتادہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ عمرؓ بن خطاب کے پاس گئے اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ عمرؓ ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ ابوقتادہ کو لے کر ابو بکرؓ کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جرم کی پاداش میں خالدؓ کو معزول کر دیں۔ انہوں نے کہا خالدؓ کی تلوار اب ظلم کرنے پر اتر آئی ہے۔ اس لیے آپ انہیں معزول کرنے ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ قید بھی کریں لیکن ابو بکرؓ کو اپنے عمال سے ایسا برتاؤ سخت ناپسند تھا۔ جب عمرؓ نے ان کی معزولی پر اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا:

”عمرؓ بس کرو۔ خالدؓ نے تاویل کی۔ یہ بات اور ہے کہ تاویل کرنے میں ان سے غلطی ہوئی۔“

لیکن عمرؓ اس جواب سے مطمئن نہ ہو سکے اور برابر اپنے مطالبے پر قائم رہے۔ جب ابو بکرؓ بہت تنگ ہوئے تو انہوں نے فرمایا:

”عمرؓ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس تلوار کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو۔“

خالدؓ کے بارے میں ابو بکرؓ کا موقف:

عمرؓ کے بالمقابل ابو بکرؓ کا خیال یہ تھا کہ ایسے وقت میں، جب مسلمانوں پر چاروں طرف سے خطرات کے مہیب بادل منڈلا رہے ہیں اور سارے عرب میں فتنہ و فساد اور بغاوت کی آگ زور شور سے بھڑک رہی ہے، کوئی سپہ سالار کسی فرد واحد یا جماعت کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو اس کا زیادہ خیال نہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسے نازک وقت میں کسی سپہ سالار کو سخت سزا دینا اور اس کے الزام کی تشہیر کرنا مسلمانوں کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوگا۔

نیز وہ کہتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کو خالدؓ کی تلوار کی بے حد ضرورت ہے کیونکہ مسلمان بنی حنیفہ کے چالیس ہزار طاقتور اشخاص کے ساتھ بطاح کے قریب یمامہ میں مقیم تھا اور مسلمانوں کے خلاف اس کی بغاوت نے انتہائی خطرناک صورت اختیار کر لی تھی۔

عکرمہ بن ابو جہل، جنہیں فوج دے کر اس طرف بھیجا گیا تھا، اس کے مقابلے میں شکست کھا چکے تھے۔ مسلمانوں کی نظریں خالدؓ کی طرف اٹھتی تھیں۔ مالک بن نویرہ کے قتل اور اس کی بیوی لیلیٰ سے نکاح کرنے کے باوجود خالدؓ کو معزول نہ کیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ اس صورت میں مسلمانوں کو اسلامی فوجوں پر بے پناہ غلبہ حاصل ہو جاتا اور دین اسلام کو شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑتا۔ خالدؓ اللہ کی تلوار اور اس کی نشانوں میں سے ایک نشانی تھے اس لیے ابو بکرؓ نے انہیں طلب فرما کر صرف زبانی سرزنش پر اکتفا کی اور انہیں یمامہ جا کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔

یمامہ پر خالدؓ کی چڑھائی:

یہ ہے میرے خیال میں ابو بکرؓ اور عمرؓ کے اختلاف کی صحیح تصویر اور ابو بکرؓ نے انہیں بلا کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا حکم بھی اس لیے دیا کہ اہل مدینہ خصوصاً عمرؓ جیسی رائے رکھنے والے اشخاص کو دکھائیں کہ اس نازک وقت میں خالدؓ ہی کی شخصیت ایسی ہے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کو تباہی کے خطرات سے بچا سکتی ہے۔ خالدؓ کو میدان جنگ سے بلا کر سرزنش کرنا اور لیلیٰ کو طلاق دینے کا حکم ہی ان کے لیے کافی سزا سمجھی گئی۔

خالدؓ نے یمامہ میں بھی اسی طرح ایک عورت سے شادی کی تھی جس طرح بنو تمیم میں لیلیٰ سے کی تھی۔ ابو بکرؓ نے اس پر سختی سے خالدؓ کو سرزنش کی۔

مورخین نے ان واقعات پر عجیب و غریب گہرا فٹنیاں کی ہیں اور انہیں پیش کر کے خالدؓ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان مورخین اور مصنفین کی حالت، جو ان واقعات کو پیش کر کے خالدؓ کے چہرے کو سیاہ داغوں سے چھپانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ تعجب خیز ہے جو خالدؓ کو ان الزامات سے بالکل بری قرار دیتے اور ان کے لیے عذرات تلاش کرتے ہیں۔ مالک کا قتل اور لیلیٰ اور بنت مجاعہ سے نکاح کے واقعات ان کارناموں کے مقابلے میں قطعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو مرتدین کی جنگوں میں خالدؓ کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوئے اور جنہوں نے انہیں ”سیف اللہ“ کے خطاب کا قرار واقعی مستحق ٹھہرایا۔

مسلمانوں کے مقابلے میں روانہ ہونے کا حکم ملنے کے بعد خالدؓ مدینہ سے بطاح

واپس آ گئے اور وہاں اس کمک کا انتظار کرنے لگے جسے ابو بکرؓ نے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس امداد کے پہنچنے کے بعد وہ لشکر لے کر مسلمہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے جو جھوٹے مدعیان نبوت میں سب سے زیادہ طاقتور تھا، جس کی بغاوت جزیرہ نمائے عرب کے مرتدین کی تمام بغاوتوں سے زیادہ مہیب تھی اور جس کی طرف سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق تھا۔



نواں باب

جنگ یمامہ

مسلمہ کے خلاف خالدؓ کی چڑھائی:

بطاح سے خالدؓ بن ولید اپنے لشکر اور ابو بکرؓ کی بھیجی ہوئی کمک لے کر بنی حنیفہ کے متنبی مسلمہ بن حبیب سے جنگ کرنے کے لیے یمامہ روانہ ہوئے۔ جو کمک ابو بکرؓ نے بھیجی تھی وہ تعداد اور قوت میں خالدؓ کے اصل لشکر سے کم نہ تھی۔ اس میں ان مہاجرین اور انصار کے علاوہ جنہوں نے رسول اللہؐ کے زمانے میں کفار سے لڑائیاں کی تھیں، ان قبائل کے لوگ بھی شامل تھے جن کا شمار عرب کے طاقتور اور جنگجو قبیلوں میں ہوتا تھا۔ انصار ثابت بن قیس اور براء بن مالک کے زیر سرکردگی تھے اور مہاجرین ابو حذیفہ بن عتبہ اور زید بن خطاب کے ماتحت۔ دوسرے قبائل میں سے ہر قبیلے کا سردار علیحدہ تھا جسے ابو بکرؓ نے اس کی حسن کارکردگی کے باعث اس عہدے پر مقرر فرمایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ کے وقت چالیس ہزار بنو حنیفہ مسلمہ کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہوں گے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اس لیے اس وقت مدینہ کی جانب سے بھی بہترین آدمیوں کو، جو قیادت اور جنگ کا کامل تجربہ رکھتے ہوں، محاذ جنگ پر نہ بھیجا گیا تو ان مرتدین کا مقابلہ بے حد دشوار ہو جائے گا۔

ان لوگوں میں جنہیں ابو بکرؓ نے خالدؓ کی امداد کے لیے روانہ کیا تھا، قرآن مجید کے حافظوں اور قاریوں کی بھی بھاری تعداد شامل تھی۔ اسی طرح ایک خاص دستہ ان صحابہ کا تھا جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ ایسا کرنا ابو بکرؓ کی اس پالیسی کے خلاف تھا جو انہوں نے اہل بدر کے متعلق وضع کی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جنگوں میں اہل بدر کو استعمال

نہ کروں گا یہاں تک کہ وہ اپنے نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ لیکن اس موقع پر نازک صورتحال کے پیش نظر انہوں نے اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے اہل بدر اور دوسرے صحابہ کو جنہوں نے رسول اللہؐ کے زمانے کی جنگوں میں حصہ لیا تھا، خالدؓ کی مدد کے لیے روانہ فرمایا کیونکہ یمامہ میں سیلہ کو خوب فروغ ہو چلا تھا اور وہ آسانی سے زیر ہونے والا نہ تھا۔

مسلمانوں کی غیر معمولی کامیابی:

حقیقت یہ ہے کہ یمامہ میں مسلمانوں کی کامیابی خالدؓ کا معمولی کارنامہ نہیں۔ یمامہ کی حالت دوسرے قبائل سے بالکل مختلف تھی۔ مدینہ کے قریبی مسائل میں سے، جنہوں نے ابو بکرؓ کے خلیفہ بننے کے بعد مدینہ کا محاصرہ کرنا چاہا تھا، کوئی شخص نبوت کا مدعی نہ تھا اور زکوٰۃ کے معافی کے سوا انہیں اور کوئی خواہش نہ تھی۔ مزید برآں عدی بن حاتم اپنے قبیلے کو طلیحہ اسدی کی امداد سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس سے اس کے لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ جم کر مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کے لشکر کے مفرورین ام زمل کے پاس جا کر اکٹھے ہوئے لیکن ایک ہزیمت خورہ فوج سے مقابلے کی توقع عبث تھی۔ اس لیے ام زمل کو بھی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔

رہ گئے بنو تمیم تو ان میں خود تفرقہ پڑا ہوا تھا۔ مسلمانوں سے کیا مقابلہ کر سکتے تھے! سجاح کے عزم اور ہمت کو مالک بن نویرہ نے متزلزل کر دیا اور اس نے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا مالک بن نویرہ مسلمانوں سے اس قدر خوف زدہ تھا کہ وہ خالدؓ کے مقابلے میں آنے کی جرات ہی نہ کر سکا۔

ان لوگوں کے بالمقابل سیلہ اور یمامہ میں اس کے پیروؤں کو اصلاً اس بات ہی سے انکار تھا کہ محمدؐ اللہ کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قریش کی طرح نبوت و رسالت پر ان کا بھی حق ہے۔ انہیں بھی عرب میں وہی درجہ حاصل ہے جو قریش کا ہے۔ ان کا لشکر قریش کے لشکر سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں کامل اتحاد پایا جاتا ہے۔ آپس کی مخالفت اور شکر رنجی بالکل مفقود ہے۔ عقیدے اور قبیلے کا اختلاف ان

میں بالکل نہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ ابو بکرؓ کی فوجوں سے بڑی کامیاب ٹکر لے سکتے ہیں۔

عکرمہ کی ہزیمت:

ابو بکرؓ کی نظر میں یہ تمام باتیں پہلے ہی سے موجود تھیں اس لیے انہوں نے پوری کوشش کی کہ یمامہ کی جانب جو لشکر بھیجے جائیں وہ طاقتور ہوں۔ مرتدین سے لڑنے کے لیے انہوں نے گیارہ لشکر تیار کیے تھے اور ہر لشکر کو علیحدہ علیحدہ قبیلے کی طرف بھیجا تھا۔ لیکن مسیلمہ کے بارے میں ایسا نہ ہوا بلکہ اس کی جانب انہوں نے عکرمہ بن ابو جہل کو بھیجا اور ان کے پیچھے پیچھے شرحبیل بن حسنہ کو ایک لشکر دے کر ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا۔ عکرمہ یمامہ کی جانب بڑھتے چلے گئے اور شرحبیل کے پہنچنے کا انتظار نہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسیلمہ پر فتح یاب ہونے کا فخر تنہا انہیں کے حصے میں آئے۔ عکرمہ ایک تجربہ کار ماہر جنگ اور دشمن کو خاطر میں نہ لانے والے شہسوار تھے۔ ان کی فوج میں بڑے بڑے بہادر شامل تھے جو پچھلی جنگوں میں لوگوں پر اپنے کارناموں کی دھاک بٹھا چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مسیلمہ کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے اور بنو حنیفہ نے انہیں شکست دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ عکرمہ نے اپنی ہزیمت کا سارا حال ابو بکرؓ کو لکھ بھیجا جسے پڑھ کر ان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے عکرمہ کو لکھا:

..... ”اے ابن ام عکرمہ! (عکرمہ کی ماں کے بیٹے) میں تمہاری صورت دیکھنے کا مطلق روادار نہیں۔ تم واپس آ کر لوگوں میں بددلی پھیلانے کا باعث نہ ہو بلکہ حذیفہ اور عرقبہ کے پاس جا کر اہل عمان اور مہرہ سے لڑو۔ اس کے بعد یمن اور حضر موت جا کر مہاجر بن ابی امیہ سے مل جاؤ اور ان کے دوش بہ دوش مرتدین سے جنگ میں حصہ لو۔“

اس خط میں جو غیظ و غضب پنہاں ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابن ام عکرمہ کا خطاب ہی اس غیظ و غضب کی صحیح کیفیت ظاہر کر رہا ہے۔

مسيلمہ کی قوت کا سبب:

سوال پيدا ہوتا ہے کہ آخر مسيلمہ نے اتنی قوت کس طرح حاصل کر لی؟ مسيلمہ رسول اللہؐ کے آخری ایام میں بنی حنیفہ کے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ آیا۔ وفد کے باقی ارکان تو رسول اللہؐ کے پاس چلے گئے اور قبول اسلام کا اعلان کر دیا لیکن مسيلمہ نہ جاسکا کیونکہ وہ لوگ اسے سامان کی حفاظت کے لیے ڈیرے ہی پر چھوڑ گئے تھے۔ رسول اللہؐ نے حسب عادت انہیں کچھ مال و منال عطا فرمایا جس پر انہوں نے مسيلمہ کا حصہ مانگا۔ آپ نے اس کے حصے کا مال بھی ان لوگوں کو دیا اور فرمایا:

”وہ مرتبے میں تم سے کم تر نہیں۔“

مطلب یہ تھا کہ اس کی حیثیت اتنی کم تر نہیں کہ تم اسے مال کی حفاظت کے لیے ڈیرے پر چھوڑ آئے ہو۔

مسيلمہ محض یہ بات پیش کر کے نبوت کا دعویٰ نہ کر سکتا تھا اس لیے شروع میں بہت ہی تھوڑے لوگوں نے اس کی باتوں پر کان دھرا۔ نہ دو سال میں ہزاروں آدمیوں کو اپنے گرد جمع کر لینا ہی کوئی معجزہ قرار پا سکتا ہے۔ یہ تو محض ایک شعبہ بازی تھی۔

حقیقی امر، جس نے مسيلمہ کی طاقت بڑھائی، وہ تھا ”نہار الرجال“ کا اس سے مل جانا۔ یہ شخص، جس کا نام ”نہار الرجال“ یا نہار الرجال بن غنفوہ تھا، اسی علاقے کا رہنے والا تھا اور ہجرت کر کے رسول اللہؐ کے پاس مدینہ آ گیا تھا۔ یہاں اس نے قرآن کریم پڑھا اور دینی تعلیم حاصل کی۔ چونکہ وہ بہت ذہین شخص تھا اس لیے رسول اللہؐ نے اسے اہل یمامہ کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور لوگوں کو مسيلمہ کی متابعت سے روکنے کے لیے بھیجا۔ لیکن نہار مسيلمہ سے بھی زیادہ منہ زور ثابت ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسيلمہ کی اطاعت قبول کرتے جا رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے ان سے مل گیا اور مسيلمہ کی نبوت کا قرار کرنے کے ساتھ رسول اللہؐ کی جانب یہ جھوٹا قول بھی منسوب کیا کہ مسيلمہ ان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ اہل یمامہ کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا کہ محمدؐ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص مسيلمہ کی نبوت کی گواہی دے رہا

ہے اور وہ شخص معمولی آدمی نہیں بلکہ عالم، فاضل اور فقیہ بھی ہے۔ ان کے سامنے قرآن پڑھتا اور اس کی تعلیمات سے انہیں آگاہ کرتا ہے۔ انہیں دین کا علم سکھاتا ہے۔ اب کہ وہ خود نبوتِ مسیلمہ کی گواہی دے رہا تھا تو مسیلمہ کی نبوت سے انکار کی گنجائش ہی کہاں رہی تھی چنانچہ بے وقوف لوگ جوق در جوق مسیلمہ کے پاس آنے اور بنی حنیفہ کے رسول کی حیثیت سے اس کی بیعت کرنے لگے۔ اس طرح چند ہی دنوں میں اس کی طاقت کہیں سے کہیں جا پہنچی۔

مسیلمہ نے اس کے صلے میں نہار الرجال کو اپنا خاص معتمد علیہ بنالیا اور اس کے مشورے سے نبوت کا کاروبار انجام دینے لگا۔ اس کے بدلے نہار الرجال کو دنیا بھر کی نعمتیں میسر آ گئیں۔ اور وہ ان سے جی بھر کر لطف اندوز ہونے لگا۔ جب علماء اور فقہاء ہی دنیا کی نعمتوں کے حصول پر تل جائیں اور اپنی غرض کے لیے ذلیل خوشامد اور جھوٹی گواہی سے بھی دریغ نہ کریں تو عوام جو بھی کریں تھوڑا ہے۔

جہاں تک مسیلمہ کے معجزات دکھانے کا تعلق ہے تاریخ سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نہ لوگوں نے اس کا کوئی معجزہ دیکھ کر اسے قبول کیا اور نہ اس کی خود ساختہ وحی سے متاثر ہو کر اس پر ایمان لائے۔ مسیلمہ کا کاروبار چمکنے کے صرف وہی سبب تھے جن کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے۔

مسیلمہ کی اطاعت کیوں قبول کی گئی؟

جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ عوام تو خیر جاہل ہوتے ہیں انہیں حق و باطل کی تمیز نہیں ہوتی لیکن دانشوران قوم کی عقلوں پر کیا پتھر پڑ گئے تھے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے مسیلمہ کی اطاعت قبول کر لی تو بات یہ ہے کہ اس کی تہہ میں عربوں کی قومی عصبیت اور قبائلی خود مختاری کا جذبہ کار فرما تھا۔ اس کے ثبوت میں مندرجہ ذیل واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔

مورخین ذکر کرتے ہیں کہ طلحہ نمری یمامہ آیا اور لوگوں سے پوچھا:

”تم اس کا نام اس قدر بے ادبی سے لیتے ہو حالانکہ وہ اللہ کا رسول

ہے۔“

اس نے کہا۔

”میں تو اس وقت تک اسے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک اس سے مل نہ لوں۔ تم مجھے اس کے پاس لے چلو۔“

مسلمہ کے پاس پہنچ کر طلحہ نے اس سے پوچھا:

”تمہارے پاس کون آتا ہے؟“

”رحمان“ مسلمہ نے جواب دیا۔

”روشنی میں یا اندھیرے میں؟“

”اندھیرے میں۔“

اس پر طلحہ بولا:

”میں گواہی دیتا ہوں کہ تم کذاب ہو اور محمدؐ سچے ہیں لیکن اپنا کذاب

ہمیں دوسروں کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔“

چنانچہ اس نے مسلمہ کی اطاعت قبول کر لی اور اسی کے ہمراہ لڑتا ہوا مارا گیا۔۔

مسلمہ کی قوت و طاقت بڑھ جانے اور اس کے مقابلے میں عکرمہ کے شکست

کھانے کے باعث ابو بکرؓ کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ خالدؓ بن ولید کو اس کی سرکوبی کے لیے

روانہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے شرحبیل بن حسنہ کو لکھا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، جب تک

خالدؓ ان کے پاس نہ پہنچ جائیں مسلمہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد (شرحبیل) عمرو

بن عاص کے پاس چلے جائیں اور شمالی حصے میں قضاء کے خلاف جنگ میں ان کی مدد

کریں۔

شرحبیل کی شکست:

ابھی خالدؓ یمامہ کے راستے ہی پر تھے کہ مسلمہ کی فوجوں نے شرحبیل کی فوج سے

ٹکری اور اسے پیچھے ہٹا دیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ شرحبیل نے بھی وہی کیا جو اس سے

پہلے عکرمہ کر چکے تھے یعنی وہ مسلمہ پر فتح یابی کا فخر خود حاصل کرنے کے شوق میں آگے

بڑھے۔ لیکن انہیں بھی شکست کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر بھی میرے خیال میں واقعہ اس طرح

نہیں بلکہ خود یمامہ کے لشکر نے اس خیال سے کہ کہیں شرحبیل خالدؓ سے مل کر انہیں نقصان نہ

پہنچائیں، آگے بڑھ کر لشکر پر حملہ کر دیا اور شکست دے کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ دونوں میں سے کوئی بات ہوئی ہو مگر واقعہ یہی ہوا کہ شرجیل اپنا لشکر لے کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب خالدؓ ان کے پاس پہنچے اور انہیں تمام واقعات کا علم ہوا تو انہوں نے شرجیل کو بہت برا بھلا کہا۔ آپؓ کا خیال تھا کہ اگر دشمن سے ٹکر لینے کی طاقت نہ ہو تو بے شک اس وقت تک اس کے مقابلے سے گریز کیا جائے جب تک مطلوبہ طاقت حاصل نہ ہو جائے بہ نسبت اس امر کے کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود دشمن سے لڑائی چھیڑ دی جائے جس کے نتیجے میں شکست کھانی پڑے۔

خالدؓ سے مجاہد کی ”مڈ بھیر“:

اب خالدؓ نے اپنے لشکروں کے ہمراہ یمامہ کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ مسلمانوں کو صحابیؓ ان کی نقل و حرکت کی تمام خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اسی دوران میں یہ واقعہ ہوا کہ بنی حنیفہ کا ایک شخص مجاہد بن مرارہ، بنی عامر اور بنی تمیم کے چند اشخاص سے اپنے کسی رشتہ دار کے قتل کا انتقام لینے کے لیے چند لوگوں کے ہمراہ نکلا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر مسلمانوں سے جنگ شروع ہو گئی تو انتقام لینے کا موقع نہ مل سکے گا۔ چنانچہ اس نے ان قبائل میں پہنچ کر اپنا نصاب لیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چل پڑا۔ جب یہ لوگ ”شبیہ الیمامہ“ پہنچے تو انھیں کاوٹ کی وجہ سے بے خبر پڑ کر سو گئے۔ دریں اثناء خالدؓ کا لشکر وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت یہ بڑا بڑا کراٹھے۔ خالدؓ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس خیال سے کہ ان سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا ہم آپؓ سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنو تمیم سے انتقام لینے کے لیے نکلے تھے۔ اس پر خالدؓ نے پوچھا ”اسلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔“

انہوں نے کہا:

”ایک نبی ہم میں ہے اور ایک نبی تم میں۔“

اس پر خالدؓ نے انہیں قتل کر دیا۔

اس موقع پر ایک آدمی (سہارہ بن عامر) نے عین اس وقت جب تلوار اس کا گلا

کاٹنے کے لیے تیار تھی، مجاہد کی طرف اشارہ کر کے کہا:

”اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس آدمی کو چھوڑ دو۔“

خالدؓ نے بھی مجاہد کو قتل نہ کرایا بلکہ بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لیا۔ کیونکہ وہ بنی حنیفہ کے سرداروں میں سے تھا اور وہ لوگ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ خالدؓ کا خیال بھی تھا کہ ممکن ہے آگے چل کر اس کے ذریعے سے کوئی کام نکل سکے۔ انہوں نے اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے خیمے میں ڈال دیا۔

خالدؓ اور مسیلمہ میں جنگ:

مسیلمہ نے اپنا لشکر یمامہ کی ایک جانب عقرباء میں جمع کیا تھا اور سارا مال اسباب لشکر کے پیچھے رکھا تھا۔ اس کا لشکر بعض روایات کے مطابق چالیس ہزار اور بعض دوسری روایتوں کے رو سے ستر ہزار تھا۔ ایسے عظیم الشان لشکر کا ذکر عربوں نے اس سے پہلے بہت ہی کم سنا تھا۔

خالدؓ اسی روز، جب انہوں نے مجاہد کو قید کیا تھا، مسیلمہ کی فوج کے مقابلے میں آگئے۔ دونوں لشکر میدان جنگ میں کھڑے آخری اعلان کے منتظر تھے۔ ہر ایک کو یقین تھا کہ فتح مندی و کامرانی اسی کے حصے میں آئے گی اور وہ دوسرے لشکر کو تباہ و برباد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنگ یمامہ کا دن اپنی نوعیت کے لحاظ سے اسلام میں ایک منفرد دن ہے کیونکہ اس روز اسلام اور نبوت کا ذبہ کا آخری مقابلہ ہونے والا تھا۔

مسیلمہ کی طرف یمن، عمان، مہرہ، بحرین، حضرموت اور عرب کی جنوبی جانب مکہ اور طائف سے خلیج عدن تک کے تمام علاقوں کے لوگوں کی نظریں جمی ہوئی تھیں۔ ایرانی بھی بڑی بے صبری سے اس جنگ کے نتیجے کے منتظر تھے۔ مسیلمہ کا لشکر اس پر کامل ایمان رکھتا تھا اور اس کی راہ میں کٹ مرنے کے لیے تیار تھا۔ علاوہ بریں حجاز اور عرب کے جنوبی علاقوں کی دیرینہ دشمنی بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی ہیئت کے لحاظ سے کچھ کم طاقت ورنہ تھی۔ اس کے سپہ سالار خالدؓ بن ولید تھے جو بلاشبہ اپنے زمانے کے سالار اعظم تھے۔ لشکر میں کلام اللہ کے حافظوں اور قاریوں کی بھی کمی نہ تھی۔ یہ تمام لوگ اس جذبے سے میدان

جنگ میں آئے تھے کہ اللہ کے راستے میں جہاد اور اس کے دین کی مدافعت مومن کا فرض اولین ہے اور علم و بصیرت رکھنے والے کے لیے تو یہ فرض عین ہے۔ اس جذبے نے ان کے دلوں و لولوں اور انگلیوں کو بہت بڑھا دیا تھا اور وہ تعداد میں مرتدین سے بہت کم ہونے کے باوجود عزم و ہمت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے۔

ابن مسلمہ کی آتش بیانی:

لڑائی شروع ہونے سے پہلے مسلمہ کا لڑکا بنی حنیفہ کی صفوں میں پھر کر اپنے آتشیں الفاظ سے ان کی غیرت و حمیت کی آگ بھڑکاتے ہوئے یہ کہتا پھر رہا تھا:

”اے بنو حنیفہ! آج تمہاری غیرت کا امتحان ہے۔ اگر تم شکست کھا گئے تو تمہارے پیچھے تمہاری عورتیں لونڈیاں بنالی جائیں گی اور ان کے نکاح زبردستی دوسرے لوگوں سے کر دیئے جائیں گے۔ اس لیے اپنے حسب و نسب کی خاطر مسلمانوں سے جنگ کرو اور اپنی عورتوں کی عزت بچاؤ۔“

مسلمانوں پر بنی حنیفہ کا دباؤ:

آغاز جنگ میں مسلمان بنی حنیفہ کے مقابلے میں ثابت قدم نہ رہ سکے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ یہاں تک کہ بنو حنیفہ خالد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے مجاہد کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا اور ام تمیم کو اس کی نگرانی کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک آدمی نے لیلیٰ کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی لیکن مجاہد چیخ اٹھا:

”ٹھہر جاؤ، میں اسے امان دیتا ہوں تم اسے چھوڑ دو اور مردوں سے جا کر لڑو۔“

لشکر کے سپاہیوں نے خیمے کی رسیاں کاٹ ڈالیں اور خیمے کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لیکن انہوں نے مجاہد کو آزاد نہ کیا بلکہ اس امید میں کہ وہ ابھی مسلمانوں پر فتح یاب ہو کر واپس آجائیں گے، اسے بیڑیوں میں جکڑا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔

نہار الرجال کا قتل:

مسلمانوں نے پیچھے ہٹنے کے باوجود پہلے ہی - ہلے میں بنی حنیفہ کے سینکڑوں آدمیوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ ان قتل ہونے والوں میں سب سے پہلا شخص نہار الرجال تھا۔ جو بنی حنیفہ کے ”مقدمہ“ پر مقرر تھا۔ اسے حضرت عمرؓ کے بھائی زید بن خطاب نے قتل کیا تھا۔ اس کے قتل سے فتنہ مسلمہ کے سب سے بڑے سرغنے کا خاتمہ ہو گیا۔

خالدؓ کی حکمت عملی:

لشکر اسلام کے پیچھے ہٹنے کے باوجود خالدؓ کے عزم و ثبات میں مطلق کمی نہ آئی اور انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی شکست کا خیال پیدا نہ ہوا۔ انہوں نے یہ بات بھانپ لی تھی کہ لشکر کے پیچھے ہٹنے کا سبب فخر و مباہات کا وہ جذبہ تھا جو مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں پیدا ہو گیا تھا اور جس کے باعث ان میں کمزوری راہ پا گئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے پکار کر اپنے لشکر سے کہا:

”اے لوگو! علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ اور اسی حالت میں دشمن سے لڑو تاکہ ہم دیکھ سکیں، کس قبیلے نے لڑائی میں بہادری کا سب سے اچھا مظاہرہ کیا۔“

مجاہدین اسلام کا عزم و ثبات

خالدؓ کے اس حکم کا خاطر خواہ اثر ہوا اور ہر قبیلے نے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ آخر مسلمانوں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے انہوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے فخر و مباہات اور تعلی کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ نامناسب تھا۔ چنانچہ انصار کے ایک سردار ثابت بن قیس نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”اے مسلمانو! تم نے بہت بری مثال قائم کی ہے۔“

پھر اہل یمامہ کی طرف اشارہ کر کے کہا:

”اے اللہ! جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برأت کا اظہار کرتا ہوں۔“

”اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں اس سے بھی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔“

اس کے بعد وہ تلوار سونت کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بڑی بہادری سے لڑنے لگے۔ وہ لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے:

”میری تلوار کا مزہ چکھو، میں تمہیں صبر و استقلال کا حقیقی نمونہ دکھاؤں گا۔“

وہ اسی طرح بے جگری سے لڑتے رہے۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم نہ لگے ہوں۔ آخر اسی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

براء بن مالک ان صنادید عرب میں سے تھے جو پیٹھ دکھانا جانتے ہی نہ تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ تیزی سے کود کر ان کے سامنے آ گئے اور کہا:

”اے مسلمانو! میں براء بن مالک ہوں۔ میری پیروی کرو۔“

مسلمان ان کی بہادری اور شجاعت سے خوب واقف تھے۔ ان کی ایک جماعت براء کے ساتھ ہوئی۔ وہ اسے لے کر دشمن کے مقابلے میں آ گئے اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کو پیچھے ہٹتے ہی بن پڑی۔

عین لڑائی کے دوران میں یہ اتفاق ہوا کہ سخت آندھی آ گئی اور ریت اڑا کر مسلمانوں کے چہروں پر پڑنے لگی۔ چند لوگوں نے اس پریشانی کا ذکر زید بن خطاب سے کیا اور پوچھا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے جواب میں کہا:

”واللہ! میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا

جب تک دشمن کو شکست نہ دے لوں یا اللہ مجھے شہادت عطا نہ فرمائے

اے لوگو! آندھی سے بچاؤ کی خاطر اپنی نظریں نیچی کر لو اور ثابت قدم

رہ کر لڑو۔“

یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور دشمن کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنے لگے۔

ان کا دستہ بھی ان کے پیچھے ثابت قدمی سے لڑ رہا تھا آخر ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ پورے ہو گئے اور انہوں نے اسی طرح لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔
ابو حنیفہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے:

”اے اہل قرآن! اپنے افعال کے ذریعے سے قرآن کو عزت بخشو پھر خود بھی دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد جھنڈا ان کے غلام سالم نے اٹھایا اور کہا:

”اگر آج ثابت قدم نہ رہوں تو میں بدترین حامل قرآن ہوں گا۔“
چنانچہ وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

ان آوازوں نے جو ایمان و یقین سے بھرپور قلوب سے نکل رہی تھیں مسلمانوں کے لشکر میں بہادری کی ایک نئی روح پھونک دی۔ زندگی ان کی نظروں میں حقیر بن کر رہ گئی اور شہادت کی تمنا ہر دل میں چٹکیاں لینے لگی چنانچہ وہ بے جگری سے لڑے اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے لشکر کو اس کی پہلی جگہ پر لاکھڑا کیا۔

جہاں مسلمان دین حق کی حفاظت اور حصول جنت کی خاطر لڑ رہے تھے وہاں مسلمانوں کا لشکر اپنے وطن، حسب و نسب اور ایسے کمزور عقیدے کی خاطر لڑ رہا تھا جو ان کے نزدیک وطن اور حسب و نسب سے بھی بہت کم درجے کا تھا۔ اسی لیے مسلمانوں نے بنو حنیفہ سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور انتہائی بے جگری سے لڑے۔

خالد قتلِ مسلمانوں کے درپے:

خالدؓ نے جب مسلمانوں کی جوش دلانے والی آوازیں سنیں تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ بنی حنیفہ کی سخت مدافعت کے باوجود انجام کار فتح انہیں کے حصے میں آئے گی۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ فتح کا حصول حتی الامکان جلد ہو جائے اس لیے بہت غور سے ایک بار میدان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بنو حنیفہ مسلمانوں کے گرد کٹ کر گر رہے ہیں اور مسلمانوں کی حفاظت میں موت کی بھی پروا نہیں کرتے۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ فتح کے جلد از جلد حصول کا طریق یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے آدمی

”اے اللہ! جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برأت کا اظہار کرتا ہوں۔“

”اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں اس سے بھی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔“

اس کے بعد وہ تلوار سونت کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بڑی بہادری سے لڑنے لگے۔ وہ لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے:

”میری تلوار کا مزہ چکھو، میں تمہیں صبر و استقلال کا حقیقی نمونہ دکھاؤں گا۔“

وہ اسی طرح بے جگری سے لڑتے رہے۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم نہ لگے ہوں۔ آخر اسی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

براء بن مالک ان صنادید عرب میں سے تھے جو پیٹھ دکھانا جانتے ہی نہ تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ تیزی سے کود کر ان کے سامنے آ گئے اور کہا:

”اے مسلمانو! میں براء بن مالک ہوں۔ میری پیروی کرو۔“

مسلمان ان کی بہادری اور شجاعت سے خوب واقف تھے۔ ان کی ایک جماعت براء کے ساتھ ہوئی۔ وہ اسے لے کر دشمن کے مقابلے میں آ گئے اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کو پیچھے ہٹتے ہی بن پڑی۔

عین لڑائی کے دوران میں یہ اتفاق ہوا کہ سخت آندھی آ گئی اور ریت اڑا کر مسلمانوں کے چہروں پر پڑنے لگی۔ چند لوگوں نے اس پریشانی کا ذکر زید بن خطاب سے کیا اور پوچھا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے جواب میں کہا:

”واللہ! میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک دشمن کو شکست نہ دے لوں یا اللہ مجھے شہادت عطا نہ فرمائے اے لوگو! آندھی سے بچاؤ کی خاطر اپنی نظریں نیچی کر لو اور ثابت قدم رہ کر لڑو۔“

یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور دشمن کی صفوں میں گھس کر بے جگری سے لڑنے لگے۔

بنی حنیفہ کے ایک سردار محکم بن طفیل نے جب لوگوں کو بھاگتے اور مسلمانوں کو ان کا پیچھا کرتے دیکھا تو پکار پکار کر کہنے لگا:

”اے بنو حنیفہ! باغ میں داخل ہو جاؤ۔“

یہ باغ جسے حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا میدان جنگ سے قریب ہی تھا اور مسلمانوں کی ملکیت میں تھا۔ یہ بہت طویل و عریض تھا اور قلعے کی طرح اس کے چاروں طرف بلند دیواریں کھڑی تھیں۔ محکم بن طفیل کی آواز سن کر لوگوں نے اس باغ کی طرف بھاگنا شروع کیا (جس میں مسلمان پہلے ہی داخل ہو چکا تھا) لیکن محکم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مسلمانوں کو بنی حنیفہ کے تعاقب سے روکنے کے لیے میدان جنگ ہی میں رہ گیا تھا۔ اس نے بہت بہادری سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور آخر عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کے ایک تیرے، جو اس کے سینے میں لگا، اس کا کام تمام ہو گیا۔

باغ کا محاصرہ

مسلمانوں اور اس کی قوم باغ میں پناہ گزین ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے لیے باغ کا محاصرہ کر لینے اور کامل فتح کے حصول تک وہاں سے نہ ٹلنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ باغ کے چاروں طرف مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور کسی ایسی کمزور جگہ کی تلاش کرنے لگے جہاں سے باغ میں گھس کر اس کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن انتہائی تلاش کے باوجود انہیں ایسی کوئی جگہ نہ ملی۔

آخر براء بن مالک نے کہا:

”مسلمانو! اب صرف یہ راستہ ہے کہ تم مجھے اٹھا کر باغ میں پھینک دو۔ میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔“

لیکن مسلمان یہ کس طرح گوارا کر سکتے تھے کہ ان کا ایک بلند مرتبت ساتھی ہزاروں دشمنوں میں گھر کر اپنی جان گنوا دے۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا لیکن براء نے اصرار کرنا شروع کیا اور کہا:

”میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم مجھے باغ کے اندر پھینک دو۔“

لے کر آگے بڑھے اور مسیلہ کے آدمیوں کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اس کے بعد کوشش کی کہ کسی طرح مسیلہ ان کے سامنے آ جائے تاکہ اس کا کام تمام کیا جاسکے۔ لیکن قبل اس کے کہ مسیلہ ان کے سامنے آتا، اس کے آدمیوں نے بڑھ چڑھ کر خالدؓ پر حملے کرنے شروع کیے۔ خالدؓ تو ان کے بس میں کیا آتے البتہ جو شخص ان کے مقابلے میں آتا زندہ واپس نہ جاتا۔ اس طرح بے شمار آدمی قتل ہو گئے۔

مسیلہ کا تردد و اضطراب:

جب مسیلہ نے دیکھا کہ اس کے حامیوں کی تعداد بہ سرعت کم ہوتی جا رہی ہے تو اس نے خود خالدؓ کے مقابلے پر آنے کا ارادہ کیا لیکن اس خیال سے رک گیا کہ اگر وہ بھی خالدؓ کے مقابلے کے لیے نکلا تو لامحالہ مارا جائے گا۔ اب اس کے تردد اور اضطراب کی انتہا نہ رہی۔ اس کے جاں نثار کٹ کٹ کر گر رہے تھے اور اسے خود بھی اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ اس اضطراب کی حالت میں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ یکا یک خالدؓ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کے محافظین پر ایک بھرپور حملہ کر کے تلوار کے جوہر دکھانے شروع کیے۔

یہ دیکھ کر مسیلہ کے ساتھیوں نے اس سے پکار کر پوچھا:
 ”آپ کے وہ وعدے، جو اپنی فتح کے متعلق آپ نے ہم سے کیے تھے، کہاں گئے؟“

مسیلہ کا فرار:

اس وقت مسیلہ کے حوصلے ختم ہو چکے تھے اور اس نے میدان جنگ سے بھاگنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے پیٹھ پھیرتے ہوئے جواب دیا:
 ”اپنے حسب و نسب کی خاطر لڑتے رہو۔“
 لیکن اب وہ کیا لڑتے جب ان کا سردار انہیں مسلمانوں کی تلواروں کے سپرد کر کے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔

کو باغ میں دیکھا اور اپنا چھوٹا سانیزہ ترک کر میلمہ کے مارا جو سیدھا اسے جا کر لگا۔ اسی وقت ایک انصاری نے بھی میلمہ پر تلوار کا وار کیا۔ وحشی کہا کرتا تھا ”اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم میں سے کس نے اسے قتل کیا۔ لیکن میلمہ اگر مرنے کے بعد زندہ ہوتا تو ہمیشہ ہی یہ کہتا کہ اسے اس سیاہ فام غلام نے قتل کیا ہے۔“

جب بنو حنیفہ نے میلمہ کی خبر موت سنی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے انہیں بے تحاشا قتل کرنا شروع کیا۔ عرب میں اس وقت تک جتنی جنگیں ہوئی تھیں یمامہ سے بڑھ کر کسی بھی جنگ میں اتنی خونریزی نہ ہوئی تھی۔ اس لیے حدیقتہ الرحمن کا نام حدیقتہ الموت پڑ گیا اور آج تک تاریخ کی کتابوں میں یہی نام چلا آتا ہے۔

جب باغ کا معرکہ ختم ہو چکا تو خالدؓ اپنے خیمے سے مجاہد کو لے کر آئے اور اس سے کہا کہ وہ مقتولین کو دیکھ کر بتائے ان میں میلمہ کون سا ہے۔ مسلمان خود بھی مقتولین کی شناخت کے لیے باغ میں پھرنے لگے۔ جب وہ محکم الیمامہ کے پاس سے گزرے تو خالدؓ نے پوچھا:

”کیا یہ ہے تمہارا صاحب؟“

مجاہد نے جواب دیا نہیں، یہ تو محکم الیمامہ ہے جو میلمہ سے بہت بہتر اور نیک انسان تھا۔ آخر پھرتے پھرتے وہ ایک زرد روٹھنگنے قد کے لاشے پر پہنچے مجاہد نے کہا کہ یہ میلمہ ہے جسے تم نے قتل کر دیا ہے۔ خالدؓ نے کہا:

”یہ وہی شخص ہے جس نے تمہیں گمراہ کر کے ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا تھا۔“

مفرورین کا تعاقب اور محاصرہ:

اگرچہ میلمہ کا فتنہ ختم ہو چکا تھا اور وہ خود میدان جنگ میں اپنے ہزاروں آدمیوں کے ہمراہ مارا جا چکا تھا۔ لیکن خالدؓ ابھی مطمئن نہ تھے۔ جنگوں میں آپ کا طریق کار یہ تھا کہ اس وقت تک دشمن کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے جب تک اس کی مخالفانہ سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے کا معمولی سا خدشہ بھی باقی رہتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے طلحہ کے مفرور ہو جانے کے باوجود اس وقت تک بنو اسد سے جنگ بند نہ کی جب تک ام زمل اور اس کے لشکر کا خاتمہ نہ کر

آخر مجبور ہو کر مسلمانوں نے انہیں باغ کی دیوار پر چڑھا دیا۔ دیوار پر چڑھ کر جب براء نے دشمن کی زبردست جمعیت کی جانب نظر دوڑائی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے لیکن پھر اللہ کا نام لے کر باغ کے دروازے کے سامنے کود پڑے اور دشمنوں سے دو دو ہاتھ کرتے، دائیں بائیں لوگوں کو قتل کرتے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ آخر بیسیوں آدمیوں کے قتل کے بعد وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور آگے بڑھ کر بڑی پھرتی سے اسے کھول دیا۔

بنی حنیفہ کا قتل:

مسلمان، باہر دروازہ کھلنے کے منتظر تھے ہی۔ جونہی دروازہ کھلا وہ باغ میں داخل ہو گئے اور تلواریں سونت کر دشمنوں کو بے دریغ قتل کرنے لگے۔ بنو حنیفہ مسلمانوں کے سامنے سے بھاگنے لگے لیکن باغ سے باہر وہ کس طرح نکل سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ صرف براء نے نہیں بلکہ اور بھی کئی مسلمانوں نے دیواریں پھاند کر دروازے کا رخ کیا تھا۔ چونکہ براء نے دروازے کے بالکل قریب دیوار پھاندی تھی۔ اس لیے دروازے پر سب سے پہلے وہی پہنچے اور لڑتے بھڑتے دروازہ کھول دیا۔ بنو حنیفہ نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن دیوار پر جو مسلمان متعین تھے انہوں نے تیر مار مار کر انہیں مسلمانوں سے دور رکھا۔

مسلمہ کا قتل:

مسلمانوں نے اگرچہ باغ میں گھس کر بنو حنیفہ کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر بنو حنیفہ نے بھی بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی طرفین کے کثیر آدمی اس معرکے میں قتل ہوئے لیکن بنی حنیفہ کے مقتولوں کی تعداد مسلمانوں سے بیسیوں گنا تھی۔ حبشی غلام وحشی، جس نے جنگ احد میں حمزہ بن عبدالمطلبؓ کو شہید کیا تھا اور جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گیا تھا، اس موقع پر موجود تھا۔ اس نے مسلمہ

کو باغ میں دیکھا اور اپنا چھوٹا سائیزہ ترک کر میسلہ کے مارا جو سیدھا اسے جا کر لگا۔ اسی وقت ایک انصاری نے بھی میسلہ پر تلوار کا وار کیا۔ وحشی کہا کرتا تھا ”اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم میں سے کس نے اسے قتل کیا۔ لیکن میسلہ اگر مرنے کے بعد زندہ ہوتا تو ہمیشہ ہی یہ کہتا کہ اسے اس سیاہ فام غلام نے قتل کیا ہے۔“

جب بنو حنیفہ نے میسلہ کی خبر موت سنی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ مسلمانوں نے انہیں بے تحاشا قتل کرنا شروع کیا۔ عرب میں اس وقت تک جتنی جنگیں ہوئی تھیں یہاں سے بڑھ کر کسی بھی جنگ میں اتنی خونریزی نہ ہوئی تھی۔ اس لیے حدیقتہ الرحمن کا نام حدیقتہ الموت پڑ گیا اور آج تک تاریخ کی کتابوں میں یہی نام چلا آتا ہے۔

جب باغ کا معرکہ ختم ہو چکا تو خالدؓ اپنے خیمے سے مجاہد کو لے کر آئے اور اس سے کہا کہ وہ مقتولین کو دیکھ کر بتائے ان میں میسلہ کون سا ہے۔ مسلمان خود بھی مقتولین کی شناخت کے لیے باغ میں پھرنے لگے۔ جب وہ محکم الیمامہ کے پاس سے گزرے تو خالدؓ نے پوچھا:

”کیا یہ ہے تمہارا صاحب؟“

مجاہد نے جواب دیا نہیں، یہ تو محکم الیمامہ ہے جو میسلہ سے بہت بہتر اور نیک انسان تھا۔ آخر پھرتے پھرتے وہ ایک زرد روٹھکنے قد کے لاشے پر پہنچے مجاہد نے کہا کہ یہ میسلہ ہے جسے تم نے قتل کر دیا ہے۔ خالدؓ نے کہا:

”یہ وہی شخص ہے جس نے تمہیں گمراہ کر کے ایک عظیم فتنہ برپا کر دیا تھا۔“

مفرورین کا تعاقب اور محاصرہ:

اگرچہ میسلہ کا فتنہ ختم ہو چکا تھا اور وہ خود میدان جنگ میں اپنے ہزاروں آدمیوں کے ہمراہ مارا جا چکا تھا۔ لیکن خالدؓ ابھی مطمئن نہ تھے۔ جنگوں میں آپؐ کا طریق کار یہ تھا کہ اس وقت تک دشمن کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے جب تک اس کی مخالفا نہ سرگرمیاں دوبارہ شروع ہونے کا معمولی سا خدشہ بھی باقی رہتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے طلحہ کے مفرور ہو جانے کے باوجود اس وقت تک بنو اسد سے جنگ بند نہ کی جب تک ام زمل اور اس کے لشکر کا خاتمہ نہ کر

دیا۔ پھر بنی تمیم کا پیچھا اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے والے ایک ایک شخص کا تیا پانچا نہ کر دیا۔ یہی کام آپ نے اس موقع پر بھی کیا۔

جب خالدؓ حدیقۃ الموت کے معرکے سے فارغ ہو چکے تو عبداللہ بن عمرؓ اور عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے ان سے کہا کہ اب لشکر کو کوچ کا حکم دیجیے اور چل کر بنی حنیفہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیجیے کیونکہ بقیہ لوگ فرار ہو کر ان قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ خالدؓ نے جواب دیا فی الحال تو میں دستوں کو ان لوگوں کی تلاش میں روانہ کر رہا ہوں جو قلعوں میں نہیں گئے بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں پھر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہو گا سو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے چاروں طرف دستے روانہ کیے جو ارد گرد سے مال غنیمت اور عورتوں، بچوں کو لے آئے۔ خالدؓ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا اور فوج کو ہدایت کی کہ اب وہ چل کر بنی حنیفہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لے تاکہ ان لوگوں میں جو دم خرم باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔

صلح کی بات چیت:

لیلیٰ ام تمیم کو بنی حنیفہ کے ہاتھوں سے بچانے اور مسلمہ کے بارے میں سچی باتیں کہنے کے باعث خالدؓ کو مجامعہ پر پورا بھروسہ ہو گیا تھا۔ جب مسلمان بنی حنیفہ کے قلعوں کا محاصرہ کر چکے تو وہ خالدؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بنو حنیفہ پر فتح حاصل کر لی ہے۔ یمامہ کے قلعوں میں ہمارے جنگجوؤں کی ایک بھاری تعداد اسلحہ سے لیس ابھی تک موجود ہے۔ وہ لوگ بہت سختی سے آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اگر آپ لڑائی سے بچنا چاہتے ہیں تو مجھے کچھ دیر کے لیے شہر میں جانے کی اجازت دیجیے۔ میں انہیں صلح پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔

خالدؓ کو معلوم تھا کہ لشکر کے لوگ لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بنو حنیفہ پر جو فتح انہوں نے حاصل کی تھی اسی پر اکتفا کریں اور مزید جنگ و جدل سے پرہیز کریں۔ انہوں نے سوچا کہ مجامعہ کی بات مان لینی چاہیے۔ چنانچہ اسے جانے کی اجازت تو مرحمت فرمادی لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ صلح میں بنو حنیفہ کو غلام نہ بنانے کی شرط شامل نہ ہوگی۔

مجاہد کی چال بازی:

مجاہد نے شہر میں جا کر دیکھا کہ وہاں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس نے انہیں زرہ بکتر پہنائے اور سکھا دیا کہ وہ سب قلعے کی فصیل پر جمع ہو جائیں تاکہ مسلمان انہیں دیکھ کر ان کی کثرت تعداد سے دھوکا کھا جائیں اور ہماری پیش کردہ شرائط پر صلح کر لیں۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا اور زرہ بکتر پہن کر اور تلواریں اور نیزے ہاتھ میں لے کر فصیل پر پہنچ گئے۔ جب باہر سے خالدؓ اور مسلمانوں نے یہ نظارہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ مجاہد نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا۔ واقعی ابھی بنو حنیفہ میں دم خم باقی ہے اور وہ ابھی مزید لڑنے کی تاب رکھتے ہیں۔

خالدؓ اور بنو حنیفہ میں صلح:

تھوڑی دیر میں مجاہد بھی پہنچ گیا اور کہا: میری قوم آپ کی شرائط پر صلح کرنا نہیں چاہتی اور میں نے آپ سے جو عہد و پیمان کیے تھے وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خالد دوبارہ لڑائی چھیڑنا نہ چاہتے تھے۔ انہوں نے مجاہد سے کہا: ہم نصف مال اسباب، نصف مزرعہ باغات اور نصف قیویوں کو بنی حنیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے، تم انہیں جا کر سمجھاؤ کہ وہ اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالیں اور صلح کر لیں۔ مجاہد دوبارہ شہر میں گیا اور واپس آ کر کہا: وہ لوگ ان شرائط پر بھی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ چوتھائی مال اسباب لینے پر رضامند ہو جائیں۔ خالد راضی ہو گئے اور صلح نامہ لکھا گیا۔ صلح کے بعد جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کسی جوان مرد کا نام و نشان بھی نہیں۔ انہوں نے مجاہد سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے دھوکا کیوں کیا؟ اس نے کہا ”میری قوم تباہ ہو جاتی۔ میرا فرض تھا کہ ان کی جانیں بچاؤں۔ اس لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔“ خالدؓ نے اس کا عذر قبول کر لیا اور صلح نامہ برقرار رکھا۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ صلح نامہ لکھے جانے سے پہلے جب مجاہد شہر میں گیا اور لوگوں سے صلح کی بات چیت کی تو ایک شخص سلمہ بن عمیر الحنفی نے کہا ”واللہ! ہم تمہاری بات کبھی نہ مانیں گے کیونکہ ہمارے قلعے مضبوط ہیں، سامان خوراک وافر مقدار میں

دیا۔ پھر بنی تمیم کا پیچھا اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے والے ایک ایک شخص کا تیاپا نچانہ کر دیا۔ یہی کام آپ نے اس موقع پر بھی کیا۔

جب خالدؓ حقیقتہ الموت کے معرکے سے فارغ ہو چکے تو عبداللہ بن عمرؓ اور عبدالرحمن بن ابی بکرؓ نے ان سے کہا کہ اب لشکر کو کوچ کا حکم دیجیے اور چل کر بنی حنیفہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیجیے کیونکہ بقیہ لوگ فرار ہو کر ان قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ خالدؓ نے جواب دیا فی الحال تو میں دستوں کو ان لوگوں کی تلاش میں روانہ کر رہا ہوں جو قلعوں میں نہیں گئے بلکہ ارد گرد کے علاقوں میں پھر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہوگا سودیکھا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے چاروں طرف دستے روانہ کیے جو ارد گرد سے مال غنیمت اور عورتوں، بچوں کو لے آئے۔ خالدؓ نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا اور فوج کو ہدایت کی کہ اب وہ چل کر بنی حنیفہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لے تاکہ ان لوگوں میں جو دم خنم باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔

صلح کی بات چیت:

لیلیٰ ام تمیم کو بنی حنیفہ کے ہاتھوں سے بچانے اور مسلمانوں کے بارے میں سچی باتیں کہنے کے باعث خالدؓ کو مجامعہ پر پورا بھروسہ ہو گیا تھا۔ جب مسلمان بنی حنیفہ کے قلعوں کا محاصرہ کر چکے تو وہ خالدؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بنو حنیفہ پر فتح حاصل کر لی ہے۔ یمامہ کے قلعوں میں ہمارے جنگجوؤں کی ایک بھاری تعداد اسلحہ سے لیس ابھی تک موجود ہے۔ وہ لوگ بہت سختی سے آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اگر آپ لڑائی سے بچنا چاہتے ہیں تو مجھے کچھ دیر کے لیے شہر میں جانے کی اجازت دیجیے۔ میں انہیں صلح پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا۔

خالدؓ کو معلوم تھا کہ لشکر کے لوگ لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بنو حنیفہ پر جو فتح انہوں نے حاصل کی تھی اسی پر اکتفا کریں اور مزید جنگ و جدل سے پرہیز کریں۔ انہوں نے سوچا کہ مجامعہ کی بات مان لینی چاہیے۔ چنانچہ اسے جانے کی اجازت تو مرحمت فرمادی لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ صلح میں بنو حنیفہ کو غلام نہ بنانے کی شرط شامل نہ ہوگی۔

”اے خلیفہ رسول اللہ! ہمارا سارا حال آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ مسئلہ نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکا اور نہ اس کے رشتہ داروں اور قوم کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکا۔“

مجاہد کا فریب اور خالدؓ کی مصالحت:

اس موقع پر شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ آخر خالدؓ مجاہد کی فریب دہی کے باوجود کس طرح مصالحت پر تیار ہو گئے حالانکہ ان کی سختی ضرب المثل بن چکی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہونے کے علاوہ بنی حنیفہ کی جنگوں میں اس قدر خونریزی ہو چکی تھی کہ خالدؓ نے آخر ان سے درگزر کرنا اور رعایات سے بہرہ ور کرنا ہی مناسب خیال کیا۔

بنی حنیفہ کے مقتولین کی تعداد:

روایات سے پتا چلتا ہے کہ حدیقۃ الموت کی لڑائی میں سات ہزار بنی حنیفہ قتل ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں بھی ان کے مقتولین کی تعداد سات ہزار تھی۔ اس کے بعد جب خالدؓ نے اپنے دستوں کو مفرورین کے تعاقب میں روانہ کیا تو بھی سات ہزار آدمی قتل ہوئے۔ جو صلح مجاہد کے ذریعے سے پایہ تکمیل کو پہنچی اس کی رو سے سارا مال غنیمت، جو سونے چاندی اور ہتھیاروں پر مشتمل تھا، مسلمانوں کی ملکیت ٹھہرا، اس کے علاوہ چوتھائی قیدی بھی ان کے حصے میں آئے۔ بنی حنیفہ کی بستیوں اور علاقے میں جو باغات اور مزرعہ زمینیں تھیں ان پر بھی خالدؓ کا قبضہ تسلیم کیا گیا۔

یہ درست ہے کہ مجاہد نے اپنی قوم کے بقیۃ السیف لوگوں کو قتل ہونے سے بچالیا تھا لیکن یہ تمام لوگ دوبارہ اسلام قبول کر کے ابو بکرؓ کی حکومت تسلیم کر چکے تھے۔ اس لیے اب خالدؓ کے واسطے کوئی وجہ ایسی باقی نہ رہی تھی جس سے وہ مجاہد پر ناراض ہوتے یا اس سے انتقام لیتے۔

ہمارے پاس موجود ہے، سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے، مسلمان سخت سردی کی تاب نہ لا کر محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔“

مجاہد نے جواب دیا:

”یہ محض تمہاری خوش فہمی ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہیں صلح پر آمادہ کر کے تم لوگوں سے دھوکا کرنے لگا ہوں۔ حالانکہ یہ بات نہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ابن مسلمہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کہا تھا۔ ”اے لوگو! قبل اس کے کہ تمہاری عورتیں قیدی بنالی جائیں اور غیر جگہ ان کے نکاح کر دیئے جائیں، تم مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو۔ میں بھی تمہیں اسی خطرے سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تم صلح کر لو اور اپنی جان کے دشمن نہ بنو۔“

جب لوگوں نے مجاہد کی باتیں سنیں تو وہ صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے اور سلمہ بن عمیر کی بات کو ناقابل عمل سمجھ کر ترک کر دیا۔

بنی حنیفہ ابوبکرؓ کی خدمت میں:

دریں اثناء ابوبکرؓ کا قاصد خالدؓ کے پاس یہ حکم لے کر آیا کہ اس شخص کو، جو لڑائی کے قابل ہو، قتل کر دیا جائے۔ لیکن خالدؓ ان سے صلح کر چکے تھے۔ انہوں نے صلح توڑنا اور بد عہدی کرنا نہ چاہا۔ اس کے بعد بنو حنیفہ بیعت کرنے اور مسلمہ کی نبوت سے براءت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ تمام لوگ خالدؓ کے پاس لائے گئے جہاں انہوں نے بیعت کی اور اپنے دوبارہ اسلام لانے کا اعلان کیا۔ خالدؓ نے ان کا ایک وفد ابوبکرؓ کی خدمت میں مدینہ روانہ فرمایا۔ جب وہ لوگ ابوبکرؓ کے پاس پہنچے تو انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

”آخر تم لوگ مسلمہ کے پھندے میں پھنس کر کس طرح گمراہ ہو

گئے؟“

انہوں نے جواب دیا:

مسلمان؟ اور کیا انسانی خون کے مہیب ودہشت ناک سیلاب اور لاشوں کی کثرت نے ان کے دل میں گھبراہٹ کا کوئی جذبہ پیدا کیا تھا؟ ہرگز نہیں اگر خالدؓ کی بھی یہ حالت ہوتی تو وہ آئندہ کبھی سپہ سالاری کے قابل نہ رہتے اور انہیں عراق و شام کے فاتح بننے کا فخر کبھی حاصل نہ ہوتا۔ اسی لیے نہ خالدؓ کو اس دوران میں کسی قسم کا خوف لاحق ہوا اور نہ انہوں نے کبھی گھبراہٹ اور بے چینی کا اظہار کیا۔

جونہی وہ صلح نامے کی تکمیل سے فارغ ہوئے انہوں نے مجاہد کو بلا بھیجا اور کہا اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ مجاہد نے لیلیٰ ام تمیم کا واقعہ، دارالحکومت میں خالدؓ کی طلبی اور ابو بکرؓ کی ناراضگی کا حال سنا ہوا تھا اس لیے اس نے جرات کر کے کہا ”مجھے اس سے معاف کیجیے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ میری کمر توڑ دینے کا موجب بنیں گے اور خود بھی ابو بکرؓ کے عتاب سے نہ بچ سکیں گے۔“

لیکن خالدؓ نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا:

”تمہیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنی پڑے گی۔“

اس پر مجبوراً مجاہد کو اپنی بیٹی کی شادی خالدؓ سے کرنی پڑی۔

اس شادی پر ابو بکرؓ کی ناراضگی:

جب خالدؓ کے اس فعل کی اطلاع ابو بکرؓ کو ہوئی تو انہیں شدید غصہ آیا۔ ام تمیم کے واقعے پر تو انہوں نے یہ کہہ کر خالدؓ کی مدافعت کی تھی کہ انہوں نے مالک کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے اسے قتل نہ کیا تھا بلکہ یہ محض غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا۔ پھر اس موقع پر کسی ایک بھی مسلمان کی جان ضائع نہ ہوئی تھی لیکن مجاہد کی بیٹی سے شادی تو اس حال میں ہوئی کہ بارہ سو مسلمانوں کی لاشیں خاک و خون میں غلطاں میدان جنگ میں پڑی تھیں اور تمام قبائل عرب میں ایک ماتم برپا تھا۔ وہ بے حد حلیم الطبع ہونے کے باوجود اپنے غصے پر قابو نہ پاسکے اور خالدؓ کو ایک سخت خط لکھا۔ انہوں نے تحریر فرمایا:

”اے خالدؓ بن ولید! تمہیں کیا ہوا؟ تم عورتوں سے نکاح کرتے

پھرتے ہو حالانکہ تمہارے خیمے کے سامنے بارہ سو مسلمانوں کا خون

مسلمان شہداء کی تعداد:

اس جنگ میں جہاں بنی حنیفہ کے مقتولین کی تعداد پچھلی تمام جنگوں سے زیادہ تھی وہاں مسلمان شہداء کی تعداد بھی پچھلی تمام جنگوں کو مات کر گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد بارہ سو تھی۔ تین سو ستر مہاجرین، تین سو انصار اور باقی دیگر قبائل کے لوگ، ان شہداء میں تین سو ستر صحابہ کبار اور قرآن کے حافظ بھی تھے جن کا مقام اور درجہ مسلمانوں میں بے حد بلند تھا۔ اگرچہ ان حافظوں کی شہادت سے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا لیکن بعض اوقات ایک نقصان دہ چیز بھی آخر فائدے کا موجب بن جاتی ہے چنانچہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ابو بکرؓ نے اس ڈر سے کہ کہیں آئندہ جنگوں میں بقیہ حافظوں سے بھی مسلمانوں کو ہاتھ نہ دھونے پڑیں، قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیا اور اس طرح پہلی مرتبہ قرآن کریم ایک جلد میں مدون کیا گیا۔

مسلمانوں کا حزن و الم:

مسلمانوں کی بھاری تعداد کے شہید ہو جانے سے ان کے رشتہ داروں کو جس صدمے سے دوچار ہونا پڑا تھا اس کی تلافی صرف یہ چیز کر سکتی تھی کہ گو مسلمانوں کو کئی قیمتی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا پھر بھی فتح کا شرف انہیں کے حصے میں آیا۔ عمرؓ بن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ جنگ یمامہ میں بہادری کے عظیم کارنامے انجام دینے کے بعد مدینہ واپس آئے تو ان کے والد نے کہا:

”جب تمہارے چچا زید شہید ہو گئے تھے تو تم واپس کیوں آ گئے اور

کیوں نہ اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لیا؟“

صرف عمرؓ ہی کا یہ حال نہ تھا بلکہ مکہ اور مدینہ کے سینکڑوں گھرانے اپنے بہادروں

اور سپوتوں کی شہادت پر خون کے آنسو بہا رہے تھے۔

بنت مجاعہ سے خالدؓ کی شادی:

کیا خالدؓ بھی غم اور حزن سے اسی طرح بے تاب تھے جس طرح دوسرے

دسواں باب

بقیہ محاربات ارتداد

بحرین، عمان، مہرہ، یمن، کندہ اور حضر موت:

شمالی عرب کے منکرین زکوٰۃ اور مرتد قبائل خالد بن ولید کی فوج کشی کے نتیجے میں خلیفہ رسول اللہؐ کی اطاعت قبول کر کے دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ان قبائل کی حدود عرب کے شمال مشرقی حصے سے شروع ہو کر انتہائی مشرق میں خلیج فارس تک اور وہاں سے نیچے اتر کر مکہ کے جنوب مشرق تک پھیلی ہوئی تھیں حالانکہ جب ابو بکرؓ نے زمام خلافت سنبھالی تھی تو ان کا دائرہ اقتدار مدینہ، مکہ اور طائف کے درمیان ایک چھوٹے سے مثلث نما خطے تک محدود تھا۔

مدینہ کے شمالی علاقے کے قبائل کی بغاوت نے بنی اسد اور بنی حنیفہ کی طرح خطرناک رنگ اختیار نہ کیا اور دومۃ الجندل کے سوا باقی تمام علاقوں نے کسی خاص قسم کی جدوجہد کے بغیر آسانی سے ابو بکرؓ کی اطاعت قبول کر لی۔

دومۃ الجندل کا حاکم اس زمانے میں اکیدر کنڈی تھا۔ وہ بدستور اسلامی حکومت کے مقابلے میں ڈٹا رہا۔ آخر عراق کی فتوحات کے دوران میں خالد بن ولید نے اسے زیر کیا۔

جنوبی قبائل کا اصرار بغاوت:

جہاں تک جنوبی علاقے کا تعلق ہے وہاں کے قبائل نے شمالی علاقے کے واقعات سے مطلق نصیحت حاصل نہ کی اور بدستور ابو بکرؓ کے خلاف بغاوت پر آمادہ اور ارتداد

زمین پر پھیلا ہوا ہے جس کے خشک ہونے کی نوبت نہیں آئی۔“
 خالدؓ کو ابو بکرؓ کے خط سے بہت رنج ہوا۔ انہوں نے سر ہلا کر کہا ”ہو نہ ہو یہ سب
 کچھ عمر بن خطاب کی کارستانی ہے۔“ لیکن یہ معاملہ ابو بکرؓ کے خط اور اس پر خالدؓ کے اظہار
 افسوس سے آگے نہ بڑھا۔

یمامہ کی جنگ میں خالدؓ نے مرتدین کی کمر توڑ ڈالی تھی اور اب ان کے لیے
 خاموشی سے ابو بکرؓ کی اطاعت اور دوبارہ اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا
 تھا۔ مہرہ، عمان اور یمن کی جنگیں، جو جنگ یمامہ کے بعد وقوع پذیر ہوئیں، جنگ یمامہ سے
 زیادہ خطرناک نہ تھیں اس لیے ابو بکرؓ کو قدرے اطمینان کا سانس لینے اور خالدؓ کو تھوڑا آرام
 کرنے کا موقع مل گیا۔ خالدؓ نجاء کی بیٹی اور ام تمیم کو لے کر یمامہ کی ایک وادی ”ویر“ میں مقیم
 ہو گئے حالانکہ انہیں ابو بکرؓ کی جانب سے عراق جا کر ایرانیوں سے لڑنے کا حکم ملا تھا۔



اسلام لانے کے بعد رسول اللہؐ نے اسے بدستور یہاں کا حاکم مقرر کیے رکھا۔ بحرین اور عمان بھی ایرانی عمل داری میں شامل تھے اور کثیر التعداد ایرانیوں نے بحرین اور عمان میں سکونت اختیار کر کے انہیں اپنا وطن بنا لیا تھا۔ اس وجہ سے ایرانی اقتدار میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ جب کبھی سلطنت ایران کو عربوں کی جانب سے بغاوت کا خطرہ ہوتا اور عرب ان کے اثر و اقتدار کو زائل کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ان ایرانی نژاد لوگوں سے کام لے کر اس بغاوت کو فرو کر دیتی اور آزادی کی جدوجہد کو ناکام بنا دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہؐ کے عہد میں عرب کے جن علاقوں کو سب سے آخر میں اسلام لانے کی توفیق ملی وہ عمان اور بحرین کے علاقے تھے۔ رسول اللہؐ کی وفات کے بعد انہیں نے سب سے اول ارتداد اختیار کیا مگر جب سخت جنگوں کے بعد فتنہ ارتداد پاس پاش ہو گیا اور اہل عرب دوبارہ ایک دینی اور سیاسی وحدت پر جمع ہو گئے تو یہی لوگ تھے جو سخت مجبور ہو کر سب سے آخر میں اسلام لائے۔

ان علاقوں میں جگہائے ارتداد کے زمانہ وقوع کے متعلق مورخین میں خاصا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ جنگیں ۱۱ھ میں وقوع پذیر ہوئیں اور بعض کہتے ہیں ۱۲ھ میں۔ پھر بھی یہ اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ بہر حال یہ امر مسلم ہے کہ یہ جنگیں ابو بکرؓ کی خلافت کے اوائل سے شروع ہوئیں اور اس وقت تک ختم نہ ہوئیں جب تک سارے عرب نے کمالاً ان کی اطاعت قبول نہ کر لی۔ ابتداً شمالی عرب سے ہوئی اور وہاں کے مرتدین کا قلع قمع ہونے کے بعد جنگوں کا رخ جنوبی علاقے کی طرف پھر گیا۔

جغرافیائی محل وقوع کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ جنوبی علاقے میں سرگرمیوں کی ابتداء وہ یا تو بحرین سے کرتے اور عمان، مہرہ، حضر موت کے علاقوں کو زیر کرتے ہوئے یمن تک پہنچ جاتے یا اپنی کارروائیاں یمن سے شروع کرتے اور حضرت موت مہرہ اور عمان کے لوگوں کی سرکوبی کرتے ہوئے ان کارروائیوں کا اختتام بحرین پر کرتے۔

پر جسے رہے۔ اسی سبب سے جنوبی قبائل اور مسلمانوں کے درمیان مدت دراز تک جدال و قتال کا سلسلہ جاری رہا۔

جنوبی علاقہ جو نصف عرب پر مشتمل ہے، خلیج فارس سے یمن کے عمال میں بحیرہ احمر تک پھیلا ہوا ہے اور اس میں بحرین، عمان، مہرہ، حضرموت، کندہ اور یمن کے صوبے واقع ہیں۔ مشرقی علاقوں سے مغربی علاقوں تک اور مغربی علاقوں سے مشرقی علاقوں تک آنے جانے کے لیے مذکورہ بالا تمام صوبوں سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ تمام صوبے خلیج فارس، خلیج عدن اور بحیرہ احمر کے ساحلی علاقوں پر واقع ہیں اور یمن کے سوا باقی تمام کی چوڑائی بہت کم ہے۔ اتنی کم کہ ان کی حدود اور ساحل بحر کا فاصلہ چند میل کا ہے۔ عرب کا سارا جنوبی علاقہ، جو ان صوبوں کو گھیرے ہوئے ہے، ایک خوفناک لقلعہ و دق صحرا پر مشتمل ہے جسے عبور کرنا کسی صورت ممکن نہیں۔ اس صحرا کو دیکھ کر آج بھی اسی طرح دہشت طاری ہو جاتی ہے جس طرح پہلے زمانوں میں ہوتی تھی۔ اسے ”ربع الخالی“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

جنوبی عرب میں ایرانی اثر و نفوذ:

ان صوبوں کے محل وقوع پر ایک نظر ڈالنے سے صاف پتا چل جاتا ہے کہ ان میں ایرانی اثر و نفوذ بہت آسانی سے راہ پاسکتا تھا۔ شمالی اور جنوبی علاقوں کے مابین آمد و رفت کا سلسلہ بے حد دشوار تھا کیونکہ درمیان کے ہولناک اور ویران صحرا کو قطع کرنا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ حجاز سے عمان و بحرین تک پہنچنے اور عمان و بحرین سے حجاز تک جانے کے لیے طول و طویل ساحلی علاقہ اختیار کرنا پڑتا تھا۔ اس لحاظ سے بحرین، عمان، حضرموت اور یمن کے مشرقی و جنوبی صوبے حجاز کے شمالی علاقے سے تقریباً کٹ کر رہ گئے تھے۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر ایرانی شہنشاہوں نے ان علاقوں پر توجہ مبذول کی اور یہاں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔

ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ یمن ”بدھان“ کے اسلام قبول کرنے تک ایرانی عمل داری میں شامل رہا۔ ”بدھان“ ابتداء میں کسریٰ کی جانب سے اس علاقے کا عامل تھا۔

بحرین میں ارتداد کا آغاز:

جس مہینے رسول اللہؐ نے وفات پائی اسی مہینے منذر بن ساوی کا بھی انتقال ہوا اور عرب کے دوسرے علاقوں کی طرح بحرین والے بھی سب کے سب مرتد ہو گئے۔ رسول اللہؐ کے ایلچی علاء حضرمی کو بحرین سے نکلنا پڑا لیکن جارود بن معلیٰ عبدی بدستور اسلام پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنی قوم بنو عبد القیس سے ارتداد کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا:

”اگر محمد نبیؐ ہوتے تو کبھی وفات نہ پاتے۔“

جارود نے پوچھا:

”تم جانتے ہو محمدؐ سے پہلے بھی اللہ اپنے انبیاء کو مبعوث فرماتا رہا۔ وہ سب کے سب کہاں گئے؟“

انہوں نے جواب دیا:

”فوت ہو گئے۔“

جارود نے کہا:

”جس طرح دیگر انبیاء فوت ہو گئے اسی طرح محمد رسول اللہؐ بھی فوت ہو گئے۔ اگر دوسرے انبیاء کے فوت ہونے سے ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو رسول اللہؐ کے فوت ہونے سے آپ کی نبوت کس طرح زائل ہو سکتی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اس کے بندے اور رسول ہیں۔“

جارود کی باتوں کا ان کی قوم پر بہت اثر ہوا اور وہ لوگ دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔

بنو عبد القیس کو اسلام لے آئے لیکن بحرین کے دوسرے قبائل حطم بن ضبیعہ کے زیر سرکردگی بدستور حالت ارتداد پر قائم رہے اور انہوں نے بادشاہی کو دوبارہ آل منذر میں منتقل کر کے منذر بن نعمان کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے جارود اور قبیلہ بنی عبد القیس کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کوشش میں یکسر ناکامی ہوئی۔

جنگی کارروائی کا آغاز:

تمام حالات کے پیش نظر مسلمانوں نے بحرین سے جنگی کارروائی کا آغاز کرنا مناسب خیال کیا۔ کیونکہ اول تو بحرین یمامہ سے بالکل نزدیک تھا اور یمامہ میں عقرباء کے مقام پر وہ ابھی ابھی بنی حنیفہ کے مقابلے میں عظیم الشان فتح حاصل کر چکے تھے جس کی وجہ سے ان کی دھاک تمام قبائل عرب پر بیٹھ چکی تھی۔ دوسرے یمن کے مقابلے میں یہاں سے کارروائی کا آغاز کرنا نسبتاً سہل بھی تھا۔ اگر یہاں کامیابی حاصل ہو جاتی تو اس کا اثر دوسرے قبائل پر پڑنا لازم تھا۔

پھر بھی اس بیان سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بحرین پر مسلمانوں کا تسلط کسی خاص کوشش کے بغیر ہو گیا تھا۔ بحرین اصل میں ہجر سے ملحق ایک تنگ ساحلی پٹی ہے جو خلیج فارس کے کنارے قطیف سے عمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ بعض جگہوں پر تو صحرا اس پٹی کو قطع کرتا ہوا خلیج تک پہنچ گیا ہے۔ شمال مغربی جانب وہ یمامہ سے ملحق ہے۔ یمامہ اور بحرین کے درمیان اونچے نیچے ٹیلوں کا ایک سلسلہ ہے جسے عبور کرنا چنداں دشوار نہیں۔ ربیعہ کے قبائل: بنی بکر اور بنی عبد القیس کا قیام بحرین اور ہجر کے علاقوں میں تھا۔ ان علاقوں میں تاجروں کی ایک جماعت بھی مقیم تھی جو ہندوستان اور ایران سے آئے تھے اور دریائے فرات کے دہانے سے عدن کے ساحلی علاقے تک کے درمیانی خطے میں آباد ہو گئے تھے۔ ان تاجروں نے یہاں کے مقامی باشندوں سے سلسلہ ازدواج بھی قائم کر لیا تھا اور ان سے جو نسل پیدا ہوئی تھی اس سے ”الانباء“ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بحرین کے علاقے کا بادشاہ ایک عیسائی، منذر بن ساوی العبدی تھا۔ ۹ھ میں جب رسول اللہؐ نے اپنے قاصد علاء بن حضرمی کو اس کے پاس بھیجا تو یہ اسلام لے آیا جس پر رسول اللہؐ نے اسے بدستور بحرین کا حاکم مقرر کیے رکھا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے اپنی قوم کو بھی دین حق کی دعوت دینی شروع کی اور جارود بن معلیٰ کو دینی تربیت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہؐ کی خدمت میں روانہ کیا۔ جارود نے مدینہ پہنچ کر اسلامی تعلیمات اور احکام سے واقفیت حاصل کی اور اپنی قوم میں واپس جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کراانے کا کام شروع کر دیا۔

سے انہوں نے جارود کو، جو بنی عبدالقیس کے ساتھ قلعہ بند تھے پیغام بھیجا کہ اسلامی لشکر آپہنچا اس لیے گھبراہٹ کی کوئی وجہ نہیں۔ خود انہوں نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ محاذ جنگ اور دشمنوں کا جائزہ لینے سے انہیں معلوم ہوا کہ مرتدین اس قدر بھاری تعداد میں ان کے مقابلے کے لیے موجود ہیں کہ بے سوچے سمجھے ان پر حملہ کرنا مناسب نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے لشکر کے ارد گرد خندق کھدوائی اور اس کے پیچھے لشکر لے کر پڑاؤ ڈال دیا۔ کبھی کبھی وہ خندق عبور کر کے مرتدین پر حملہ کرتے اور تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد پھر خندق کے پیچھے ہٹ آتے۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ کسی فریق کو معلوم نہ تھا کہ لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ آخر ایک رات مسلمانوں کو مرتدین پر بھرپور حملہ کرنے کا موقع مل ہی گیا جس سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے دشمن کو تہس نہس کر ڈالا۔

واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک رات لشکر گاہ مشرکین کی طرف سے سخت شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ علاء بن حضرمی نے اپنے جاسوسوں کو خبر لانے کے لیے دشمنوں کے کیمپ میں روانہ کیا۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ مشرکین کا لشکر شراب میں دھت ہے اور وہاں تباہی بک رہا ہے۔ علاء نے موقع غنیمت جان کر فوج کو ہمراہ لیا اور خندق عبور کر کے دشمن کے لشکر میں داخل ہوتے ہی اسے گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمن نے کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ سینکڑوں لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے خندق میں گر پڑے۔ بیسیوں لوگوں کو گھبراہٹ اور دہشت کی وجہ سے کہیں جائے فرار نہ ملتی تھی اور وہ اسی حالت میں قتل کر دیئے گئے۔ ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اسی ہنگامے کے دوران میں قیس بن عاصم نے حطم کوزمین پر گرا ہوا پایا۔ اس نے جھٹ تلواریں نکال آن کی آن میں اس کا کام تمام کر دیا۔ عذیف بن منذر الغرور کو مسلمانوں نے زندہ گرفتار کر لیا۔ جب وہ علاء کے سامنے پیش کیا گیا تو علاء نے کہا:

”تمہیں تھے جنہوں نے ان لوگوں کو دھوکا دیا تھا؟“

غرور نے کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور کہا:

”میں دھوکا دینے والا نہیں البتہ اپنی طاقت پر ناز ضرور تھا۔“

یہ سن کر علاء نے اسے معاف کر دیا۔

اس پر حطم بن ضبیعہ نے طاقت کے زور سے انہیں زیر کرنا چاہا۔ اس نے قطیف اور ہجر میں مقیم غیر ملکی تاجروں اور ان لوگوں کو، جنہوں نے اس سے قبل اسلام قبول نہ کیا تھا، اپنے ساتھ ملا لیا اور قصبہ جراثی کے قریب جا رو اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ نہایت سخت تھا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بنو عبد القیس جاں بہ لب ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے انتہائی ثابت قدمی دکھائی اور دوبارہ ارتداد اختیار کرنا قبول نہ کیا۔

علاء بن حضرمی کی روانگی:

بحرین سے ارتداد کی خبریں موصول ہونے پر ابو بکرؓ نے علاء بن حضرمی کو مرتدین کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ دریں اثناء خالد بن ولید، مسلمہ اور ان کے پیروؤں کو عقرباء میں عبرتناک شکست دے چکے تھے۔ اس لیے جب علاء یمامہ سے گزرے تو بنی حنیفہ کی ایک کثیر جمعیت ثمامہ بن اثال اور قیس بن عاصم منقری کے زیر سرکردگی ان کے ساتھ ہوئی۔ اہل یمن اور بعض دیگر قبائل کے لوگ بھی کثیر تعداد میں ان کے لشکر میں شامل تھے جنہیں یقین تھا کہ مسلمان آخر سارے عرب پر قابض ہو جائیں گے کیونکہ ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ قوت و طاقت ہی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ چنانچہ قیس بن عاصم جو اپنے قبیلے بنو تمیم کو لے کر علاء کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، اس سے پہلے منکرین زکوٰۃ کی صف اول میں شامل تھے قبیلے کی زکوٰۃ انہوں نے مدینہ بھیجی بالکل بند کر دی تھی اور زکوٰۃ کا جمع شدہ مال لوگوں کو واپس کر دیا تھا لیکن جب خالدؓ نے بنو حنیفہ کو زیر کر لیا اور ان کے سب کس بل نکال دیئے تو قیس کو عافیت اسی میں نظر آئی کہ وہ خاموشی سے مسلمانوں کے آگے سر اطاعت خم کر دیں۔ چنانچہ جب علاء بن حضرمی یمامہ سے گزرے تو موقعہ کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے قبیلے سے زکوٰۃ دوبارہ اکٹھی کی اور اسے لے کر علاء سے مل گئے اور ان کے ساتھ ہی اہل بحرین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔

مرتدین بحرین کی شکست:

علاء بن حضرمی لشکر لے کر بحرین پہنچے اور حطم کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ وہاں

ہیں۔ جب ہولناک صحراء ہمیں مرعوب نہ کر سکے تو سمندر ہمارے آگے کیا چیز ہے۔“

چنانچہ لشکر نے تیاریاں شروع کر دیں۔ ساحل بحر پر پہنچ کر وہ گھوڑوں، گدھوں، خچروں، اونٹوں پر سوار ہوئے اور اللہ کا نام لے کر انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ کی قدرت سے انہیں مطلق نقصان نہ پہنچا۔ ان کی سواریاں سمندر میں اس طرح جا رہی تھیں جیسے خشکی پر سفر کر رہی ہوں۔ سمندر کا پانی اونٹوں کے صرف پاؤں تک تھا۔

ممکن ہے کہ اس وقت خلیج فارس میں جزر آیا ہو یا روایات میں مبالغہ ہو اور درحقیقت مسلمانوں کو مقامی باشندوں کے ذریعے سے کشتیاں دستیاب ہو گئی ہوں جن پر سوار ہو کر انہوں نے سمندر عبور کیا ہو (اگرچہ کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں) پھر بھی اس میں شبہ نہیں کہ مسلمان دارین تک پہنچ ہی گئے اور مفرو رین کا سخت مقابلہ کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنالیا۔ اس جنگ میں انہیں کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس کی کثرت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ سوار کے حصے میں چھ ہزار درہم اور پیدل کے حصے میں دو ہزار درہم آئے۔^۱

بحرین کو علاء کی واپسی:

دارین سے فراغت حاصل کر کے علاء بن حضرمی بحرین واپس پہنچے۔ لشکر کے چند لوگوں نے دارین ہی میں رہنا پسند کیا، باقی علاء کے ساتھ آ گئے۔ بحرین پہنچ کر انہوں نے ابو بکرؓ کی خدمت میں فتح کی خوش خبری بھیجی اور خود مزید احکام ملنے تک بحرین میں مقیم رہے۔ اب اگر انہیں خطرہ تھا تو بعض ان بدوی قبائل کی طرف سے جن کا پیشہ ہی لوٹ مار اور غارت گری تھا، یا ایرانیوں کی فریب کاریوں کا جن کے اثر و نفوذ کو مسلمانوں کی پیش قدمی کے نتیجے میں سخت دھچکا لگا تھا۔ پھر بھی وہ اس طرف سے بڑی حد تک مطمئن تھے کیونکہ دارین جانے سے پہلے ہی بحرین کے متعدد قبائل اور انباء نے سچے دل سے ان کی اطاعت

۱۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ علاء نے اس موقع پر جنگ نہیں کی اور یہ جزیرہ بہ دستور اسلامی سلطنت سے الگ تھلگ رہا اور عمر بن خطاب کے زمانے میں اس کی فتح عمل میں آئی۔

دارین میں مفرورین کی پناہ:

جو لوگ قتل اور قید ہونے سے بچ گئے تھے انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرہ دارین میں پناہ لی۔ علاء نے فی الحال ان سے تعرض نہ کیا بلکہ اپنی توجہ بحرین کے دوسرے علاقوں میں امن وامان قائم رکھنے پر مبذول کی۔ جب سارے علاقے میں امن قائم ہو گیا، قبائل نے اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر لی اور علاء کے لشکر میں بھی معتد بہ اضافہ ہو گیا تو انہوں نے لشکر کو دارین پر حملہ کرنے کا حکم دیا تا کہ کسی مرتد کے لیے کوئی جائے فرار جائے پناہ باقی نہ رہے۔

دارین کی فتح:

دارین خلیج فارس کا ایک جزیرہ ہے جو بحرین کے بالمقابل چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں بعض عیسائی خاندان آباد تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ علاء نے جب مسلمانوں کو اس جزیرے پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو ان کے پاس کشتیاں نہ تھیں جن پر سوار ہو کر وہ جزیرے تک پہنچتے۔ یہ دیکھ کر علاء کھڑے ہوئے اور کہا:

”اے لوگو! تمہیں اللہ نے خشکی میں اپنے نشانات دکھائے ہیں۔ کیا

وہ سمندر میں اپنے نشانات نہیں دکھا سکتا؟ اس نے خشکی میں نشانات

اسی لیے دکھائے ہیں کہ سمندر کی مہموں میں بھی تمہارے حوصلے قائم

رہیں۔ اس لیے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور بے

دھڑک سمندر میں کود پڑو، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو گا۔ کیا تم دیکھتے

نہیں کہ اللہ نے تمام مرتدین کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور تم آسانی

سے ان پر غلبہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو

اور کمر ہمت کس کر سمندر کی موجوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“

لشکر نے یک زبان ہو کر جواب دیا:

”اے ہمارے سردار! ہم ہر وقت آپ کا حکم بجالانے کے لیے تیار

عمان میں فتنہ ارتداد کا بانی:

عمان میں فتنہ ارتداد کا بانی ذوالتاج لقیط بن مالک ازدی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ رکھا تھا۔ ابو بکرؓ نے حمیر کے ایک شخص حذیفہ بن محسن غلفانی کو عمان اور قبیلہ ازد کے ایک شخص عرفجہ بن ہرثمہ البارقی کو ہرہ بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ سفر کریں اور جنگوں کا آغاز عمان سے کریں۔ جب عمان میں جنگ ہو تو حذیفہ قائد ہوں گے اور جب مہرہ میں جنگ پیش آئے تو عرفجہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دیں گے۔

اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ابو بکرؓ نے عکرمہ بن ابو جہل کو یمامہ میں فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور شر حبیل بن حسنہ کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا۔ لیکن عکرمہ نے شر حبیل کا انتظار کیے بغیر مسیلمہ کی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن مسیلمہ نے انہیں شکست دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ ابو بکرؓ نے ان کی جلد بازی پر ملامت کرتے ہوئے انہیں مدینہ آنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ عمان جا کر باغیوں کے مقابلے میں حذیفہ اور عرفجہ کی مدد کریں۔ ابو بکرؓ نے ان دونوں سرداروں کو بھی اس کی اطلاع دے دی اور حکم دیا کہ وہ کوئی کام عکرمہ سے مشورہ کیے بغیر نہ کریں۔ عکرمہ ان دونوں سرداروں کے پہنچنے سے پہلے ہی عمان پہنچ گئے۔ جب یہ تینوں اکٹھے ہوئے تو باہم صلاح مشورے کے بعد طے پایا کہ جیفر اور اس کے بھائی عبادؓ کو، جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، لکھا جائے کہ وہ آکر اسلامی لشکر سے مل جائیں۔

مسلمانوں کی کامیابی:

جب لقیط کو مسلمانوں کے آنے کا پتہ چلا تو وہ لشکر لے کر دبا میں خیمہ زن ہو گیا۔ ادھر جیفر اور عباد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں سے نکل کر پہلے ”صحاء“ پہنچے اور وہاں سے چل کر اسلامی فوج سے آکر مل گئے۔ دبا کے میدان کارزار میں دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ ابتداء میں لقیط کا پلہ بھاری تھا۔ مسلمان شدید اضطراب کی حالت میں

قبول کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ان لوگوں میں پیش پیش عتیبہ بن نہاس اور ثنی بن حارثہ شیبانی تھے۔ ان لوگوں کی کوششوں سے شکست خوردہ قبائل اور فسادی عنصر کو دوبارہ سراٹھانے کی جرات نہ ہوئی۔

عراق کی جانب پیش قدمی:

ثنی بن حارثہ نے تو ایرانی فریب کاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ جدوجہد شروع کر دی اور اس غرض کے لیے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کر کے دریائے فرات کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ثنی کا عراق کی سرحد پر پہنچ کر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کی روک تھام کرنا اور اس علاقے میں تبلیغ اسلام کی جدوجہد کرنا عراق کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

عمان میں جنگ و جدل:

بحرین کے واقعات کے بعد اب ہم عمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں ارتداد کا فتنہ دوسرے علاقوں کے فتنوں سے کسی طرح کم نہ تھا۔

عمان رسول اللہ کے عہد میں ایرانیوں کی عمل داری میں شامل تھا۔ ایرانیوں کی جانب سے یہاں جیفر نامی ایک شخص عامل مقرر تھا۔ رسول اللہ نے اسلام کا پیغام اس تک پہنچانے کے لیے عمرو بن عاص کو اس کے پاس بھیجا۔ جیفر نے کہا مجھے اسلام لانے میں تو کوئی عذر نہیں لیکن یہ ڈر ضرور ہے کہ اگر میں نے یہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے مدینہ بھیجی تو میری قوم مجھ سے بگڑ جائے گی۔ اس پر عمرو بن عاص نے اسے پیش کش کی کہ اس علاقے سے زکوٰۃ کا جو مال وصول ہو گا وہ اسی علاقے کے غرباء پر خرچ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جیفر اسلام لے آیا۔ عمرو بن عاص نے بھی یہیں سکونت اختیار کر لی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد جب اہل عمان نے بھی ارتداد اختیار کیا تو عمرو بن عاص تو مدینہ چلے آئے اور جیفر پہاڑوں میں بھاگ گیا۔

لوگوں کو لے کر طاقت ور جماعت کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر دبا سے بھی زیادہ گھمسان کارن پڑا جس میں انجام کار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور انہیں کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا۔

عکرمہ نے فتح کی خوش خبری اور خمس ارسال کرنے کے علاوہ حلیف جماعت کے سردار کو بھی ابو بکرؓ کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا اور خود امن وامان بحال کرنے کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے مہرہ ہی میں ٹھہر گئے۔ جب یہاں کے حالات کے متعلق انہیں کامل اطمینان ہو گیا تو خلیفۃ المسلمین کے احکام کے مطابق بھاری فوج کے ہمراہ جس میں دیگر قبائل کے علاوہ اہل مہرہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ مہاجر بن ابی امیہ کی مدد کے لیے یمن کی جانب روانہ ہو گئے۔

یمن میں قیام امن کی مساعی:

عکرمہ ساحل کے ساتھ ساتھ مہرہ سے حضرموت اور کندہ کی جانب بڑھے اس سفر میں انہیں کسی خاص دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ کیونکہ حضرموت مہرہ سے ملحق ہے البتہ مہاجر بن ابی امیہ کو وہاں تک پہنچنے میں سخت مشکلات پیش آئیں کیونکہ انہیں شمالی جانب سے یمن پہنچنا تھا۔ عکرمہ مہاجر سے ملنے کی خاطر تیزی سے سفر کرتے یمن پہنچے۔ یمن کی بغاوت کو مدت دراز گزر چکی تھی اور فتنے کے جراثیم نے سارا علاقہ سخت مسموم کر رکھا تھا۔ اس لیے اب کہ دوسرے علاقوں سے بغاوت اور فتنہ و فساد کے شعلے سرد کیے جا چکے تھے، ضروری تھا کہ یمن میں بھی امن وامان قائم کرنے کی سعی بلغ کی جاتی تاکہ نہ صرف اس علاقے کی جانب سے سلطنت اسلامیہ کو اطمینان نصیب ہوتا بلکہ کندہ اور حضرموت کے بقیہ مرتدین کے استیصال میں بھی آسانی پیدا کی جاسکتی۔

یمن میں بغاوت کے اسباب:

صفحات ماقبل میں اسود غسی کی بغاوت کا حال بالتفصیل بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح اس نے نبوت کا دعویٰ کر کے صنعاء کی طرف کوچ کیا، کس طرح انتہائی سرعت سے مکہ

تھے اور ان کی صفوں میں انتشار کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے۔ قریب تھا کہ انہیں شکست ہو جاتی کہ اللہ کی نصرت بنو عبد القیس اور بحرین کے دوسرے قبائل کی جانب سے بھاری کمک کی صورت میں نمودار ہوئی جس سے جنگ کا پانسہ بالکل پلٹ گیا۔ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ان کی قوت و طاقت میں معتد بہ اضافہ ہو گیا اور وہ بڑھ چڑھ کر لقیط کی فوج پر حملے کرنے لگے۔ اس جنگ میں انہوں نے دشمن کے دس ہزار آدمی قتل کیے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور کثیر مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح عمان میں بھی ارتداد کے فتنے کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت پائیدار بنیادوں پر قائم ہو گئی۔

جنگ کے بعد حذیفہ نے عمان ہی میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں کے حالات کی درستی اور امن و امان قائم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ عرفجہ ابوبکرؓ کی خدمت میں خمس پیش کرنے کے لیے مدینہ چلے گئے اور عکرمہ اپنا لشکر لے کر مہرہ کی بغاوت فرو کرنے اور اسلام کا علم دوبارہ بلند کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔

مہرہ میں جنگ:

عکرمہ نے حذیفہ کو جنوبی عرب کے انتہائی مشرقی علاقے عمان میں چھوڑا تھا اور خود مہرہ کی بغاوت فرو کرنے اور ارتداد کا فتنہ مٹانے کی غرض سے بجانب غرب روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے ہمراہ مسلمانوں کی بھاری جمعیت تھی جو زیادہ تر ان قبائل کے لوگوں پر مشتمل تھی جو ارتداد سے تائب ہو کر دوبارہ اسلام کی آغوش میں آ چکے تھے۔ مہرہ پہنچ کر انہیں دو جماعتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حریف تھیں۔ ہر جماعت چاہتی تھی کہ ملک کا اقتدار اسی کے ہاتھ میں رہے اور دوسری جماعت اس کے ماتحت رہ کر زندگی بسر کرے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عکرمہ نے مناسب سمجھا کہ وہ کمزور جماعت کو ساتھ ملا کر اس کی مدد سے طاقتور جماعت پر غلبہ حاصل کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کمزور جماعت کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ شروع کر کے اسے اسلام لانے کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔

عکرمہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر کے اپنی فوج اور اہل مہرہ کے نو مسلم

پھوٹ پڑا تھا اور ہر قبیلے کی یہ کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کی اطاعت سے آزاد ہو کر اور اسلامی حکومت کا جو اگردن سے اتار کر خود مختاری حاصل کر لے۔

ان تمام اسباب نے مل کر یمن اور اس کے ملحقہ علاقے میں، جو اسود غنسی اور اس کے مددگاروں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا، شدید ہيجان و اضطراب پیدا کر دیا۔

اسود کے بعد مددگاروں کی سرگرمیاں:

اسود غنسی کی موت کے بعد بھی اس کے مددگاروں کا جوش و خروش ٹھنڈا نہ ہو سکا تھا اور انہوں نے نجران اور صنعا کے علاقے میں سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی تھیں۔ عمرو بن معدی کرب نے جو شاعر ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کا بہادر بھی تھا، جس کی شجاعت اور جواں مردی کی دھاک سارے عرب پر بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے غنسی سے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا۔ یہ موقع غنیمت جان کر مسلمانوں کے خلاف علم شورش بلند کر دیا اور قیس بن عبد یغوث کو ساتھ ملا کر فیروز کو یمن سے نکال دیا، ساتھ ہی داذویہ کو بھی ملک بدر کر دیا۔ اس طرح یمن میں دوبارہ فتنہ برپا ہو گیا اور اس علاقے میں امن کی راہیں مسدود ہو گئیں۔

اس صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے سب سے ضروری امر یہ تھا کہ مدینہ اور یمن کے درمیانی راستے میں امن و امان قائم کیا جائے۔ اس راستے پر، جو ساحل بحر کے ساتھ ساتھ چلا گیا تھا، عک اور اشعریین کے بعض قبائل آباد تھے۔ انہوں نے شورش پسندوں سے مل کر مسلمانوں کے لیے یہ راستہ مسدود کر دیا۔ طائف اس راستے کے بالکل قریب واقع تھا۔ وہاں کے حاکم طاہر بن ابی ہالہ نے تمام واقعات سے ابو بکرؓ کو اطلاع دی اور خود ایک لشکر جرار لے کر ان لوگوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بڑی سخت لڑائی ہوئی جس میں مفسدین کو شکست فاش اٹھانی پڑی۔ ان کے بے شمار آدمی قتل ہوئے۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی لاشوں سے سارا راستہ پٹ گیا اور آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی۔ ابو بکرؓ فتح کی خوش خبری پہنچنے سے پہلے ہی طاہر کو خط لکھ چکے تھے۔ جس میں اسے ڈھارس دیتے ہوئے ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کی تلقین اور ہدایت کی گئی تھی کہ جب تک اس راستے میں، جس پر خبیث لوگ قابض ہیں، امن و امان قائم نہ ہو جائے اس وقت تک وہ

اور طائف تک اس کا اثر جا پہنچا، اور کس طرح اس کی بیوی ”آزاد“ کی سازش سے، جو قبل ازیں صنعاء کے بادشاہ شہر بن بازان کی زوجیت میں تھی، غنسی کیفر کردار کو پہنچا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غنسی کے قتل کی خبر مدینہ میں عین اس روز پہنچی جس روز رسول اللہؐ کا وصال ہوا تھا۔ ابوبکرؓ نے فیروز کو یمن کا حاکم مقرر فرمایا لیکن رسول اللہؐ کی خبر وفات سن کر بغاوت کے شعلے ایک بار پھر زور و شور سے بھڑک اٹھے۔ مزید برآں کئی عوامل اس قسم کے پیدا ہو گئے جنہوں نے اس آگ کو بھڑکانے میں اور زیادہ مدد دی۔

شورش یمن کا پہلا سبب:

بغاوت کی آگ کو زیادہ بھڑکانے کا پہلا سبب یہ بنا کہ اس علاقے میں ایک متحدہ حکومت قائم کرنے کے بجائے اسے مختلف عمال کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ چنانچہ بازان کی وفات کے بعد یمن کی حکومت میں اس کے بیٹے شہر کے علاوہ دیگر عمال کو بھی شریک کر لیا گیا۔ شہر کو صنعاء کی ولدیت سپرد کی گئی اور دیگر عمال کو نجران اور ہمدان وغیرہ کی۔ اس صورت حال نے اسود غنسی کو بغاوت کرنے پر مزید جرات دلائی۔ صرف یمن ہی کا یہ حال نہ تھا بلکہ یمن کے شمالی علاقے میں بھی، جو کہ اور طائف تک پھیلتا چلا گیا تھا، سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اسے مختلف عمال کے زیر حکومت دے دیا گیا، چنانچہ تہامہ کا وہ علاقہ جو ساحل بحر کے متوازی واقع تھا ایک حاکم کے ماتحت تھا اور اندرونی علاقہ دوسرے عمال کے ماتحت۔ اسود غنسی کا فتنہ فرو ہو جانے کے بعد ان عمال میں سے ہر ایک نے یہی چاہا کہ وہ اپنی جگہ واپس جا کر عنان حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھالے اور اگر اس مقصد کے لیے لڑنا بھی پڑے تو اس سے دریغ نہ کرے۔

دوسری طرف اسود غنسی کے مددگاروں کو یہ صورت حال گوارا نہ تھی کہ جو علاقہ غنسی نے سخت کوشش اور جدوجہد کے بعد قبضے میں کیا تھا وہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ اس لیے انہوں نے بھی مسلمان حکام کو دوبارہ اپنے اپنے علاقوں پر مسلط ہونے سے روکے اور اسود غنسی کی جگہ لینے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔

تیسری جانب رسول اللہؐ کی وفات کے بعد عرب میں ارتداد کا فتنہ وبا کی طرح

طور پر ایران سے آ کر یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ اگر تم نے ان کی طرف سے بے پروائی برتی تو عنقریب تم پر پورے طور سے غالب آ جائیں گے۔ میری رائے ہے کہ ان کے سرداروں کو قتل کر کے انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ تم اس کام میں میری مدد کرو۔

قیس کے جواب میں ذوالکلاع اور اس کے ساتھیوں نے غیر جانب داری کی پالیسی اختیار کیے رکھی، نہ قیس سے مل کر انباء کے خلاف کارروائی کی اور نہ انباء کی مدد کر کے قیس کو زک پہنچانی چاہی۔ قیس کو انہوں نے کہا: ”بھج جا کہ ہم اس معاملے میں دخل دینے سے معذور ہیں۔ تم اپنے ساتھیوں سے مل کر جو مناسب سمجھو کرو۔“ انہیں انباء کے خلاف قیس کی مدد کرنے میں غالباً کوئی عذر نہ بھی ہوتا لیکن انہیں معلوم تھا کہ اس صورت میں ابو بکرؓ یقیناً انباء کی مدد کریں گے کیونکہ انباء بدستور اسلام پر قائم اور مدینہ کی حکومت کے کامل فرمانبردار تھے۔ اس صورت میں ان کے خلاف محاذ قائم کرنا اپنے آپ کو ایسی مصیبت میں پھنسا لینے کے مترادف تھا جس کے متعلق کوئی نہ جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، خصوصاً اس صورت میں کہ ارتداد کی وبا پھیل جانے کے باعث یمن اسلامی فوجوں کی آماجگاہ بننے والا تھا اور اس سے پہلے مسلمان ہر میدان میں فتح یاب ہو چکے تھے۔

معاونین عنسی سے قیس کی استمداد:

ذوالکلاع اور اس کے ساتھیوں کے انکار کے باوجود قیس شکستہ خاطر نہ ہوا بلکہ اب اس نے خفیہ طور پر ان گروہوں سے خط و کتابت کرنی شروع کی جنہوں نے اسود عنسی کے خروج کے زمانے میں اس کی (عنسی کی) مدد کی تھی اور انباء کو یمن سے نکالنے میں ان کی مدد کا طالب ہوا۔ وہ لوگ پہلے ہی سے چاہتے تھے کہ انہیں اس غیر ملکی عنصر سے نجات ملے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے قیس کا ساتھ دینا منظور کر لیا اور اسے لکھ دیا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے جلد از جلد پہنچ رہے ہیں، مطمئن رہو۔

چونکہ یہ خط و کتابت انتہائی خفیہ تھی اور فوجوں کی نقل و حرکت میں بھی نہایت راز داری برتی گئی تھی۔ اس لیے اہل صنعاء کو ان فوجوں کی اطلاع اس وقت تک نہ مل سکی جب تک وہ شہر کے بالکل قریب نہ پہنچ گئیں۔

اعلاب لیس میں مقیم رہے۔ اس روز سے قبیلہ عک کی فوجوں کا نام 'جموع الاخابث' اور راستے کا نام 'طریق الاخابث' پڑ گیا۔ بعد میں لمبے عرصے تک یہ نام عربوں میں رائج رہے۔

شورش و اضطراب کا دوسرا سبب:

یمن میں فتنے کے بھڑکنے اور اس میں شدت پیدا ہونے کا دوسرا بڑا سبب قومیت کا اختلاف تھا۔ شہر کے قتل ہونے کے بعد ابوبکرؓ نے صنعاء میں فیروز کو حاکم مقرر فرمایا تھا۔ اسود کے قتل کی سازش میں فیروز کے ساتھ شہر کے دو وزیر، داذویہ اور شبہنس اور سپہ سالار قیس بن عبد یغوث، شریک تھے۔ فیروز، داذویہ اور شبہنس فارسی الاصل تھے۔ لیکن قیس عربی النسل اور یمن کے قبیلہ حمیر میں سے تھا۔ اس لیے جب ابوبکرؓ نے فیروز کو حاکم مقرر کیا تو قیس کو یہ بات بری لگی اور اس نے فیروز کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا۔

قیس کی فتنہ انگیزی:

لیکن جب قیس نے گہری نظر سے حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ فیروز کا قتل آسان کام نہیں کیونکہ اس صورت میں تمام "انباء" اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ "انباء" ان ایرانی النسل لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے سلطنت ایران کے دور اقتدار میں یمن کو وطن بنا لیا تھا۔ یہاں انہوں نے بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر لیا حتیٰ کہ حکومت میں بھی ان کا عمل دخل ہو گیا۔

انباء کی طاقت و قوت کے پیش نظر قیس کے لیے ضروری تھا کہ وہ یمن کے تمام عربی قبائل کو ساتھ ملا کر وہاں کے ایرانی النسل باشندوں کا پوری طرح قلع قمع کرنے کی کوشش کرتا ورنہ اسے بھی ایسے ہی انجام سے دوچار ہونا پڑتا جس سے اسود کو ہونا پڑا اور اسے بھی اپنی جان اسی طرح کھونی پڑتی جس طرح اسود کی جان گئی۔

چنانچہ اس نے ذوالکلاع حمیری اور یمن کے دوسرے عربی النسل سربراہان اور شاخص اور سرداروں کو لکھا کہ انباء نے زبردستی تمہارے علاقے پر تسلط جما لیا ہے اور ناجائز

مقابلہ کرنے کا خواہش مند ہے۔“

قبیلہ حمیر کے عوام بھی قیس کے ساتھ مل گئے البتہ قبیلہ کے سرداروں نے اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور گوشہ عزلت میں مقیم ہو گئے۔

ابناء سے قیس کا سلوک:

جب قیس کو اپنی قوت و طاقت کا پوری طرح اندازہ ہو گیا تو اس نے اپنا پر توجہ مبذول کی اور انہیں تین گروہوں میں تقسیم کر کے ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ سلوک روار کھا۔ جن لوگوں نے قیس کی اطاعت قبول کر لی اور فیروز کی طرف میلان ظاہر نہ کیا انہیں اس نے کچھ نہ کہا، وہ اور ان کے اہل و عیال بدستور اپنی اپنی جگہ مقیم رہے۔ لیکن جو لوگ بھاگ کر فیروز کے پاس چلے گئے ان کے اہل و عیال کو اس نے دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ کو عدن بھیج دیا تاکہ وہ جہازوں میں سوار ہو کر اپنے وطن چلے جائیں اور دوسرے گروہ کو خشکی کے راستے خلیج فارس کی جانب روانہ کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں اور ان میں سے کوئی یمن میں نہ رہے۔

قیس کی شکست:

فیروز کے اہل وطن پر جو کچھ ہتی اسے اس کا سارا حال معلوم ہو گیا۔ اس نے اپنی مدد کے لیے ان قبائل کو ابھارنا شروع کیا جو بدستور اسلام پر قائم تھے اور اس طرح مذہبی عصبیت کے ذریعے سے وطنی عصبیت کا سد باب کرنا چاہا۔ بنو عقیل بن ربیعہ اور بنو عک نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ایک فوج مرتب کر کے قیس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ صنعاء سے کچھ دور قیس کی فوجوں سے اس کا مقابلہ ہوا جس میں قیس کو شکست ہوئی۔ فیروز نے دوبارہ صنعاء پر قبضہ کر لیا اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے دوبارہ وہاں کی امارت سنبھال لی۔ قیس اپنے ہزیمت خوردہ لشکر کے ساتھ بھاگ کر اسی جگہ جا پہنچا جہاں وہ اسود غسی کے وقت موجود تھا۔ اس کی شکست سے اس قومی عصبیت کا خاتمہ ہو گیا جس کے بل بوتے پر اس نے اپنی دعوت کی بنیاد رکھی تھی۔

جب ان فوجوں کے آنے کی خبر شہر میں پھیلی تو قیس فوراً فیروز کے پاس پہنچا اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ اسے بھی یہ خبر ابھی ابھی اچانک ملی ہے۔ چہرے پر بھی اس نے گھبراہٹ اور سراسیمگی کی علامات پیدا کر لیں اور انتہائی مکاری سے کام لیتے ہوئے اس نے فیروز اور داذویہ سے موجودہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔ مزید صلاح مشورے کے لیے اس نے فیروز، داذویہ اور شبنس کو اگلے روز صبح اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔

داذویہ کا قتل:

داذویہ حسب قرار داد اگلے روز قیس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے دونوں ساتھی فیروز اور شبنس ابھی تک نہ آئے تھے۔ جون ہی داذویہ نے گھر میں قدم رکھا قیس نے تلوار کا ہاتھ مار کر اس کا کام تمام کر دیا تھوڑی دیر بعد فیروز بھی آ پہنچا مگر دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے سنا کہ اس کے ساتھیوں کے قتل کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سرپٹ بھاگا۔ راستے میں اسے شبنس ملا۔ یہ ماجرا معلوم ہونے پر وہ بھی اس کے ساتھ ہولیا اور انہوں نے کسی ایسی جگہ کی تلاش شروع کی جہاں وہ دونوں پناہ لے سکیں۔ قیس کے آدمیوں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کا پیچھا کیا لیکن وہ انہیں نہ پاسکے اور نا کام واپس آ گئے۔ فیروز اور شبنس جبل خولان پہنچے جہاں فیروز کی ننھیال تھی۔ لیکن انہیں اب تک یقین نہ تھا کہ وہ ہلاکت سے بچ گئے ہیں۔

صنعاء پر قیس کا مسلط:

قیس صنعاء پر قابض ہو گیا اور بڑے اطمینان سے وہاں حکومت کرنی شروع کر دی۔ اس نے یہ خیال بھی نہ آ سکتا تھا کہ اب کوئی شخص اس کے اقتدار کو چیلنج اور اسے حکومت سے محروم کر سکتا ہے اسے معلوم ہوا کہ فیروز ابو بکرؓ سے مدد طلب کرنے اور بنو خولان کو ساتھ ملا کر اس پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر اس نے ازراہ تمسخر کہا:

”خولان کو دیکھو اور فیروز کو دیکھو۔ اس احمق کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ خولان کی قوت و طاقت کتنی ہے جس کے بل بوتے پر وہ مجھ سے

میں بھی اپنے اسی معاہدے پر بہ دستور قائم رہے، باقی تمام قبائل نے عمرو بن معدی کرب کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔

عکرمہ اور مہاجر یمن میں:

مسلمان اس صورت حال سے مطلق نہ گھبرائے۔ ایک طرف عکرمہ بن ابوجہل مہرہ سے یمن پہنچے اور اپنے لشکر کے ہمراہ مقام ابین میں فروکش ہوئے۔ دوسری جانب سے مہاجر بن ابی امیہ ابوبکرؓ کے عطا کردہ علم کے ہمراہ مکہ اور طائف سے گزرتے ہوئے جنوبی کی طرف روانہ ہوئے۔ بیماری کے باعث ان کی روانگی یمن میں چند ماہ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ مکہ طائف اور نجران سے سینکڑوں آزمودہ کار اور جنگی لیاقت رکھنے والے اشخاص آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب اہل یمن کو ان سپہ سالاروں کے آنے کی اطلاع ہوئی اور انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مہاجر بن ابی امیہ نے راستے میں اپنے ایک مد مقابل قبیلے کو کلیہً تیغ کر دیا ہے تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی یہ بغاوت خود انہیں کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا تو ہرگز تاب مقاومت نہ لاسکیں گے۔ سینکڑوں لوگ قتل ہو جائیں گے اور بقیۃ السیف کو مسلمان غلام بنا کر ساتھ لے جائیں گے۔

قیس اور عمرو میں پھوٹ:

ابھی اہل یمن اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ ان کے سرداروں، قیس اور عمرو بن معدی کرب میں پھوٹ پڑ گئی اور اس امر کے باوجود کہ دونوں نے مہاجر سے مقابلہ کرنے کا عہد کیا تھا دونوں درپردہ ایک دوسرے کو زک پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔

قیس اور عمرو کی گرفتاری:

آخر عمرو بن معدی کرب نے مسلمانوں سے مل جانے کا فیصلہ کیا ایک رات اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ قیس کی فرودگاہ پر حملہ کیا اور اسے گرفتار کر کے مہاجر کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا۔ مہاجر نے قیس ہی کو گرفتار کرنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ ساتھ ہی عمرو بن معدی کرب کو بھی گرفتار کر کے ابوبکرؓ کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا کہ وہ ان کے متعلق جو

فیروز کی فتح اور تخت امارت پر اس کے دوبارہ متمکن ہونے سے بھی یمن میں متوقع امن قائم نہ ہو سکا۔ صنعاء میں تو بے شک فیروز کی حکومت قائم ہو گئی لیکن باقی یمن بدستور بغاوت کی آگ میں جل رہا تھا اور وہاں کے مرتدین مسلمانوں کے مقابلہ میں جمع ہوئے تھے۔

یمن اور حجاز کی دیرینہ دشمنی:

اس جگہ ایک تیسرے سبب کا ذکر کر دینا بھی مناسب ہے جس نے اس علاقے میں بغاوت کے شعلے بھڑکانے میں مدد دی اور وہ تھا یمن اور حجاز کا دیرینہ جذبہ عناد و مخالفت۔ رسول اللہؐ کے عہد میں حجازیوں کے ہاتھوں یمن کے بنی حمیر کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ ابو بکرؓ کے عہد میں اگرچہ خالدؓ اور عمرؓ کی فتوحات نے اہل یمن کے دلوں پر اثر ضرور کیا تھا اور وہ مسلمانوں سے دہشت زدہ ہو گئے تھے پھر بھی ان میں ابھی ایک بہادر شخص ایسا موجود تھا جس کی ہیبت سے بڑے بڑے بہادر کانپتے تھے اور وہ تھا عرب کا مشہور شہسوار اور بطل جلیل عمرو بن معدی کرب۔ یہ شخص قبیلہ بنو زبید سے تعلق رکھتا تھا اور اس پر اہل یمن کو بجا طور پر فخر تھا۔ بعد میں یہ شخص مسلمان ہو گیا۔ عمرؓ کے عہد کی فتوحات کے دوران میں اس نے مسلمانوں کی جانب سے بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیئے جن کا ذکر آج تک کتب تاریخ میں محفوظ چلا آتا ہے۔ باوجود پیرانہ سالی کے اس کی بہادری میں مطلق کمی نہ آئی۔ جنگ قادسیہ کے وقت اس کی عمر سو سال سے بھی متجاوز تھی لیکن اس نے اس معرکہ میں جوانوں سے بڑھ کر شجاعت کا مظاہرہ کیا۔

عمرو بن معدی کرب کی بغاوت:

عمرو بن معدی کرب نے اپنی بہادری کے زعم میں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور قیس بن عبد یغوث کو بھی ساتھ ملا لیا۔ یہ دونوں ہر قبیلے میں جاتے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر علم بغاوت بلند کرنے پر آمادہ کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوا نجران کے عیسائی باشندوں کے، جنہوں نے رسول اللہؐ سے عہد مودت باندھا تھا اور ابو بکرؓ کے عہد

لوگوں میں دوبارہ فساد کے جراثیم نہ پھیل سکیں۔

عکرمہ نے اپنا قیام جنوبی یمن ہی میں رکھا اور وہاں قبائل نخع اور حمیر کی سرکوبی میں مصروف رہے۔ شمالی یمن کی طرف بڑھنے کی نوبت ہی نہ آئی۔

ان دونوں سرداروں کی پیہم مساعی سے سارے یمن میں کاملاً امن و امان قائم ہو گیا اور یہاں کے باشندوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ اب سارے جزیرہ عرب میں حضر موت اور کندہ کے سوا کسی جگہ مرتدین کا نام و نشان نہ رہا۔

ایرانیوں کی حمایت کا سبب:

یہاں ہم بعض ان لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آخر ابو بکرؓ نے یمن کے عربوں کے مقابلے میں ایرانیوں کی حمایت کیوں کی اور فیروز اور اس کے ساتھیوں نے کس مصلحت کے پیش نظر قیس کے مقابلے میں ابو بکرؓ کی مدد کی؟ اس شبہ کا جواب بہت آسان ہے۔

ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اسلام عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک بڑائی کا معیار صرف ایک ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ یمن میں ایرانی النسل لوگ سب سے پہلے ایمان لائے تھے اور اسلام میں سبقت حاصل کرنے کی وجہ سے ابو بکرؓ کی نظر میں ان کی قدر و منزلت تھی۔ لیکن ان کے بالمقابل اس علاقے کے عرب باشندوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی آگ زور شور سے بھڑکا رکھی تھی۔ رسول اللہؐ کے عہد میں یہاں اسود عسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود کے بعد اس کے مددگاروں اور حامیوں نے بھی فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے میں اسود سے کچھ کم حصہ نہ لیا۔ عمرو بن معدی کرب اور قیس بن عبد یغوث اس آگ کو ہوا دینے میں پیش پیش تھے۔ لیکن بازان، شہر، فیروز اور دوسرے ایرانی النسل باشندے نہ صرف یہ دستور اسلام پر قائم رہے بلکہ اس خطہ زمین میں صرف وہی لوگ ایسے تھے کہ جب سارا عرب بغاوت اور ارتداد کی آگ سے جل رہا تھا اور مرتدین اور باغیوں کی جرار فوجیں اسلامی فوجوں کے مقابلے میں آ رہی تھیں تو انہوں نے کامل وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہر طرح ابو بکرؓ کی مدد کی اور اس فتنے کو فرو کرنے میں اسلامی فوجوں کے دوش بہ

چاہیں فیصلہ صادر فرمائیں۔

ابو بکرؓ کی جانب سے معافی:

ابو بکرؓ نے داؤد یہ کے قصاص میں قیس کو قتل کرنا چاہا اور اس سے کہا: ”اے قیس! تو اللہ کے بندوں اور بے گناہ لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے اور مومنین کو چھوڑ کر مرتدین و مشرکین کی پناہ و امداد کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔“

قیس نے داؤد یہ کے قتل سے انکار کیا۔ چونکہ اس کے خلاف واضح شہادت مہیا نہ ہو سکی۔ (کیونکہ یہ قتل انتہائی رازداری سے اور لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کیا گیا تھا) اس لیے ابو بکرؓ نے اسے معاف کر دیا اور قصاص میں قتل نہ کیا۔

اس کے بعد ابو بکرؓ نے عمرو بن معدی کرب کی طرف توجہ فرمائی اور کہا: ”تجھے شرم نہیں آتی۔ تجھے روزانہ ذلتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تو اپنے کرتوت سے باز نہیں آتا۔ اگر تو دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی مساعی صرف کرتا تو اللہ بھی تجھے سر بلند کر دیتا اور عزت بخشتا۔“

عمرو بن معدی کرب نے جواب دیا:

”بے شک مجھ سے قصور ہوا۔ میں آپ سے اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے اس قسم کی حرکات سرزد نہ ہوں گی اور میں مملکت اسلامیہ کا نیک شہری بن کر زندگی بسر کروں گا۔“

اس پر ابو بکرؓ نے اسے بھی معاف کر دیا اور ان دونوں کو ان کے قبیلوں میں واپس بھیجوا دیا۔

یمین میں امن و امان کا قیام:

ادھر مہاجر نجران سے چل کر صنعاء پہنچے اور اپنے لشکر کو ان سرکش گروہوں کی سرکوبی کا حکم دیا جو اسود غسی کے زمانے سے اس خطہ ملک میں فتنہ و فساد برپا کر کے ملک کے امن و امان کو غارت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ہدایت بھی دی کہ ان لوگوں میں سے وہ جس پر بھی قابو پائیں اسے بے دریغ قتل کر ڈالیں تاکہ فتنے کی جڑ کٹ سکے اور

رسول اللہؐ نے حکم دیا کہ کندہ کے بعض صدقات اور اموال زکوٰۃ حضرت موت کے بعض صدقات اور اموال زکوٰۃ کندہ میں تقسیم کیے جائیں۔

زیاد نے زکوٰۃ کے حصول میں کچھ سختی برتی جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں میں ان کے خلاف جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ زیاد نے ”سکون“ کے ان لوگوں کے ذریعے سے، جو بہ دستور اسلام پر قائم تھے، کندہ کے شوریدہ سرعناصر کو مغلوب کرنا چاہا لیکن ”سکون“ کے کسی بھی شخص نے ان کا ساتھ نہ دیا اور کوئی بھی شخص اہل کندہ کے مقابلے کے لیے نہ اٹھا۔

مسلمانوں سے اشعث کی جنگ:

رسول اللہؐ کی وفات کے بعد جب عرب میں ارتداد کا فتنہ پھیلا اور اس کے شعلے حضرت موت اور کندہ تک بھی پہنچنے لگے تو زیاد نے اس فتنے کے جڑ پکڑنے سے پہلے ہی اس کی نیخ کنی ضروری سمجھی۔ چنانچہ انہوں نے ان قبائل کو اپنے ساتھ ملایا جو بہ دستور اسلام پر قائم تھے اور غفلت کی حالت میں بنو عمرو بن معادیہ پر حملہ کر کے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ قیدی عورتیں اور مال غنیمت لے کر وہ اس راستے میں واپس ہوئے جو اشعث بن قیس رئیس کندہ کے قبیلے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ ان عورتوں میں بعض نہایت معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب یہ قافلہ اشعث کے قبیلے کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا:

”اے اشعث! تیری خلاؤں کی عزتیں خطرے میں ہیں۔ تیرا“

فرض ہے کہ انہیں ذلت و رسوائی سے بچائے۔“

یہ فریاد سن کر اشعث کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے قسم کھالی کہ یا تو وہ ان عورتوں کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑا لے گا یا خود لڑ کر جان دے دے گا۔

اشعث بن قیس اپنی قوم کا محبوب اور بلند مرتبہ سردار تھا۔ رسول اللہؐ کی زندگی کے آخری زمانے میں وہ آپؐ کی خدمت میں بنی کندہ کے ۸۰ آدمیوں کے ہمراہ مدینہ آیا جو سب کے سب قیمتی ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اشعث نے اسلام قبول کیا اور ابو بکرؓ کی بیٹی ام فروہ کے لیے شادی کا پیغام دیا۔ ابو بکرؓ نے یہ پیغام

دوش حصہ لیا۔ اس صورت میں اگر ابو بکرؓ نے اپنی فوجوں اور سپہ سالاروں کے ذریعے سے فیروز کی مدد کی اور باغیوں پر فتح یاب ہونے کے بعد اسے دوبارہ صنعاء کا امیر مقرر فرما دیا تو اس پر کسی اعتراض کی گنجائش کیونکر ہو سکتی ہے؟ خود رسول اللہؐ اس سے قبل شہر بن بازان کو سارے یمن کا حاکم مقرر فرما چکے تھے۔

کندہ اور حضرموت میں جدال و قتال:

ان حوادث و واقعات کے ذکر کے بعد اب ہمیں کندہ اور حضرموت کے حالات کا جائزہ لینا ہے جہاں کے باشندے بھی ارتداد اختیار کر چکے تھے اور جہاں مہاجر بن ابی امیہ اور عکرمہ کے زیر قیادت مرتدین سے آخری جنگیں پیش آئیں۔

رسول اللہؐ نے اپنی وفات سے قبل زیادہ بن لبید کو حضرموت، عکاشہ بن محسن کو سکاک اور سکون اور مہاجر بن ابی امیہ کو کندہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ مہاجر بیماری کے باعث زمام کار سنبھالنے کے لیے کندہ روانہ نہ ہو سکے۔ ان کی غیر موجودگی میں زیاد بن لبید وہاں کے امور کی دیکھ بھال کرتے رہے۔

مہاجر کی امارت کندہ کا واقعہ:

مہاجر کی امارت کندہ کا واقعہ بھی اک گونہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ مہاجر ام المومنین ام سلمہ کے بھائی تھے اور جنگ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ اس پر رسول اللہؐ ان سے ناراض ہو گئے ام سلمہ کو بہت رنج ہوا۔ ایک دن وہ آپؐ کا سر دھور ہی تھیں کہ باتوں باتوں میں انہوں نے آپؐ سے رقت آمیز لہجے میں اپنے بھائی کی سفارش کرتے ہوئے ناراضگی دور کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہؐ نے مہاجر کا قصور معاف کر کے انہیں کندہ کا امیر مقرر فرما دیا۔ ان کے وہاں پہنچنے تک زیاد بن لبید ان کی قائم مقامی کرتے رہے۔

اہل کندہ کا ارتداد:

کندہ یمن کے متصل واقع تھا۔ اسی لیے جو نبی اسود غسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اہل کندہ نے بھی اہل یمن کی طرح اس کی دعوت پر لبیک کہنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر

انہیں جو بھی باغی ملے اسے بے دریغ قتل کر ڈالیں۔ بخیر میں محصور لوگوں نے اپنی قوم کی تباہی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ اب خود ان کے سامنے بھی موت گردش کر رہی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا:

”تمہاری موجودہ حالت سے موت بہر حال بہتر ہے۔ تم اپنی پیشانیوں کے بال کاٹ ڈالو اور اس طرح یہ ظاہر کرو کہ تم نے اپنی جانوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیا ہے۔“

شاید تمام لوگوں نے اپنی پیشانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور عہد کیا کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار نہ کرے گا۔

اپنے قبیلے سے اشعث کی بد عہدی:

صبح ہونے پر وہ لوگ تینوں راستوں سے باہر نکلے اور مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی۔ ان لوگوں کی تعداد صرف چھ سو تھی۔ اس کے بالمقابل مہاجر اور عکرمہ کے لشکر کا شمار ہی نہ تھا۔ جب اہل بخیر نے دیکھا کہ مسلمان بھاری تعداد میں ان کے مقابلے کے لیے موجود ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ کسی صورت فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ مایوسی نے ان پر غلبہ پالیا اور وہ زندگی سے بالکل ناامید ہو گئے۔ اس وقت ان کے سرداروں کو اپنی جانیں بچانے کی سوجھی۔ اشعث عکرمہ کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ مہاجر سے کہہ کر اس کی اور اس کے نو ساتھیوں کی جان بخشی کر دیں۔ اس کے بدلے وہ قلعے کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے گا۔

مہاجر نے اشعث کی درخواست منظور کر لی اور اسے ہدایت کی کہ وہ ان لوگوں کے نام، جن کی وہ جان بخشی کرانا چاہتا ہے، ایک کاغذ پر لکھ کر ان کے حوالے کر دے۔ اشعث نے اپنے اہل و عیال اور بھائیوں کے نام تو لکھ دیئے لیکن اپنا نام لکھنا بھول گیا اور اسی طرح وہ کاغذ مہر لگا کر مہاجر کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ان نو آدمیوں کو قلعے سے نکال لیا اور اس کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیئے۔ مسلمانوں نے قلعے میں داخل ہو کر ہر اس شخص کو قتل کر دیا جس نے لڑائی میں حصہ لیا تھا اور ان کی عورتوں کو، جن کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ تھی، قیدی بنا لیا۔ پھر اشعث کو ان پر نگران مقرر کر کے اموال

قبول کر لیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔

عورتوں کی فریاد سن کر اشعث نے زبردست اثر و رسوخ سے فوراً ساری قوم کو اکٹھا کر لیا۔ وہ سب مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور اپنی عورتوں کو مسلمانوں کی قید سے چھڑا کر ہی دم لیا۔

کندہ کو عکرمہ و مہاجر کی روانگی:

اس دن سے اشعث نے کندہ اور حضرموت میں بغاوت کی آگ بھڑکانی شروع کی اور پیشربائل کو ساتھ ملا لیا۔ یہ حال دیکھ کر زیاد بہت گھبرائے اور انہوں نے مہاجر بن ابی امیہ کو فوراً کندہ پہنچنے کے لیے لکھا۔ مہاجر اور عکرمہ اس وقت یمن کی بغاوت فرو کر چکے تھے۔ اس لیے وہ دونوں فوراً زیاد کی مدد کو روانہ ہو گئے۔ مہاجر صنعاء سے روانہ ہوئے اور عکرمہ عدن سے۔ مارب میں دونوں قافلہ گئے اور ”صہید“ کا ریگستان قطع کرتے ہوئے کندہ کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ مہاجر کو زیادہ کی حالت کا بہ خوبی علم تھا۔ انہوں نے عکرمہ کو تو لشکر کے ساتھ چھوڑا اور خود ایک مختصر دستہ لے کر تیزی سے سفر کرتے ہوئے بہت قلیل عرصہ میں زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ جاتے ہی اشعث کی فوجوں پر حملہ کر کے اسے شکست فاش دی۔ اشعث بھاگ گیا اور اس نے اپنے لشکر کے دیگر مفرو رین کے ہمراہ قلعہ بخیر میں پناہ لی۔

قلعہ بخیر کا محاصرہ:

بخیر ایک مضبوط قلعہ تھا اور اس پر حملہ کرنا آسان نہ تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے تین راستے تھے۔ ایک راستے پر تو زیاد نے قبضہ کر لیا۔ دوسرے راستے کی ناکہ بندی مہاجر نے کی۔ تیسرا راستہ کھلا تھا۔ اس کے ذریعے سے قلعے والوں کو سامان رسد اور فوجی مدد برابر پہنچتی رہتی تھی۔

آخر عکرمہ بھی اپنی فوج کے ہمراہ آ پہنچے اور انہوں نے اس تیسرے راستے پر قبضہ کر لیا جس سے قلعے والوں تک مدد پہنچنی بند ہو گئی اور وہ مکمل طور پر محصور ہو کر رہ گئے۔ عکرمہ نے اسی پر اکتفانہ کی بلکہ اپنے شہسواروں کو کندہ سے ساحل بحر تک پھیلا دیا اور حکم دے دیا کہ

چاہیں گے صادر فرمائیں گے۔ اگر یہ شخص اپنا نام لکھنا بھول گیا ہے تو اسے اپنا عذر خلیفہ کے سامنے پیش کرنے دیں۔“

مہاجر کو یہ بات ناگوار تو بہت گزری پھر بھی انہوں نے عکرمہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اسے دوسرے قیدیوں کے ہمراہ ابوبکرؓ کی خدمت میں مدینہ روانہ کر دیا۔ لیکن اشعث کا جینا مرنے سے بدتر تھا کیونکہ راستہ بھر اس کی قوم کے قیدی اور مسلمان محافظ اس پر پھنکار ڈالتے رہے۔

ابوبکرؓ کی جانب سے اشعث کو معافی:

مدینہ پہنچنے پر اشعث کو ابوبکرؓ کے حضور پیش کیا گیا۔ ابوبکرؓ نے اشعث سے پوچھا:

”تیرا کیا خیال ہے۔ میں تجھ سے کیا برتاؤ کروں گا؟“

اشعث نے جواب دیا:

”مجھے آپ کے ارادے کا علم کیا ہو سکتا ہے۔ پھر بھی میں معافی کا خواستگار اور رحم کا امیدوار ہوں۔“

ابوبکرؓ نے فرمایا:

”میرا ارادہ تو تجھے قتل کرنے کا ہے۔“

اشعث نے کہا:

”میں ہی ہوں جس نے قلعے کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھولے تھے۔ کیا

اس کے باوجود مجھے قتل کر دیا جائے گا؟“

بات طول پکڑ گئی۔ آخر اشعث نے محسوس کیا کہ واقعی ابوبکرؓ کا ارادہ اسے قتل کرنے

کا ہے اس پر اس نے ان سے کہا:

”میں آپ سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم فرمائیں۔ میری قوم کی

قیدی عورتوں کو چھوڑ دیں۔ میری لغزش سے درگزر فرمائیں۔ میرا اسلام قبول فرمائیں اور مجھ

سے وہی سلوک کریں جو مجھ جیسی حیثیت رکھنے والے اشخاص سے آپ کرتے ہیں۔ میری

بیوی بھی، جو آپ کی صاحبزادی ہیں، مجھے واپس دے دیں۔“

خمس کے ساتھ ابو بکرؓ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔

زمانہ کے تصرفات بھی کس قدر عجیب ہوتے ہیں۔ اشعث جو محض اپنی جان بچانے کی خاطر بدترین بد عہدی اور خیانت کا مرتکب ہوا تھا اور جس نے اپنی قوم کو تلواریں کی دھاروں اور ایک ہزار عورتوں کو لونڈیاں بننے کے لیے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، وہی اشعث تھا جو بنی عمرو بن معاویہ کی عورتوں کی اس فریاد کی تاب نہ لا سکا تھا کہ اے اشعث! تیری خالائوں کی عزتیں خطرے میں ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی اس کا خون کھول اٹھا اور اس نے اس وقت تک دم نہ لیا جب تک ان میں سے ایک ایک عورت کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھڑا نہ لیا۔ پھر یہی اشعث تھا کہ جب وہ رسول اللہؐ کی خدمت میں پہنچا تو اس کی وجاہت اور اپنی قوم میں ہر دلعزیزی کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کی عزت و تکریم میں کوئی دقیقہ سعی فرو گزاشت نہ کیا تھا۔ لیکن جب اس سے یہ شرمناک فعل صادر ہوا تو مسلمان تو علیحدہ رہے خود اس کی قیدی عورتوں نے اس پر لعنت بھیجی اور اس کا نام عرف النار رکھ دیا جس کے معنی یمنی زبان میں غدار کے ہیں۔ لیکن جب موت کا خوف کسی شخص کو لاحق ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچاؤ کی غرض سے ہر قسم کی ذلت برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور محض اپنی جان کی سلامتی کی خاطر ذلیل سے ذلیل ہتھکنڈے اختیار کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔

اشعث کی روانگی مدینہ:

مہاجر نے ان لوگوں کو جن کے نام اشعث نے کاغذ پر لکھے تھے، بلایا اور انہیں رہا کر دیا۔ لیکن اشعث کا اپنا نام چونکہ اس فہرست میں نہ تھا جو خود اس نے مہر لگا کر مہاجر کے حوالے کی تھی۔ اس لیے مہاجر نے اسے قتل کرنا چاہا اور کہا:

”اللہ کا شکر ہے جس نے تیرے دل پر پردے ڈال دیئے اور تو اپنا نام فہرست میں لکھوانا بھول گیا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ اللہ تجھے ذلیل کرے۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“

لیکن عکرمہ نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا:

”آپ اسے قتل نہ کریں بلکہ ابو بکرؓ کے پاس بھیج دیں۔ وہ اس کے متعلق جو فیصلہ

گستاخ رسول کو قتل کر دینا مناسب سزا ہے۔

کنہہ میں دو گانے والیاں تھیں۔ ایک مغنیہ اپنے اشعار میں رسول اللہؐ کو گالیاں دیا کرتی تھی اور دوسری مغنیہ مسلمانوں کی ہجو کرتی تھی۔ مہاجر نے دونوں گانے والیوں کے ہاتھ کاٹ دیئے اور اگلے دانت نکلوا دیئے۔ جب ابو بکرؓ کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے مہاجر کو خط لکھا جس میں ان کی غلطیاں واضح کیں۔ انہوں نے لکھا کہ جو مغنیہ رسول اللہؐ کو گالیاں دیا کرتی تھی اسے قتل کرنا مناسب تھا کیونکہ شتم انبیاء کی سزا دوسری سزاؤں سے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری مغنیہ جو مسلمانوں کی ہجو کیا کرتی تھی، اگر وہ ذمی تھی تو اس سے درگزر کرنا مناسب تھا۔ آدمیوں کا مسئلہ کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ سخت گناہ ہے اور قصاص کے سوا کسی صورت میں جائز نہیں۔

ان دو گانے والیوں سے مہاجر نے جو برتاؤ کیا اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ دوسرے سرکش اور باغی لوگوں سے انہوں نے کس قسم کا سلوک کیا ہوگا اور کس سختی سے ان کے ساتھ پیش آئے ہوں گے۔

مہاجر کی امارت یمن:

ابو بکرؓ نے مہاجر کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ حضرموت اور یمن کی امارت میں سے جسے چاہیں اختیار کر لیں۔ انہوں نے یمن کی امارت پسند کی اور صنعاء چلے گئے جہاں فیروز سے مل کر کاروبار حکومت چلانا شروع کر دیا۔ زیاد بن لبید بہ دستور حضرموت کے حاکم رہے۔

بنت نعمان سے عکرمہ کی شادی:

عکرمہ نے مدینہ لوٹنے کی تیاریاں شروع کر دیں لیکن ان کے ہمراہ نعمان بن الجون کی بیٹی بھی تھی جس سے انہوں نے میدان جنگ میں شادی کر لی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ام تمیم اور مجاعہ کی بیٹی سے شادی کر لینے کے باعث ابو بکرؓ خالد بن ولید پر سخت ناراض ہوئے تھے لیکن انہوں نے مطلق پروانہ کی اور بنت نعمان سے شادی کر ہی لی۔ اس واقعے سے ناراض ہو کر عکرمہ کی فوج کے بعض لوگوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔

ابوبکرؓ نے درخواست کو منظور کرنے میں کچھ تردد کیا۔ اس پر اشعث نے پھر عاجزانہ التجا کرتے ہوئے کہا:

”آپ مجھے چھوڑ دیجئے۔ میں آئندہ سچے دل سے اسلام پر قائم رہوں گا اور آپ مجھے بہترین مسلمان پائیں گے۔“

بہت کچھ غور و فکر کے بعد ابوبکرؓ نے اس کی جان بخشی کرنے کا فیصلہ کیا، اپنی بیٹی کو دوبارہ اس کے عقد میں دے دیا اور فرمایا:

”اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ۔ امید ہے کہ آئندہ مجھے تمہارے متعلق کوئی شکایت موصول نہ ہوگی۔“

لیکن اپنی قوم سے بد عہدی کرنے کے باعث اشعث اپنے قبیلے میں واپس جانے کی جرات نہ کر سکا اور قید سے چھوٹنے کے بعد ام فروہ کے ساتھ مدینہ میں قیام پذیر رہا۔ عمرؓ کے عہد میں جب عراق اور شام کی جنگیں پیش آئیں، تو وہ بھی اسلامی فوجوں کے ہمراہ ایرانیوں اور رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے باہر نکلا اور کارہائے نمایاں انجام دیئے جس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اس کا وقار پھر بلند ہو گیا اور اس کی مگشتہ عزت اسے پھر واپس مل گئی۔

حضرت موت اور کندہ میں امن:

مہاجر اور عکرمہ اس وقت تک حضرت موت اور کندہ میں مقیم رہے جب تک وہاں پوری طرح امن و امان قائم نہ ہو گیا اور اسلامی حکومت کی بنیادیں مستحکم نہ ہو گئیں۔ مرتدین کے ساتھ یہ آخری جنگیں تھیں۔ ان کے بعد عرب — بذاتِ ہ خاتمہ ہو گیا اور تمام قبائل کامل طور پر اسلامی حکومت کے زیرِ نگیں آ گئے۔

مہاجر نے اس علاقے میں امن و امان قائم رکھنے اور بغاوت و سرکشی کے اسباب کو پوری طرح مٹانے کے لیے اسی سختی سے کام لیا جس سختی سے وہ یمن میں کام لے چکے تھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک واقعے کا ذکر کرنا کافی ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ مہاجر باغیوں اور مسلمانوں کے مخالفوں کے ساتھ کیسی سختی سے پیش آتے تھے۔

عروج تک پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ ابو بکرؓ کی سیاست کا محور صرف اعلاء کلمۃ الحق تھا۔ یہی خواہش تھی جو ہر آن ان کے دماغ میں گردش کرتی رہتی تھی۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے انتہائی بے سرو سامانی کے باوجود مرتدین کے عظیم الشان لشکروں سے جنگیں لڑیں اور یہی جذبہ تھا جو عراق اور شام کی لڑائیوں میں کارفرما رہا۔



یہ معاملہ مہاجر کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن وہ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور تمام حالات ابوبکرؓ کی خدمت میں لکھ کر ان کی رائے دریافت کی۔ ابوبکرؓ نے لکھ بھیجا کہ ان کی رائے میں عکرمہ نے شادی کر کے کوئی نامناسب کام نہیں کیا۔

اصل میں واقعہ یہ تھا کہ نعمان بن الجون نے رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی تھی کہ آپ اس کی بیٹی کو اپنے عقد زوجیت میں لے لیں۔ لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور اس کی بیٹی کو اس کے والد کے ساتھ عدن واپس روانہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہؐ اس لڑکی کو رد فرما چکے تھے۔ اس لیے عکرمہ کی فوج کے ایک حصے کا خیال تھا کہ آپ کے اسوۂ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے عکرمہ کو بھی اس سے شادی نہ کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ابوبکرؓ نے یہ استدلال تسلیم نہ کیا اور عکرمہ کی شادی کو جائز قرار دیا۔ عکرمہ اپنی بیوی کے ہمراہ مدینہ آ گئے اور لشکر کا وہ حصہ بھی، جو اس شادی کی وجہ سے ناراض ہو کر ان سے علیحدہ ہو گیا تھا، دوبارہ ان سے آ ملا۔

عرب کی بغاوتوں کا اختتام:

اب عرب کی تمام بغاوتیں فرو ہو چکی تھیں۔ مرتدین کا قلع قمع کیا جا چکا تھا۔ اللہ نے اپنے دین کو عزت دے کر اسے غلبہ عطا فرما دیا تھا اور اسلامی حکومت کی بنیادیں اقصائے عرب میں مضبوطی سے قائم ہو چکی تھیں۔ ابوبکرؓ کو اسلام کے غلبے سے بے حد مسرت تھی لیکن اس مسرت میں غرور اور فخر و تکبر کا شائبہ تک نہ تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہوا۔ ان کی یہ طاقت نہ تھی کہ وہ گئے چنے مسلمانوں کے ذریعے سے سارے عرب کے مرتدین کی جرار فوجوں کا مقابلہ کر سکتے اور انہیں شکست دے کر اسلام کا علم نہایت شان سے دوبارہ بلند کر سکتے۔

آئندہ اقدام:

اب ابوبکرؓ کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ دین کی وحدت کو تقویت دینے اور اسلام کو

صحرائے شام کی جانب نقل مکانی:

اس صحرائے شام کی طرف قدیم زمانے میں نہ شام کے فنیقی باشندے متوجہ ہو سکے اور نہ عراق کے اشوری عرب کے بادیہ نشین لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا کیونکہ صحراؤں اور میدانوں میں عمریں گزارنے کے باعث ان سرشت ہی اسی قسم کی ہو گئی تھی کہ دنیا بھر کی خوبصورتی اور دلکشی انہیں صحرا میں نظر آتی تھی۔ شہری زندگی کو اس کے تمام لوازم کے باوصف وہ قید تصور کرتے تھے۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ شمالی جانب عربوں کی نقل و حرکت سب سے پہلے اس وقت شروع ہوئی جب یمن میں واقع مشہور سد مارب کے ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ بعد میں جب اس خدشے نے یقین کی صورت اختیار کر لی تو ازدی قبائل نے یمن سے نقل وطن شروع کر دیا اور بہ جانب شمال حجاز اور شام میں جا کر آباد ہو گئے۔

عربوں کے شمال میں منتقل ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ رومیوں نے تجارت کے لیے خشکی کا راستہ ترک کر کے سمندری راستہ اختیار کر لیا تھا جس کے باعث جنوبی عرب میں رہنے والے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھی بہتر طریقہ زندگی گزارنے کے لیے یمن سے حجاز اور شام چلے گئے۔ مورخین کے نزدیک ترک وطن یہ سلسلہ دوسری صدی عیسوی میں شروع ہوا۔ اگر یہ خیال درست سمجھ لیا جائے تو ماننا پڑے کہ عرب قبائل نے مدت دراز سے صحرائے شام میں آباد ہونا شروع کر دیا تھا اور وہ نہ صرف باقاعدہ ٹولیوں کی صورت میں وہاں سکونت پذیر ہونے لگے تھے بلکہ لوٹ مار اور تجارت کے غرض سے عربوں کے جو قافلے شام اور عراق جاتے تھے ان سے بھی اکثر لوگ وطن واپس جانے کے بجائے وہیں آباد ہو جاتے تھے۔

شام اور عراق جا کر بسنے والے عربوں کا قیام گوشہروں کے بجائے صحرائی علاقوں میں تھا پھر بھی انہوں نے سکونت کے لیے جن خطوں کو پسند کیا تھا وہ شہری آبادی کے قریب واقع تھے۔ اس کی وجہ محض جذباتی تھی نہ یہ کہ ملکی حالات انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ کیونکہ ایک طرف تو بدوی ہونے کے باعث فطرتاً صحرا کی زندگی کے دلدادہ تھے اور اسے کسی طرح چھوڑ نہ سکتے تھے۔ دوسری طرف ضروریات زندگی انہیں مجبور کرتی تھیں کہ وہ

گیارہواں باب

اسلامی فتوحات کی ابتداء

عرب کی شمالی حدود:

جزیرہ عرب کا وہ حصہ، جو ایک طرف خلیج عقبہ اور دوسری طرف خلیج فارس سے شروع ہو کر بجانب شمال پھیلتا چلا جاتا ہے، اہل عرب کے لیے ہمیشہ ہی سے پرکشش بنا رہا ہے۔ خلیج عقبہ کا شمال مشرقی حصہ شام سے اور خلیج فارس کا شمال مغربی حصہ عراق سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دونوں خلیجوں کے درمیانی علاقے میں پہاڑوں کا ایک سلسلہ واقع ہے جو صحرائے نفود اور دشت شام کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ جرف کے علاقے میں دومتہ الجندل وہ مقام ہے جہاں قدیم زمانے میں شام، عراق اور عرب کی سرحدیں ملتی تھیں۔

اہل شام نسلاً فینیقی تھے اور عراق کے قدیم باشندے اشوری نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ شام اور عراق کے درمیان دشت شام واقع تھا جس نے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رکھا تھا۔ خوفناک صحراؤں کو عبور کر کے دوسرے علاقوں میں جانا شہری باشندوں کے نزدیک جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ وہ ان گونا گوں خطرات میں پڑنا نہ چاہتے تھے جو صحراؤں میں بالعموم پیش آتے رہتے ہیں۔ علاوہ بریں صحراؤں میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو ان کے لیے کسی قسم کی کشش کا باعث ہو۔ آج بھی جب ذرائع رسل و رسائل میں بے حد ترقی ہو چکی ہے۔ وہاں کے لوگ موٹر میں بیٹھ کر بھی اس صحرا کو عبور کرنے سے گھبراتے ہیں اور عراق و شام کے درمیان ہوائی جہاز سے سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

تاکستانوں اور وہاں کی حسین و جمیل عورتوں کے تذکرے مکہ و مدینہ اور سارے حجاز میں بکثرت لوگوں کی زبانوں پر رہتے تھے۔ جب کبھی کوئی قافلہ شام کے تجارتی سفر سے واپس آتا تو اہل سفر اپنے ہم جلیسوں دوستوں، رشتہ داروں اور واقف کاروں سے وہاں کے حالات بالتفصیل بیان کرتے۔ بعد میں مختلف راویوں کے ذریعے سے یہ باتیں دور دراز کے قبائل تک پہنچ جاتیں۔ جب کبھی وہاں کے مرغزاروں اور حسین و جمیل وادیوں کا ذکر آتا تو تعجب کے مارے سامعین کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگتے جو ان سے یہ حالات بیان کر رہا ہوتا تھا اور بے اختیار ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش انہیں بھی اپنے ملک میں یہ آسائشیں اور نعمتیں میسر ہوتیں اور وہ بھی ان دل کش مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے۔

عربی طرز معیشت سے وابستگی:

عراق اور شام میں آباد ہونے والے عربی قبائل کا بھی یہی حال تھا۔ اگرچہ الحال انہیں شہری آسائشوں سے حصہ وافر ملا ہوا تھا پھر بھی وہ سب کے سب عربی بود و باش کے دلدادہ تھے۔ کیونکہ عربی النسل ہونے کے علاوہ جزیرہ عرب سے ان کے صدیوں کے تعلقات قائم تھے۔

ان حالات کے بیان کرنے سے میری غرض عراق اور شام کے عربوں سے متعلق کوئی تفصیلی مقالہ لکھنا نہیں بلکہ بعض ان اسرار و رموز کو آشکارا کرنا ہے جو انہیں اور غسانیوں کے ذریعے سے عربی فتوحات اور ابو بکرؓ کے عہد میں اسلامی سلطنت کی تشکیل کا باعث بنے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جنوب سے شمال کی جانب عربوں کا نقل مکان سدا مارب کے انہدام اور رومی تجارتی راستوں کا رخ خشکی کے بجائے سمندر کی طرف تبدیل ہونے سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اگرچہ ان ہر دو واقعات کو عربوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے پھر بھی نقل مکان کا یہ سلسلہ ان واقعات سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ عربوں کے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ قدیم زمانے سے گہرے تعلقات قائم تھے کیونکہ مشرق اقصیٰ کی تجارت ساری انہیں کے ہاتھوں میں تھی اور وہ تجارت کے سلسلے میں

نہری آبادی کے قریب رہیں تاکہ آبپاشی سے انہیں حاصل کر سکیں۔ ہر زمانے میں بدوی لوگوں کا یہی حال رہا ہے۔ آج بھی مصر، شام اور عراق میں بسنے والے بدو شہروں اور محراؤں کے درمیان ایسی جگہوں پر آباد ہیں۔ جہاں وہ صحرا کے قدرتی اور دل کش نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو سکیں اور روزی کے وسائل تلاش کرنے کے لیے شہروں تک پہنچنے میں کمی نہیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔

قبائل عرب کی شمالی حدود میں جوق در جوق جا کر آباد ہونے سے شام بھی گویا عرب کا ایک حصہ بن گیا۔ ان قبائل میں سب سے طاقت ور قبیلہ غسانیوں کا تھا۔ اس قبیلے نے اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر شام کی سرحد پر ایک سلطنت قائم کر لی۔ بنی غسان کی طرح انہوں نے بھی دریائے فرات کے ساحل پر مملکت حیرہ کے نام سے حکومت قائم کر رکھی تھی۔

صحرائے عرب میں بسنے والے ان کے ہم وطنوں کے ابتداء سے جو عادات و اوار چلے آ رہے تھے، شام اور عراق میں بسنے والے عربوں نے ان میں مطلق کوئی تبدیلی کی تھی۔ عربوں کا یہ خاصہ تھا کہ جس ملک میں اقامت پذیر ہوتے تھے۔ وہاں کے باشندوں سے تمام معاملات میں گہرے اشتراک سے کام لیتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہم میں رومی حکومت اور عراق میں ایرانی سلطنت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ چونکہ امت و فرمانبرداری کا یہ جذبہ محض تعاون کی پالیسی کے تحت تھا اور اس میں کسی حاکم کے لطف کا سوال نہ تھا اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا عرب ایک غیر قوم کی بالادستی تسلیم کرتے تھے بھی شخصی آزادی اور خود مختاری پر حرف نہ آنے دیتے تھے، اور اگر کسی جگہ ان کی شخصی ادنیٰ کو ذرا سا بھی خطرہ لاحق ہوتا تھا تو وہ بڑی شدت سے اس کی مدافعت کرتے تھے۔

یہ امر تعجب خیز ہے کہ بدوی لوگ صحرائی زندگی کے عادی ہونے پر اور دشت دی میں مشغول ہونے کے باوجود شہری زندگی کے بھی بے حد دلدادہ تھے، چنانچہ جب محراء سے دور ہوتے تھے تو دن رات اس کی تعریف و توصیف کے گیت گایا کرتے تھے، شہری زندگی میں جو سہولتیں اور راحت و آرام کے جوہر اسباب میسر تھے انہیں بھی وہ نہ رشک کی نظر سے دیکھتے تھے۔ شام کے ذل کش مرغزاروں اور پر فضا باغات،

صحرائے شام میں آباد ہونے والے عربوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ طبیعتوں کی افتاد کے باعث کبھی ایرانی لشکر سے مل جاتے کبھی رومیوں کی افواج سے ملحق ہو جاتے اور لوٹ مار میں خوب حصہ لیتے۔

آخر ان دونوں سلطنتوں نے ارادہ کیا کہ اپنی حفاظت کے لیے صحرائین لوگوں کو بہ طور ڈھال کے استعمال کیا جائے تاکہ کوئی سلطنت دوسری سلطنت پر حملہ نہ کر سکے اور شام کلی طور پر رومیوں کے لیے اور عراق خاص طور پر ایرانیوں کے لیے وقف ہو جائے۔

رومی اور ایرانی سلطنتوں کی پالیسی کے تحت شامی حدود کے قریب بسنے والے عرب قبائل کو رومیوں نے اپنے ساتھ اور عراق کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ بسنے والے قبائل کو ایرانیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اور ان قبائل نے بھی اندرونی خود مختاری، بدوی معیشت اور عربی معاشرت برقرار رکھتے ہوئے اپنی ہمسایہ سلطنتوں کی بالادستی تسلیم کر لی۔

شام میں مقیم عربی قبائل اپنے قومی خصائص برقرار رکھنے کے باوجود رومی تہذیب و تمدن اور سیاسی اثرات قبول کرنے سے باز نہ رہ سکے۔ مگر انہوں نے جہاں ایک طرف رومی تہذیب و تمدن کو اپنایا وہاں دوسری طرف رومیوں پر بھی اثر ڈالنے اور مملکت میں نفوذ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ مشہور رومی شہنشاہ فلپ دراصل عربی النسل اور قبیلہ سمیدع سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے کے متعلق تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے اسی نے عرب سے شام کی طرف نقل مکان کیا۔ تخت شاہی پر متمکن ہونے سے پہلے فلپ اپنی قوم کا سردار تھا اس کی وجہ سے شام میں مقیم عربوں کو بے حد عزت و وقعت حاصل ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے صحرا کو چھوڑنا اور رومیوں میں مدغم ہو جانا پسند نہ کیا۔

شامی عربوں کے برعکس عراق کی سرحدوں پر آباد ہونے والے عربوں نے صحرا کو چھوڑنے اور عراقی حدود میں داخل ہونے سے پرہیز کیا۔ کیونکہ اس طرح انہیں کلیئہ ایرانیوں کا مطیع و فرمانبردار ہو کر رہنا پڑتا تھا جسے ان کی آزاد منش طبیعت کسی طرح گوارا نہ کر سکتی تھی۔ لیکن بعد میں جب ایرانی سلطنت میں طوائف الملوکی اور خانہ جنگی پھیل گئی اور مختلف قبائل کے سردار اپنے اپنے علاقے میں خود مختار حاکم بن بیٹھے تو ان عربوں نے عراقی

اکثر شام، مصر اور روم وغیرہ ممالک میں جاتے رہتے تھے۔ حضرموت سے تجارتی قافلے دو راستوں سے شام جایا کرتے تھے۔ ایک راستہ بحرین اور خلیج فارس سے ہوتے ہوئے شام جاتا تھا۔ دوسرا راستہ یمن اور حجاز سے ہوتا ہوا جاتا تھا مکہ مؤخر الذکر راستے کے وسط میں پڑتا تھا۔

اس تجارتی سلسلے کا آغاز سب سے پہلے عرب کے جنوبی علاقوں یعنی حضرموت، یمن، عمان اور بحرین کے لوگوں نے کیا کیونکہ وہ سرسبز و شاداب علاقوں کے مالک ہونے اور ایرانیوں سے گہرے تعلقات رکھنے کی وجہ سے شمالی علاقوں کی نسبت زیادہ مہذب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عراق اور شام کی طرف جن لوگوں نے نقل مکان کیا اور وہاں جا کر آباد ہوئے ان میں زیادہ تر جنوبی قبائل کے لوگ تھے۔ غسانی جنہوں نے مشرقی شام میں اپنی مملکت قائم کر رکھی تھی، عمان کے ایک قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح قضاعہ، بنو خ اور کلب کے قبائل جو شام کی حدود پر آباد تھے، یمن کے مشہور قبیلے حمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی حال عراق میں بھی تھا۔ عراق کی سرحد پر جو عربی قبائل آباد تھے وہ زیادہ تر حضرموت سے آئے ہوئے تھے۔

ان قبائل نے ابتدائی زمانوں میں صحرائے شام کی طرف نقل وطن کیا تھا اور عراق و شام کی سرحدوں پر اپنی نیم مختار سلطنتیں قائم کر لی تھیں۔ سدما رب کے ٹوٹنے اور تجارت کے صحرائی اور سمندری راستوں میں منقسم ہونے کے باعث جنوبی علاقوں کے بعض قبائل حجاز میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر ان قبائل میں سے بھی بعض نے روزی کے بہتر وسیلے تلاش کرنے اور صحرائی زندگی سے اکتا کر شہری زندگی کا لطف اٹھانے کی خاطر شام کا رخ کیا۔

ایرانیوں اور رومیوں سے تعلقات کی نوعیت:

عراق اور شام اس زمانے میں ایرانی اور رومی سلطنت کے درمیان پس رہے تھے۔ کبھی ایرانی شام پر چڑھائی کر کے اسے رومیوں سے چھین لیتے اور عراق سے ملحق کر کے اسے اپنے ماتحت کر لیتے اور کبھی رومی عراق کو ایرانیوں سے چھین کر شام میں ملا لیتے اور وہاں اپنی حکومت قائم کر دیتے۔

بادشاہی فلپ کے قبضے میں۔ فلپ بہت سنگدل بادشاہ تھا اور رعایا پر بے حد ظلم و ستم توڑتا رہتا تھا۔ ان مظالم سے تنگ آ کر اہل شام نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ سابور نے موقع کو غنیمت جانا اور شام پر چڑھائی کر کے رومی فوج کو شکست دے دی۔ اذنیہ بھی رومی سلطنت سے دوستی کا عہد توڑ کر ایرانیوں سے جا ملا۔ اصل میں اس کی خواہش یہ تھی کہ سابور کے زیر سایہ وہ بھی عراق میں وہی رتبہ حاصل کر لے جو جذیمہ کو حاصل تھا لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ اسی زمانے میں قالریان نے فلپ کو تخت شاہی سے اتار کر اس کی جگہ بادشاہی سنبھال لی بادشاہ بننے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فوج لے کر خود شام کی طرف روانہ ہوا اور سابور کو شکست دے کر اسے ایران کی جانب بھگا دیا۔ اذنیہ نے بھی حیثیت بدل لی اور دوبارہ رومیوں کا حلیف بن گیا۔ لیکن قالریان کی بادشاہی بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی اور بہت جلد اسے تخت و تاج سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس وقت اذنیہ نے دوبارہ سابور سے مل جانا چاہا لیکن سابور نے اس کی ابن الوقتی کے پیش نظر اسے اپنا حلیف بنانے اور اس کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ اذنیہ کو اپنی قیادت کا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا کہ وہ شامی عربوں کو ساتھ ملا کر ایرانیوں سے اعلان جنگ کر دے۔ اس مرتبہ قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور اس نے ایرانیوں کو شکست دے کر مدائن کی طرف بھگا دیا۔ اس کارنامے سے رومیوں کے دلوں میں بھی اس کی قدرو منزلت بڑھ گئی اور وہ سمجھنے لگے کہ ایرانیوں کے مقابلے میں انہیں ایک طاقت ور شخص کی خدمات میسر آ گئی ہیں۔

اذنیہ کے بعد اس کی اولاد حاکم بنی۔ انہیں میں اس کی نہایت حسین و جمیل لڑکی زباء بھی تھی زباء نے جذیمہ کو جال میں پھنسا کر اسے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کی دعوت دی جو اس نے بڑی خوشی سے قبول کر لی لیکن شادی کے بعد زباء نے موقع پا کر جذیمہ کو قتل کر دیا۔ جذیمہ کے لڑکے عمرو بن عدی کے دل میں آتش انتقام بھڑک اٹھی اور اس نے قیصر بن عمرو کو ساتھ لے کر زباء کا محاصرہ کر لیا۔ جب زباء نے دیکھا کہ اس کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا اور اسے لامحالہ عمرو بن عدی کے ہاتھ سے قتل ہونا پڑے گا تو اس ذلت سے بچنے کے لیے اس نے خودکشی کر لی۔ اس کی وفات سے شام میں بنی سمیع کی قیادت کا

حدود میں داخل ہونے اور وہاں آباد ہونے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھا کیونکہ اب ان کے دلوں سے ایرانی سلطنت کی غلامی کا خوف کا فور ہو چکا تھا۔ انہوں نے عراق کی حدود میں داخل ہو کر دریائے فرات کے کنارے انباء کا شہر اور اس سے کچھ ہٹ کر حیرہ کا شہر آباد کیا اور یہاں سکونت پذیر ہو گئے۔

اس روایت کے برعکس بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دریائے فرات کے ساحل پر بسنے والے عرب قبائل اصل میں وہ قیدی تھے جنہیں ایرانیوں نے عرب کے جنوبی علاقوں سے تاخت و تاراج کے دوران میں پکڑا تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شہنشاہ بخت نصر دوم نے عرب پر حملے کے دوران میں جن لوگوں کو قیدی بنایا تھا انہیں وہ ساتھ لے گیا اور عراق پہنچ کر انہیں دریائے فرات کے کنارے مقام انبار میں آباد کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں انبار سے بہ جانب جنوب منتقل کر دیا۔ وہاں ان عربوں نے شہر حیرہ کی بنیاد رکھی اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

عربوں نے عراق میں اپنا اثر و رسوخ اسی وقت سے بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ۲۱۵ء اور ۲۶۸ء کے درمیانی عرصے میں جب عراقی عربوں کی قیادت جذیمہ الابرش یا جذیمہ الوضاح کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کمال ہوشیار سے عراق کی حدود میں بسنے والے عربوں کو ساتھ ملا کر حیرہ سے انبار اور عین التمر تک کا علاقہ قبضے میں کر لیا اور فرات کے مغرب میں صحرائے شام تک خود مختار حکومت قائم کر لی۔ اس نے اسی پر بس نہ کی بلکہ صحرائے شام میں بسنے والے ایک عرب قبیلے مضر پر حملہ کر کے وہاں کے عرب باشندوں پر بھی تسلط بٹھالیا۔ مضر کا ایک شخص عدی بن ربیعہ جذیمہ سے مل گیا تھا جس کی جذیمہ نے بڑی خاطر داری کی اور اسے اعزاز و اکرام سے نوازا۔

عدی نے جذیمہ کی بہن رقاش سے شادی کر لی تھی۔ عربی کتب ادبیات میں دونوں کے متعلق بڑے پر لطف قصے درج ہیں۔ رقاش کے بطن سے عمرو بن عدی پیدا ہوا جس کا ذکر آگے آئے گا۔ جس زمانے میں جذیمہ الوضاح نے عراق میں عربوں کے بادشاہ کی سی حیثیت حاصل کر رکھی تھی۔ اسی زمانے میں اذنیہ بن سمیعہ شام میں مقیم عربوں کی قیادت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ایران کی شہنشاہی سادر کے ہاتھ میں تھی اور روم کی

سے ہم نے انہیں چھوڑا تھا۔

جذیمۃ الابرش کے قتل کے بعد ساہور کی جانب سے عمرو بن عدی کو عراق کے عربوں کا سردار اور بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس نے حیرہ کو دار الحکومت بنالیا اور اس کے بعد حیرہ اس وقت تک لخمیوں کا دار الحکومت رہا جب تک حکومت ان کے ہاتھوں سے نہ چھین گئی۔

شاہان حیرہ:

عراق میں بسنے والے ایرانی شہنشاہی کے برائے نام محکوم تھے، اقتدار حاکم حیرہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ان عربوں کے فرائض صرف یہ تھے کہ اگر عرب یا شام کی طرف سے ایران پر حملہ ہو تو اسے روکیں اور ان تجارتی راستوں کی حفاظت کریں جو فارس سے شام اور عرب کو جاتے تھے۔

لیکن اس کے باوجود سرزمین ایران پر عربوں کے حملے نہ رک سکے۔ خلیج فارس کا قرب ان حملوں کے لیے مدد و معاون ثبات ہوا۔ وہ نہ صرف خشکی کی راہ سے حملہ کرتے تھے بلکہ بسا اوقات سمندری راستے سے بھی دھاوا بول دیتے تھے۔ ایرانیوں نے بارہا ان کے حملوں کو روکا۔ آخر ذوالاکتاف کو اپنی حدود میں ایک خندق کھدوانی پڑنی تاکہ ان حملوں کی شدت کم ہو جائے اور ایرانیوں کو آئے دن کے درد سر سے نجات ملے۔

بنی نصر کے بادشاہ یکے بعد دیگرے تخت پر متمکن ہوتے رہے آخر چوتھی صدی عیسوی کے اواخر میں شہنشاہ یزدجرد کی طرف سے نعمان اکبر تخت پر بیٹھا۔ یہ شخص تھا جس نے دو مشہور محل خورنق اور سدیر تعمیر کرائے تھے۔

مورخین بیان کرتے ہیں کہ عراق میں عیسائیت کا نفوذ نعمان ہی کے عہد سے شروع ہوا اور اس کی وجہ نعمان کی اس مذہب سے گہری دلچسپی تھی۔ پادریوں نے جب اس کا میلان عیسائیت کی طرف دیکھا تو اس کی اجازت سے ملک کے طول و عرض میں کئی گرجے تعمیر کر لیے۔ بعض مورخین تو یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف دلچسپی تک محدود نہ تھا بلکہ نعمان عیسائیت کا پر جوش رکن بن گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہنشاہ یزدجرد عیسائیوں کا سخت مخالف ہے اور عیسائیت قبول کرنے والوں کو شدید سزائیں دیتا ہے تو وہ

دور ختم ہو گیا اور ان کی جگہ غسانیوں نے لے لی۔ کچھ عرصے بعد بنی نصر کی ایک جماعت نے، جو عراق میں برسرِ اقتدار تھی، شام کے عربوں پر تسلط بٹھانے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش بار آور ثابت نہ ہوئی۔

اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ:

ان واقعات کا مطالعہ کرنے سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ابتداء میں قیدی بنا کر سرزمین عرب سے لایا گیا تھا، انہوں نے آہستہ آہستہ اتنی طاقت حاصل کر لی کہ رومی اور ایرانی دونوں سلطنتیں ان کی مدد کی محتاج ہو گئیں اور ان کی پوری کوشش ان کی دوستی اور تائید کے حصول میں صرف ہونے لگی۔ شجاعت اور فنون جنگ میں مہارت کی بدولت دونوں سلطنتیں انہیں اندرونی اور ذاتی خود مختاری دینے پر مجبور ہو گئیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایران اور روم کے زیر سایہ بننے والے قبائل عرب، یمن اور حضرموت کے قبائل سے نہ صرف یہ کہ کسی طرح کم نہ تھے بلکہ ان قبائل سے زیادہ آزادی اور خود مختاری حاصل تھی۔ اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ اس زمانے میں عرب کی حدود جنوب میں خلیج فارس اور خلیج عدن سے لے کر شمال میں موصل اور آرمینیا تک پھیلی ہوئی تھیں تو غلط نہ ہوگا۔ اسی طرح یہ دعویٰ بھی غلط نہ ہوگا کہ عراق اور شام کی حدود میں بننے والے ان عرب قبائل نے آئندہ ہونے والی اسلامی فتوحات کے لیے مقدمۃ الجیش کا کام دیا اور ان علاقوں میں اسلامی سلطنت کے قیام کی غرض سے زمین ہموار کی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان لوگوں کے دماغوں میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا دھندلا سا نقشہ بھی نہ تھا اور کسی کو سرزمین عرب میں ایک عظیم الشان نبی کی بعثت اور اس کے ذریعے سے عرب قوم کی سر بلندی کا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا لیکن دریائے فرات اور شام کی وادیوں کے درمیان ان قبائل کی سکونت، ان کی طرف سے عربی رسوم و رواج اور عادات و خصائل کی شدت سے محافظت اور ایران و شام اور عرب قبائل سے مساوی بنیادوں پر ان کے تعلقات، یہ تمام عوامل اس عربی سلطنت کی بنیاد بنے جس نے کامل چار صدی بعد ایرانی اور رومی سلطنت کی جگہ لی۔

اس جملہ معترضہ کو ختم کر کے ہم واقعات کو اسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جہاں

فلسطین نے رومی سلطنت کی باگ ڈور ہاتھ میں لی۔ اس وقت مسیحیت نے ترقی کرنی شروع کی۔ رومی بادشاہوں نے اپنے مقبوضات میں اسے ترویج دینے کی کوشش کی اور عیسائی منادوں نے قریہ بہ قریہ پھر کر حضرت عیسیٰ کا پیغام دنیا کو سنانا شروع کیا۔ ان مبلغین نے اپنا دائرہ عمل صرف شام تک محدود نہ رکھا بلکہ عراق اور بلاد فارس میں بھی عیسائیت کی ترویج کے لیے مساعی شروع کر دیں۔

اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایرانیوں اور رومیوں کی ان مذہبی جنگوں کے دوران میں عراق اور شام کے عربی قبائل کا طرز عمل کیا تھا۔ آیا انہوں نے بھی اپنے آقاؤں کے ادیان کا اثر قبول کر کے مجوسی اور مسیحی مذہب اختیار کر لیا تھا یا وہ بہ دستور اپنے آبائی مذہب بت پرستی پر قائم رہے؟

اگلی بحث شروع کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب دینا بے حد ضروری ہے کیونکہ ان سے عربوں کی ذہنی افتاد کا اچھی طرح پتا چل جائے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس ذہنی افتاد نے اسلامی فتوحات کے لیے کس حد تک راستہ ہموار کیا۔ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ عربوں نے عراق میں ایرانیوں کی اور شام میں رومیوں کی تہذیب و تمدن کا اثر بڑی حد تک قبول کر لیا تھا۔ عراق میں رہنے والے بعض عربوں نے فارسی میں اچھی دسترس حاصل کر لی تھی اور ایرانی علوم و فنون، ادب اور ادیان سے خوب واقف ہو گئے تھے اور انہوں نے مانی، زردشت اور مزدک کی تعلیمات اور عقائد سے بھی گہری واقفیت حاصل کر لی تھی۔^۱ یہی حال شام میں مقیم عربوں کا تھا۔ انہوں نے نہ صرف رومیوں کی ثقافت، ادب اور ادیان کا مطالعہ گہری نظر سے کیا تھا بلکہ عقلی و ذہنی طور پر وہ حیرہ کے عربوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھے کیونکہ یونانی ثقافت اور رومی تہذیب و تمدن سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔

عراقی عربوں نے ایرانیوں سے گہرے تعلقات اور میل ملاپ کے باوجود مجوسیت کو کبھی قبول نہ کیا۔ اسی طرح شامی عربوں نے رومی اور یونانی دیوتاؤں کی کبھی پرستش نہ کی۔ اس کے باوجود جب رومی سلطنت میں عیسائیت کو فروغ حاصل ہوا تو صرف شامی

اپنے بیٹے منذر اکبر کے حق میں بادشاہی سے دست بردار ہو گیا اور خود رہبانیت اختیار کر لی۔

شہنشاہ یزدجرد نے اپنے لڑکے بہرام گور کو بچپن ہی میں حیرہ بھیج دیا تھا تا کہ وہ وہاں پرورش پائے۔ حیرہ میں پرورش پانے کی وجہ سے بہرام کو عربی اور یونانی میں بڑی دسترس حاصل ہو گئی تھی اور عربوں اور رومیوں کے معاشی اور سیاسی حالات سے وہ پوری طرح واقف ہو گیا تھا۔ یزدجرد کی وفات کے بعد ایرانی سرداروں نے کسریٰ بن اردشیر بن سابور ذوالاکتاف کو تخت پر بٹھانے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کی پرورش ایران میں ہوئی تھی اور وہ اس کے عادات و خصائل سے اچھی طرح واقف تھے۔ لیکن بہرام ان کے نزدیک اجنبی کی حیثیت رکھتا تھا۔

بہرام نے اپنا تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے منذر سے مدد حاصل کی۔ جب وہ اپنی چیمنی ہوئی میراث حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو منذر نے اسے نصیحت کی کہ وہ اپنے دشمنوں سے عفو و درگزر سے کام لے۔ بہرام نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اس طرح نہ صرف اپنے مخالف سرداروں اور امراء کو اپنا گرویدہ کر لیا بلکہ انعام و اکرام دے کر اور ٹیکسوں کا بوجھ کم کر کے رعایا میں بھی ہر دلعزیزی حاصل کر لی۔

عیسائیت:

بہرام گور اپنے باپ کی طرح عیسائیوں کا شدید دشمن تھا۔ اسی لیے اس نے تخت پر بیٹھتے ہی عیسائیت کے استیصال کی مساعی شروع کر دی جس کے نتیجے میں ایران اور روم کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں منذر نے بہرام کی مدد کی۔ پھر بھی یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چلا اور آخر فریقین میں صلح ہو گئی جو مدت دراز تک برقرار رہی۔

شام میں بنی غسان کے عرب سردار اور حاکم ایرانیوں سے جنگ کے دوران میں رومیوں کی مدد کیا کرتے تھے اور انھی ایرانیوں کے حلیف بن کر رومیوں کے مقابلے میں نبرد آزما ہوتے تھے۔ ان جنگوں نے، جو ان عظیم سلطنتوں کے درمیان رونما ہوئیں، فریقین کے مذہبی جذبات کو ابھارنے میں بے حد مدد دی۔ چوتھی صدی عیسوی کے اوائل میں، جب

سلطنت کے قیام کے لیے بنیاد ثابت ہوا ہو۔

تبدیلی مذہب سے ان عربوں کی سرشت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ نہ عیسائیت کے پیچھے انہوں نے اپنی شخصی اور قومی آزادی کو چھوڑا اور نہ اس بدویانہ طرز زندگی کو ترک کیا جو وہ صدیوں سے قائم رکھے ہوئے تھے۔

چوتھی صدی عیسوی کے اواخر میں ایک عورت ماریہ بنت ارقم بن حارث ثانی کو شام میں عربوں کی حکومت تفویض ہوئی۔ رومیوں نے اسے کمزور جانتے ہوئے اس سے بادشاہی چھیننی چاہی لیکن اس نے عورت ذات ہوتے ہوئے بڑی بہادری سے رومیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں مصالحت پر مجبور کر دیا۔ لیکن بعد میں جب رومیوں کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی تو ماریہ نے پچھلے واقعات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے متعدد بہترین شہسوار رومیوں کی مدد کے لیے بھیجے جنہوں نے قسطنطنیہ جا کر پامردی سے باغیوں کا مقابلہ کیا۔

پھر بھی نہ تو آزادی کا وہ جذبہ، جو عراقی اور شامی عربوں میں یکساں جاری و ساری تھا، انہیں متحد کر سکا اور نہ فریقین کا عیسائیت کی طرف گہرا میلان ہی ان کی باہمی عداوتوں کو مٹانے میں کامیاب ہو سکا۔ اس کے برعکس لخمی اور غسانی ایرانیوں اور رومیوں سے مل کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کو زک پہنچانے کا کوئی دقیقہ کبھی فرو گزاشت نہ کرتے تھے۔

لخمی اور غسانی اوج کمال پر:

چھٹی صدی عیسوی کے اوائل میں عراق میں لخمی اور شام میں غسانی ترقی کی آخری منزلوں تک پہنچ گئے تھے۔ اس زمانے میں لخمیوں کی قیادت منذر ثالث کر رہا تھا اور غسانیوں کی حکومت حارث بن جبلة کے ہاتھ میں تھی۔ منذر ثالث بن ماء السماء شاہ حیرہ کا دور حکومت ۵۱۴ء تا ۵۶۳ء تھا۔ اسی زمانے میں ایران کے تحت پر قباذ اور کسریٰ انوشروان یکے بعد دیگرے متمکن ہوئے۔ حارث بن جبلة (جو ماریہ بنت ارقم ذات القرطین کا خاوند تھا) شاہ غسانہ نے ۵۲۹ء سے ۵۷۲ء تک حکومت کی۔ یہ عہد جستیان اور جستین ثانی

عربوں ہی نے نہیں بلکہ عراقی عربوں نے بھی اس کی آواز پر لبیک کہا اور کثرت سے اس نئے دین میں داخل ہونے لگے۔ طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان عربوں نے اپنے آقاؤں کے پہلے ادیان کو قبول نہ کیا تو وہ عیسائیت کی طرف کس طرح مائل ہو گئے؟

مورخین ذکر کرتے ہیں کہ بنو غسان میں سب سے پہلے عیسائی بادشاہ نے عیسائیت اس لیے قبول کی کہ شہنشاہ روم اپنی مملکت میں کسی جگہ بھی کسی غیر عیسائی کو حاکم مقرر کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں میں عیسائیت پھیل گئی۔ پھر بھی ہمارا سوال برقرار رہتا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ رومی شہنشاہ کے دباؤ کے ماتحت غسانی امراء عیسائی ہو گئے تھے تو بھی عوام کے عیسائیت قبول کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اگر یہ کہا جائے کہ الناس علی دین ملوکھم کی ضرب المثل کے تحت شامی قبائل اپنے سرداروں کی وجہ سے عیسائی ہو گئے تھے تو بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر عراقی قبائل میں سے بیشتر لوگوں نے عیسائیت کیوں قبول کر لی تھی حالانکہ یہی لوگ ایرانیوں کی تائید میں رومیوں سے لڑا کرتے تھے۔ اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ عراق اور شام کے قبائل میں عیسائیت پھیلنے کی کچھ نہ کچھ وجوہ ایسی تھیں جن کا تعلق عربوں کی ذہنی افتاد اور میلانات سے تھا اور جو ان وجوہ سے سراسر مختلف تھیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

عربوں کی سرشت میں سادگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ نہ وہ پر پیچ باتیں کرتے اور نہ ایسی باتیں پسند کرتے تھے۔ مزدک اور مانی نے لوگوں کے سامنے جو عجیب و غریب نظریات پیش کیے تھے، اسی طرح یونانی فلسفے کی بنیاد جن دقیق اور پر پیچ باتوں پر تھی عربوں کی عقلیں انہیں سمجھنے سے قطعاً قاصر تھیں۔ اس کے بالمقابل عیسائیت چونکہ اپنے اندر بڑی حد تک سادگی لیے ہوئے تھی اس لیے عربوں نے اسے آسانی سے قبول کر لیا اور بہت ہی کم لوگ مجوسیت کی طرف مائل ہو سکے۔

چونکہ عیسائیت کا آغاز خدا کے ایک نہایت پاک باز بندے کے ذریعے سے ہوا تھا، اسے قبول کرنے والے اہل کتاب میں شمار ہوتے تھے اور اسلام کے ظہور کے وقت متعدد نیک دل عیسائیوں نے رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ اس لیے کوئی تعجب نہیں کہ عراق اور شام میں بسنے والے عرب باشندوں کا قبول عیسائیت عربی فتوحات اور اسلامی

کو یوم حلیمہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سو آدمیوں کو حارث کی بیٹی حلیمہ نے عطر لگا کر منذر کے پاس بھیجا تھا۔

اس فتح سے شامی عربوں کے حوصلے بڑھ گئے اور ان کی عزت و توقیر میں بہت اضافہ ہو گیا۔ جاہلی ادب نے بھی اس زمانے میں خاصی ترقی کی۔

منذر ہی نے یوم نعیم اور یوم بوس کی بنیاد رکھی تھی اور عرب کے مشہور شاعر عبید الا برص کو یوم بوس کے موقع پر اسی نے قتل کرایا تھا۔ عرب کے مشہور شعراء نابغہ ذبیانی اور علقۃ الفصل حارث وہاب کے ہم عصر تھے۔

سلطنت حیرہ کے آخری دن:

منذر ثالث بن ماء السماء کے بعد اس کا بیٹا عمرو بن ہند عراق کا بادشاہ بنا۔ اس کی بادشاہی کے نویں سال رسول اللہؐ کی ولادت ہوئی۔ عمرو بن ہند کے بعد حیرہ کے تخت پر یکے بعد دیگرے بنو منذر متمکن رہے یہاں تک کہ ابوتا بوس نعمان بن منذر رابع ۵۸۳ء تا ۶۰۵ء سریر آرائے سلطنت ہوا۔ مشہور شاعر اُشی میمون بن قیس اسی کے دربار سے وابستہ تھا۔ نعمان کے عہد میں عراقی عربوں کی سلطنت دریائے دجلہ کے کناروں تک پھیل گئی تھی۔ اس کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے کسریٰ کے دار الحکومت مدائن سے بالکل قریب شہر نعمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔

اگرچہ نعمان انتہائی بد شکل تھا لیکن دنیوی نعمتوں اور آسائش حیات سے اسے

۱۔ یوم نعیم اور یوم بوس کو جاہلی ادب میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور اکثر شعراء نے اشعار میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان دنوں کی بنیاد اس طرح پڑی کہ منذر ثالث بن ماء السماء نے اپنے دو ندیموں خالد بن مضال اور عمر بن مسعود کو ایک دن شراب کے نشے میں زندہ دفن کرادیا۔ دوسرے روز جب اس کا نشہ اتر اور اسے اپنی حرکت کا علم ہوا تو بہت پچھتایا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس حادثے کی تلافی کی صورت اس نے یہ نکالی کہ اس نے ان کی قبروں پر دو چھوٹے چھوٹے ستون بنادیئے اور ان کا نام غریان رکھا۔ سال میں دو دن وہ وہاں جاتا تھا۔ ایک دن کا نام یوم نعیم تھا۔ اس روز جو شخص سب سے پہلے اس کے سامنے آتا تھا اسے سویا ہوا اونٹ انعام میں دیتا تھا۔ دوسرا دن یوم بوس کہلاتا تھا اس دن جو شخص اسے سب سے پہلے نظر آتا تھا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ کئی سال تک یہ ہولناک رسم جاری رہی اور کئی بد قسمت اشخاص اس کی بھینٹ چڑھ گئے۔ (مترجم)

شاہان روم کا تھا۔ حارث بن جبلة کو حارث الاعرج اور حارث الوہاب کے ناموں سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔

اسی زمانے میں ایرانیوں اور رومیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس میں حسب سابق ایرانیوں کی طرف سے منذر اور رومیوں کی طرف سے حارث شریک ہوئے۔ منذر نے جنگ کے دوران میں بہادری کے بے نظیر کارنامے انجام دیے اور بالآخر رومیوں کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا۔ رومیوں نے منذر کو تاوان کے طور پر سالانہ خراج دینا بھی منظور کر لیا مگر یہ صلح زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہی۔ رومیوں نے صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگی تیاریاں تیز کر دی تھیں۔ جس سے کسریٰ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے منذر کو حارث پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا جس کے نتیجے میں حارث کو ایک بار پھر شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ۵۶۲ء میں رومیوں اور ایرانیوں میں وسیع پیمانے پر جنگ چھڑ گئی۔

اس ساری مدت میں منذر ایرانیوں کے دوش بہ دوش جنگ میں حصہ لیتا رہا اور رومی سرحد کو پامال کرتا ہوا مصر کی حدود تک پہنچ گیا۔

منذر کے اس قدر طاقت حاصل کرنے کے باوجود رومیوں کی نظروں سے حارث کی وقعت کم نہ ہوئی۔ وہ اب بھی یہی سمجھتے رہے کہ ایرانیوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور عراقی عربوں کے جارحانہ حملوں کے مقابلے میں شامی عرب ایک ڈھال ثابت ہوں گے اسی لیے شہنشاہ جشمینین نے حارث کو ۵۲۹ء میں شام کے تمام عرب قبائل کا بادشاہ بنا دیا اور اسے ”فیلارک و بطریق“ (Phylorqeet Patrice) کا خطاب دیا۔ یہی لقب شام میں متعین رومی حاکم کو دیا جاتا تھا۔ حارث نے منذر سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدابیر سوچنی شروع کیں۔ چونکہ وہ مرد میدان نہ تھا اس لیے اس نے فریب کاری سے کام لینا چاہا۔ ایک دفعہ جب فریقین کے درمیان زور شور کی جنگ جاری تھی تو حارث نے سو آدمیوں کی ایک جمعیت شاہ حیرہ کے پاس بھیجی جس نے جا کر اس سے کہا کہ حارث اس کی اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہے۔ یہ سن کر منذر بہت خوش ہوا اور اس وفد کی خوب خاطر تواضع کی۔ مگر وفد کے ایک شخص نے موقع پا کر منذر کو قتل کر ڈالا۔ اس خبر سے لشکر عراق میں افراتفری پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر حارث نے زور شور سے حملہ کیا اور عراقیوں کی جمعیت منتشر کر دی۔ اہل عرب اس دن

”یہ پہلا روز ہے جب عربوں کو عجمیوں پر غلبہ حاصل ہوا ہے“

اور انہیں یہ فتح صرف میری وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔“^۱

یہ امر قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ کی بعثت جنگ ذوقار والے سال ہوئی تھی۔

نعمان کے بعد تخت حیرہ پر تین بادشاہ اور متمکن ہوئے آخری بادشاہ منذر مغرور

تھا۔ اس کا انتقال ۶۳۲ء میں ہوا۔ اس کے بعد عراق میں شاہان حیرہ کی حکومت کا دور ہمیشہ

کے لیے ختم ہو گیا اور کسریٰ کی طرف سے داؤد یہ ایرانی کو حکومت کے مکمل اختیارات دے کر

عراق بھیج دیا گیا۔

غسانی سلطنت کے آخری دن:

لخمیوں کے ذکر کے بعد اب ہم غسانیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لخمیوں کی

طرح غسانی امراء بھی یکے بعد دیگرے تخت امارات پر متمکن ہوتے رہے۔ شام کا آخری

عرب حاکم جبکہ بن اسہم تھا۔ جس کی حکومت کا خاتمہ حضرت عمرؓ کے عہد میں اسلامی افواج

کے ذریعے سے ہوا۔ ۵۸۷ء میں عمرو الاصغر غسانی شامی عربوں کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ مشہور

شاعر نابغہ ذبیانی نے نعمان بن منذر حاکم حیرہ کے ڈر سے عمرو الاصغر ہی کے پاس پناہ لی تھی۔

عمرو الاصغر کے بعد ابو کرب النعمان السادس بن حارث الاصغر برسر اقتدار آیا۔ نابغہ نے اس

کی مدح میں جو شان دار قصائد تصنیف کیے انہیں عربی شاعری میں بہت اہمیت حاصل ہے۔

نعمان سادس کے بعد غسانیوں میں طوائف الملو کی پھیل گئی اور ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ

حاکموں نے تسلط بٹھالیا۔ آخر اسہم ثانی کے بیٹے جبکہ بن اسہم پر غسانی حکومت کا خاتمہ ہو

گیا۔

غسانی امراء میں طوائف الملو کی حقیقت میں رومی حکومت کی ایک چال تھی۔

اسے ڈرتھا کہ کہیں ایک متحدہ عرب حکومت رومی سلطنت کے لیے پریشانی اور درد سر کا باعث

نہ ہو جائے اس لیے اس نے حکمت عملی سے کام لے کر ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ حاکم مقرر

کر دیئے تاکہ عرب متحد نہ ہو سکیں اور رومی سلطنت کو کوئی نقصان وضع نہ پہنچ سکے۔

حصہ وافر ملا تھا۔ اس نے اپنی سوتیلی والدہ متجردہ سے شادی کر لی تھی جو بے حد حسین و جمیل تھی۔ وہ منخل - بشکری سے محبت کرتی تھی۔ اس بناء پر نعمان نے منخل کو قتل کر دیا۔ انعمان نے اپنے دور حکومت میں کئی شاندار باغات بنوائے تھے اور دنیا کے مختلف حصوں سے قسم قسم کے خوبصورت پھولوں کے پودے منگوا کر ان باغوں میں لگائے تھے، یہی وجہ ہے کہ گل لالہ کا نام نعمان کی طرف منسوب ہو کر شقائق نعمان پڑ گیا۔

کسریٰ پرویز کو نعمان کی شان و شوکت اور اس کی سلطنت کی وسعت ایک آنکھ نہ بھائی اس نے اسے اپنے دربار میں طلب کر کے قتل کر دیا۔ نعمان کے قتل سے نخمیوں کی بادشاہی کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کسریٰ پرویز نے نعمان کی جگہ ایاس بن قبیصہ الطائی کو حیرہ کا بادشاہ مقرر کیا اور ایک ایرانی شخص بہر جان کو مرزبان مقرر کر کے عراق بھجوا دیا تاکہ شاہ حیرہ اپنے آپ کو خود مختار نہ سمجھے اور ایک ایرانی حاکم کا وجود اسے ہر وقت اس امر کی یاد دہانی کراتا رہے کہ وہ ایرانی حکومت کے تابع ہے۔ رسول اللہ کی بعثت اس ہی کے عہد میں ہوئی۔ اسی کے زمانے میں ذوقار کی مشہور لڑائی ہوئی۔

ذوقار کی لڑائی کو عربوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس جنگ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ کسریٰ کی ناراضگی کا حال معلوم ہونے کے بعد نعمان بن منذر نے اپنے اموال اور ہتھیار ہانئ بن قبیصہ کے پاس بطور امانت رکھوا دیئے تھے۔ نعمان کے قتل ہونے کے بعد کسریٰ نے ہانئ سے نعمان کی چیزیں طلب کیں لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس اثناء میں بنو بکر بن وائل نے نعمان کے قتل سے طیش میں آ کر سواد عراق پر حملہ کر لیا اور بہت سا علاقہ ایرانیوں سے چھین لیا۔ کسریٰ نے اس صورت کا مداوا کرنے کے لیے عربوں کے مقابلے پر ایرانی فوج روانہ کی۔ کوفہ کے قریب ذوقار کے مقام پر ایرانیوں اور عربوں کا مقابلہ ہوا جس میں ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی۔ روایت ہے کہ اس دن رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا:

بعض عربی روایات سے پتا چلتا ہے کہ منخل نعمان کے ڈر سے روپوش ہو گیا تھا اور اس کا سراغ ہی نہ مل سکا۔ چنانچہ عربی میں ایک ضرب المثل بھی ہے لا افعله حتی یوب المنخل (میں اس وقت تک کام نہ کروں گا جب تک منخل واپس نہ آ جائے) (مترجم)

پہلے انطاکیہ پر قبضہ کیا۔ وہاں سے بیت المقدس کا رخ کیا۔ کہاں تو ہرقل شہنشاہ روم کے خلاف برسر پیکار تھا کہاں اب اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ایرانی بیت المقدس کی طرف بڑھنے سے رک جائیں لیکن اس کی کچھ پیش نہ گئی اور وہ انہیں روکنے اور مسیحی و یہودی آثار مقدسہ کی بے حرمتی سے باز رکھنے میں مطلق کامیاب نہ ہو سکا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ یہود بھی مجوسیوں سے مل گئے اور انہوں نے عیسائیوں کے خلاف ان کی مدد کی۔ جب شام پر ایرانیوں کا کامل تسلط ہو گیا تو انہوں نے مصر کا رخ کیا اور رومیوں کی جگہ وہاں بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔

ایرانیوں کی ان پیہم کامیابیوں کے دوران میں رسول اللہؐ پر یہ آیت نازل ہوئی:

الم۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم
سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد۔
ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله۔
(اگرچہ رومی سرزمین شام میں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن عنقریب چند ہی سال میں وہ اپنی مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اس روز اللہ کی مدد کی وجہ سے مومن خوش ہوں گے۔)

اللہ کا وعدہ حرف بحرف پورا ہوا۔ چند ہی سال میں ہرقل نے دوبارہ طاقت پکڑ لی اور ایرانیوں سے نبرد آزما ہو کر انہیں مصر اور شام سے نکال دیا، صلیب اعظم ان سے واپس چھین لی اور اسے بیت المقدس میں اس کی اصلی جگہ آویزاں کر دیا۔ ان مسلسل لڑائیوں میں جہاں ایرانیوں کے غلبہ و اقتدار میں نمایاں فرق آ گیا وہاں رومیوں کی قوت و طاقت میں بہت حد تک کمی آ گئی۔ دیگر امور کے علاوہ یہ امر بھی عربوں کی سلطنت کے قیام اور فتوحات اسلامیہ کے لیے مدد و معاون ثابت ہوا۔

ابو بکرؓ کا موقف:

رومیوں اور ایرانیوں پر جو کچھ گزر رہی تھی مکہ اور مدینہ والے اس سے بے خبر

عراق میں لخمیوں کا صرف ایک دارالحکومت تھا اور وہ تھا حیرہ لیکن اس کے بالمقابل شام میں غسانیوں کے متعدد دارالحکومت تھے۔ جابیہ بھی دارالحکومت تھا۔ تدمر بھی دارالحکومت تھا۔ جولان بھی دارالحکومت تھا۔ دمشق کے قریب جلق بھی ایک دارالحکومت تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں عراق میں لخمیوں کی خود مختاری کا دائرہ بے حد وسیع تھا وہاں غسانیوں کی یہ حالت نہ تھی۔ انہیں اندرونی خود مختاری ضرور حاصل تھی لیکن عراقی عربوں سے بہت کم۔

اندرونی خود مختاری اور خالص عربی طرز زندگی اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوا کہ عراقی اور شامی عربوں کی زبان بہ دستور عربی ہی رہی۔ نہ عراق میں فارسی اس کی جگہ لے سکی اور نہ شام میں یونانی اور لاطینی زبانیں عربی کی قائم مقام بن سکیں۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ پہنچا کہ شاہان حیرہ اور امراء بنی غسان کے تعلقات اپنے ہم وطن عربوں سے بہت گہرے اور مخلصانہ رہے۔ ان تعلقات کی استواری میں عرب کے شعراء نے بے حد مدد دی جنہیں حیرہ اور غسان کے بادشاہوں کی طرف سے گراں قدر انعام ملا کرتے تھے۔ کتب ادب اور شعراء کے دیوان ان بادشاہوں کے افکار سے بھرے پڑے ہیں نابغہ ذبیانی، اعشیٰ قیس اور فلقمہ الفحل وغیرہ کثیر شعراء نے ان بادشاہوں کی مدح سرائی میں زور بیان صرف کیا تھا۔ اسی طرح دربار نبوی کے شاعر حسان بن ثابت کے اسلام لانے سے قبل جبلہ اسہم سے گہرے تعلقات تھے۔

ان تمام امور نے جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے، اسلامی فتوحات کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عربوں نے ان علاقوں میں پیش قدمی شروع کی یہاں بسنے والے عربوں نے بسا اوقات ان کی مدد میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی اور مسلمانوں کی فوجوں میں شامل ہو کر اپنے رومی اور ایرانی حلیفوں سے جنگ کی۔

میسوں اور ایرانیوں کے حملے:

اس زمانے میں رومی سلطنت میں بھی ہر طرف ابتری پھیلی ہوئی تھی اور ساری ست فساد اور شورش کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ شہنشاہ روم فوکاس (لوکس) کے خلاف حرقل بغاوت زور شور سے جاری تھی۔ ایرانیوں نے موقع کو غنیمت جان کر شام پر حملہ کر دیا۔

حکومت کے خلاف سراٹھانے اور فساد برپا کرنے کا کوئی موقع ہی نہ مل سکے۔ اس غرض کے لیے اللہ پہلے ہی سے سامان کر چکا تھا۔ صحرائے شام میں عرب قبائل کثرت سے آباد تھے اور ان سے امید کی جاسکتی تھی کہ وہ بھی دین اسلام کو اسی خندہ پیشانی سے قبول کر لیں گے جس طرح ان کے ہم قوم اور ہم اصل لوگوں نے قبول کر لیا تھا اور وہ بھی اپنے ہم وطنوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی میں شریک ہو جائیں گے۔

یہ خیالات اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے غرض ہر دم حضرت ابو بکرؓ کے دماغ میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ پھر بھی اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں نعوذ باللہ وسعت سلطنت کی ہوس تھی اور ایک وسیع علاقے پر اقتدار قائم کرنے کے خواہاں تھے۔ ان کا منشاء صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو اطمینان نصیب ہو، وہ بے روک ٹوک احکام دین پر عمل کر سکیں اور اسلام کی تبلیغ کے راستے میں انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ لوگوں کو اطمینان اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب حکومت کی بنیاد عدل و انصاف پر ہو اور اس میں ہوا و ہوس کا بالکل دخل نہ ہو۔ عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ حاکم اعلیٰ ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے یکسر پاک ہو اور اس میں خود غرضی و نفس پرستی کا شائبہ تک نہ ہو۔ مزید برآں وہ رعایا پر حد درجہ شفیق اور مہربان ہو۔

حضرت ابو بکرؓ اس معیار پر سو فیصد پورے اترتے تھے۔ وہ اپنے واسطے کسی عہدے اور مرتبے کے خواہش مند نہ تھے۔ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں انہوں نے کبھی اپنی ذات کو اجاگر کرنے کی کوشش نہ کی۔ رعایا پر وہ جس درجہ شفیق اور مہربان تھے اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ عدل و انصاف کو وہ ہر چیز پر مقدم رکھتے اور اس کے قیام میں اپنی جان اور اہل و عیال تک کو فراموش کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت کے تمام امور کی نگہداشت انتہائی حزم و احتیاط سے کرتے تھے۔

حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا پہلا سال زیادہ تر مرتدین کی شورش کا مقابلہ کرنے میں گزرا۔ مسلمان ہمہ تن اس فتنے کو فرو کرنے میں مصروف تھے اور جوق در جوق اسلامی لشکروں میں شامل ہو کر جہاد کے لیے اطراف ملک میں جا رہے تھے۔ لیکن اس نازک ترین موقع پر بھی حضرت ابو بکرؓ انتظامی اور ملکی امور میں غافل نہ رہے۔ انہوں نے حضرت عمرؓ بن

تھے۔ اسی طرح عراق اور شام کی حدود میں بسنے والے عربوں کا حال بھی ان سے پوشیدہ نہ تھا۔ ان حوادث و واقعات کا طبعی نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں کے دلوں میں ایرانیوں اور رومیوں کا جو رعب و دبدبہ قائم تھا وہ جاتا رہا اور ان کی نظروں سے ان سلطنتوں کی وقعت کم ہو گئی۔ رسول اللہؐ کی بعثت اور متحدہ طور پر سارے عرب کے اسلامی جھنڈے تلے جمع ہو جانے سے اس رجحان کو مزید تقویت پہنچی۔ پھر بھی اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ عربوں کی نظروں میں ان سلطنتوں کی وقعت اس درجہ کم ہو گئی تھی کہ وہ ان پر حملہ کرنے اور ان کی حدود کو پامال کرنے کا خیال بھی دل میں لا سکتے تھے۔ عربوں میں بیداری ضرور پیدا ہوئی مگر اس کا دائرہ جزیرہ عرب کو ان سلطنتوں کے اثر و نفوذ سے پاک کرنے کی کوشش تک محدود تھا۔ چنانچہ یمن اور عرب کے تمام جنوبی علاقوں نے ایرانیوں کی اطاعت کا جو اسر سے اتار پھینکا۔ رسول اللہؐ نے اپنے عہد مبارک میں ایرانیوں کی طرف خاص نگاہ رکھی اور اس غرض کے لیے بعض اقدامات بھی کیے۔ لیکن آپؐ کی غرض بھی یہی تھی کہ عرب کی شمالی سرحدوں کو قیصر کی فوجوں کے تاخت و تاراج سے محفوظ رکھا جائے۔ شام پر چڑھائی کرنا نہ آپؐ کا مقصد تھا اور نہ مسلمانوں نے ہرقل کے نام رسول اللہؐ کے تبلیغی خط کو شام پر چڑھائی کرنے کا بہانہ بنایا۔ پھر بھی حضرت ابوبکرؓ کے عہد میں بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ مسلمانوں کے لیے ایران اور شام پر چڑھائی کرنا ضروری ہو گیا۔

جس وقت یمامہ میں خالد بن ولید اور یمن اور اس کے نواح میں مہاجر بن ابی امیہ اور عکرمہ بن ابوجہل مرتدین کی سرکوبی میں مصروف عمل تھے اسی وقت سب لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب جزیرہ عرب میں صرف خلیفہ رسول اللہؐ کی فرمانروائی ہوگی اور آئندہ کسی فتنہ پرداز شخص کو شور و شر کرنے اور بغاوت کی آگ بھڑکانے کی جرات نہ ہو سکے گی مگر عام لوگوں کے برعکس حضرت ابوبکرؓ نے خوش فہمی سے کام نہ لیا۔ یہ بات بعید از قیاس نہ تھی کہ فساد کے شعلے ایک بار دب جانے کے بعد دوبارہ بھڑک اٹھتے اور ایک بار پھر جزیرہ عرب میں انتشار پیدا کر دیتے۔ حضرت ابوبکرؓ تمام حالات کا بہ نظر غائر جائزہ لے رہے اور سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ عرب قبائل کی شورش انگیزی کے خطرے سے بچنے کے لیے کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ان کی توجہات کو ایران اور شام کی طرف منعطف کر دیا جائے تاکہ انہیں

شکست دے کر انہیں اپنے علاقے سے نکال دینے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ انہیں حملے کا مزہ چکھانے کے لیے جزیرہ عرب پر بھی حملہ کر دیتے۔ عرب پر رومیوں کی چڑھائی معمولی بات نہ تھی، اس صورت میں اسلام کا کلیہ قلع قمع ہو جاتا۔

مرتدین کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اسلام نے آ کر عرب سے بت پرستی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا اور تمام عرب عقیدہ توحید کی لڑی میں منسلک ہو چکے تھے۔ یہ ایک زبردست قوت تھی جو اسلام کو حاصل تھی۔ مدعیان نبوت نے قبائلی عصبیت کی بنا پر سادہ لوح انسانوں کو چند روز کے لیے تو اپنے پیچھے لگا لیا لیکن محض بے بنیاد عقیدوں اور مضحکہ خیز تعلیمات کی بنا پر زیادہ عرصے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لگائے رکھنا ممکن نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو نہ ان لوگوں کا کذب و افتراء ان کے پیروؤں پر ظاہر ہونے لگا وہ ان کا ساتھ چھوڑنے لگے لیکن رومیوں کی بات علیحدہ تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اس دین کے پیرو جو ایک شاندار ماضی کا حامل تھا۔ مسلمانوں کی طرح وہ اہل کتاب تھے، اس کے علاوہ زبردست قوت و طاقت کے مالک بھی۔

یہ درست ہے کہ ان کے اور ایرانیوں کے درمیان سالہا سال سے جنگ و جدل کا سلسلہ جاری تھا۔ ابتداء میں ایرانی ان پر غالب آ گئے۔ لیکن بعد میں رومیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ جدال و قتال کے اس غیر مختتم سلسلے نے دونوں سلطنتوں کی قوت و طاقت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ پھر بھی ابھی ان کا رعب و داب ہمسایہ اقوام پر بدستور تھا۔ آپس میں تو وہ جنگ و جدل میں مصروف اور ایک دوسرے کو زک پہنچانے میں مشغول تھے لیکن کسی دوسری سلطنت کی مجال نہ تھی کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتی خصوصاً عرب جیسی حقیر قوم کی جس کی قوت و طاقت ایرانیوں اور رومیوں کے پاسنگ بھی نہ تھی اور جو ان سلطنتوں سے جنگ چھیڑنا اپنی موت کو اپنے ہاتھ سے دعوت دینے کے مترادف سمجھتی تھی۔

دوسرے عربوں کی طرح حضرت ابو بکرؓ کے دل میں بھی ایرانیوں سے جنگ کرنے کا خیال نہ آ سکتا تھا۔ حجاز فارس کے متصل نہ تھا اور عرب کے جو علاقے ایران سے ملے ہوئے تھے۔ ان میں قبل ازیں ارتداد کا فتنہ زور شور سے بھڑک چکا تھا اور کسی جنگ کی صورت میں اس علاقے کے لوگوں پر قطعاً اعتبار نہیں کیا جاسکتا تھا اس لیے حضرت ابو بکرؓ

خطاب کو مدینہ کا قاضی مقرر فرمایا گواہیں اس سلسلے میں کوئی کام کرنا نہ پڑا۔ دو سال بھر تک قضا کے عہدے پر متمکن رہے لیکن کوئی مقدمہ فیصلے کے لیے ان کے سامنے پیش نہ ہوا۔ ابو عبیدہ بن جراح کے سپرد بیت المال کا انتظام تھا۔ زکوٰۃ اور صدقات کا جو مال اکٹھا ہوتا تھا وہ اس کی تقسیم کے لیے مامور تھے۔ حضرت عثمانؓ بن عفان اور زیدؓ بن ثابت کے سپرد کتابت تھی۔ فرامین اور مراسلے یہی حضرات لکھا کرتے تھے۔ ان کے مقرر کردہ عمال اور قاندین بھی اطراف مملکت میں اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مشغول تھے۔ ان تمام لوگوں کا حضرت صدیقؓ سے گہرا رابطہ قائم تھا اور اہم ملکی امور میں کوئی شخص ان سے مشورہ لیے بغیر قدم نہ اٹھا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے جنگہائے ارتداد کے دوران میں ان کے اور ان کے عمال و قاندین کے درمیان کثرت سے خط و کتاب ہوئی جو تاریخوں میں محفوظ ہے۔ جنگہائے ارتداد کے باعث چونکہ حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا پہلا سال سخت مصروفیت کا گزرا۔ اس لیے انہوں نے حج کے موقع پر اپنی جگہ عتاب بن اسید کو امیر الحج بنا کر بھیج دیا۔

جب تک مرتدین سے جنگیں جاری رہیں حضرت ابوبکرؓ کے لیے کسی اور جانب توجہ منعطف کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ جب مرتدین کا مکمل قلع قمع ہو چکا اور چپے چپے پر اسلامی حکومت کی عمل داری قائم ہو چکی تو حضرت ابوبکرؓ کی توجہ اس ضروری مسئلے پر مبذول ہوئی کہ اعلاء کلمۃ الحق اور دین حقہ کی اشاعت کے لیے مسلمانوں کو آئندہ کیا قدم اٹھانا اور اپنی جدوجہد کو کس شکل میں مرکوز کرنا چاہیے۔

اس غرض کی انجام دہی کے لیے ایک مشکل یہ تھی کہ رومیوں پر حملہ کیا جائے اور ان جنگلوں کو، جن کا آغاز رسول اللہؐ غزوہ تبوک کے ذریعے سے فرما چکے تھے، پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ عربوں کی توجہ کلیہ رومیوں کی طرف پھیر دینے سے نہ صرف آئندہ کے لیے عرب سے بغاوت اور فتنہ و فساد کا خطرہ دور ہو جاتا بلکہ مملکت رومہ کے طول و عرض میں اشاعت اسلام کے لیے بھی راستہ صاف ہو جاتا۔

لیکن اس سلسلے کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا جس میں نظر رکھنا بے حد ضروری تھا۔ وہ یہ کہ اگر مسلمان رومیوں پر فتح یاب نہ ہو سکے تو پورے جزیرہ عرب کو زبردست خطرہ لاحق ہو جاتا جو مرتدین کے فتنے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوتا۔ رومی اپنے علاقے میں مسلمانوں کو

اس صورت حال نے حضرت ابو بکرؓ کے لیے غور و فکر کی غی راہیں کھول دیں۔ اب ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا اس موقع پر مسلمانوں کو عرب کی حدود سے باہر بھیجنا مناسب ہوگا اور کیا شنی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ عراق میں گھس کر ایرانی سلطنت کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھولنے میں کامیاب ہو سکے گا؟

عراق کی صورت حال یقیناً مسلمانوں کے لیے قابل توجہ تھی اور وہ اس طرف سے غافل نہ ہو سکتے تھے۔ عراق میں بنو نخم، تغلب، ایاد، نمر اور بنو شیبان متعدد عربی قبائل آباد تھے۔ گو یہ قبائل ایرانیوں کے محکوم اور ان کے مطیع و منقاد تھے۔ پھر بھی جزیرہ عرب سے ان کا جو قدرتی رشتہ تھا اسے بھی وہ کسی صورت میں فراموش نہ کر سکتے تھے۔ عرب میں جو بھی تحریک اٹھتی ان کے لیے اس کا بہ نظر غائر جائزہ لینا ضروری تھا۔ ادھر سجاح نے بھی عراق ہی سے نکل کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کی تمام امیدیں بھی ان مذکورہ بالا قبائل ہی سے وابستہ تھیں۔

اس ضمن میں حضرت ابو بکرؓ کے لیے سب سے حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ عراق میں ایرانی اقتدار ڈانوا ڈول ہو رہا تھا۔ رسول اللہؐ کی وفات سے کچھ عرصہ قبل ہرقل شہنشاہ روم مینوا اور دستجرد میں ایرانی افواج کو شکست فاش دے چکا تھا۔ اس کی فوجیں ایرانی دارالسلطنت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھیں۔

ہرقل کی فوج کشی کے بعد بعض اور علاقے بھی ایرانی عمل داری سے نکلنے اور آزاد ہونے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے یمن نے ایرانی اقتدار سے چھٹکارا حاصل کیا اور وہاں کے عامل بازان نے اسلام قبول کر کے اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کر لی۔ بعد ازاں بحرین اور خلیج فارس و خلیج عدن کے تمام علاقوں نے بھی ایرانیوں کی غلامی کو خیر باد کہا اور وہاں بھی اسلامی حکومت کا دور دورہ ہو گیا سلطنت ایران نے ان علاقوں کی بازیابی کے لیے کوئی کوشش نہ کی اور اس کے مقرر کردہ حاکم اپنی اپنی جگہ بیٹھے اطمینان سے مقبوضہ علاقہ پر غیر قوم کو قابض ہوتے دیکھتے رہے۔

اس موقع پر وہ کز بھی کیا سکتے تھے؟ خود سلطنت اندرونی انتشار کا شکار ہو رہی تھی۔ تخت ایران پر قبضہ کرنے کی خاطر ایرانی امراء میں جنگ و جدل برپا تھا۔ چار سال میں نو

کے واسطے یہی صورت مناسب تھی کہ وہ فتنہ ارتداد فرو کرنے کے بعد تمام تر توجہ سلطنت کے اندرونی استحکام اور قیام امن پر مبذول کرتے تاکہ عرب ایک وحدت میں منسلک ہو کر اقوام عالم میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیتے اور ان کی قوت و طاقت میں شاندار اضافہ ہو جاتا۔

ثنی بن حارثہ اور عراق:

حضرت ابو بکرؓ آئندہ اقدامات کے متعلق غور و فکر ہی میں مشغول تھے کہ خبر ملی، ایک شخص ثنی بن حارثہ شیبانی ایک قلیل فوج کے ساتھ پیش قدمی کر کے بحرین کے شمال میں دجلہ اور فرات کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ وہ ایرانی حکام، جنہوں نے بغاوت کی آگ بھڑکانے میں بحرین کے مرتدین کی مدد کی تھی، اس کے آگے بے بس ہو گئے ہیں اور تاب مقاومت نہ لا کر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ کو اب تک ثنی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ ان خبروں کے پہنچنے کے بعد تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا ہے اور علاء بن حضرمی کے ساتھ مل کر مرتدین سے جنگ کر چکا ہے۔ بحرین اور اس کے نواح میں جو لوگ بدستور اسلام پر قائم رہے تھے اور جنہوں نے اسلامی فوجوں کے ساتھ مل کر مرتدین کی جنگوں میں حصہ لیا تھا، ثنی ان کا سردار تھا۔ ارتداد کا فتنہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ چین سے نہ بیٹھا اور اپنے لوگوں کو ہمراہ لے کر خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ، بجانب شمال، عراق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آخر وہ ان عربی قبائل میں پہنچا جو دجلہ اور فرات کے ڈیلٹائی علاقے میں آباد تھے۔ اس نے گفت و شنید کر کے انہیں ایرانی سلطنت کا جو اسر سے اتار دینے اور اسلامی حکومت کی حمایت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ان امور کے علاوہ حضرت ابو بکرؓ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ثنی معمولی شخص نہیں بلکہ اپنے قبیلے کا ایک معزز فرد اور انتہائی قابل اعتماد شخص ہے۔ چنانچہ ان کے دریافت کرنے پر قیس بن عاصم المنقری نے کہا:

”یہ شخص گم نام، مجہول النسب اور فریب کار نہیں۔ یہ ثنی بن حارثہ

شیبانی ہے جو اعلیٰ حسب نسب اور شہرت و عزت کا مالک ہے۔“

عراق کا ڈیلٹائی علاقہ ہی اپنی خوبصورتی اور زرخیزی کے باعث عدم المثل نہ تھا بلکہ دجلہ اور فرات کا علاقہ بھی، جو تقریباً تین سو میل لمبا تھا، سارے کا سارا قدرتی نظاروں سے معمور تھا۔ زمین کی زرخیزی اور شادابی کے علاوہ یہ علاقہ تاریخی لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے چپے چپے پر آثار قدیمہ بکھرے پڑے تھے اور زبان حال سے پرہیز بادشاہتوں اور پر شکوہ سلطنتوں کی داستانیں ہر آنے جانے والے کو سنارہے تھے۔ چنانچہ شہر ”ارد“ جس کے آثار ہمارے زمانے میں دریافت ہوئے ہیں اور جس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شہر اس زمانے میں تعمیر ہوا تھا جب فراعنہ مصر پر حکمران تھے، اسی منطقے میں واقع تھا۔ شمالی جانب تھوڑا سا اور آگے بڑھنے پر قدیم شہر بابل کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے بابل کا برج اب تک کھڑا شوربین کی عظمت و شوکت کی داستان بیان کر رہا ہے۔ اسی دریائے فرات کے ساحل پر ساسانی جاہ و جلال کا مظہر اور ایرانی سلطنت کا دارالحکومت مدائن آباد تھا جس کی ثروت اور شان و شوکت کا شہرہ اقصائے عالم تک پھیلا ہوا تھا۔

باغات کی کثرت، غلے کی فراوانی اور دلفریب قدرتی مناظر کے باعث یہ علاقہ جنت ارضی کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اسی لیے جب شنی شیبانی نے حضرت ابو بکرؓ کے سامنے ساری صورت حال واضح کی تو وہ اس علاقے میں اسلامی فوجیں بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ شنی کا منشاء یہ تھا کہ عراق کے ڈیلٹائی علاقے میں اسلامی فوجیں بھیج کر عرب قبائل کو ظلم و ستم کے اس لامتناہی چکر سے نجات دلائی جائے جو ایرانی حکام کی طرف سے ان پر روا رکھا جا رہا تھا اور اس طرح انہیں ممنون احسان بنا کر اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔ اگر ایرانی حکام لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کریں تو فہماور نہ حکومت ایران سے باقاعدہ ٹکر لے کر حریت ضمیر اور مذہبی آزادی کے لیے راستہ صاف کیا جائے اور دلائل و براہین کے ذریعے سے دین حقہ کی اشاعت کے سامان فراہم کیے جائیں۔

کوئی قطعی فیصلہ کرنے سے پہلے حضرت ابو بکرؓ نے مدینہ کے اہل الرائے اصحاب سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ انہیں بلایا اور عراق کے تمام حالات سنا کر شنی کی یہ درخواست ان کے سامنے پیش کی کہ انہیں ان کی قوم کا سردار بنا کر ایرانیوں سے نبرد آزما

بادشاہ تخت نشین ہو چکے تھے اور ہر بادشاہ نے پے در پے اپنے مخالفین کا قتل عام کر لیا تھا۔ کسی بادشاہ کو چین سے حکومت کرنا نصیب نہ ہوا اور تخت پر متمکن ہونے کے چند ہی روز بعد اسے اپنے دشمنوں کی سازش کا نشانہ بننا پڑا۔

حضرت ابو بکرؓ آئندہ اقدام کے متعلق ابھی کوئی فیصلہ کرنے نہ پائے تھے کہ شنی خود مدینہ میں آ موجود ہوئے اور تمام حالات خلیفہ کے گوش گزار کر دیئے۔ انہیں اطمینان دلایا کہ شام کے برعکس عراق کی فتح سہل الحصول ہے اور عراق کے میدانوں میں عربوں کو ان مہیب خطرات سے بالعموم دو چار ہونا نہ پڑے گا جن خطرات سے شام پر فوج کشی کی صورت میں ہونا پڑتا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ زرخیزی اور حسین قدرتی مناظر کے لحاظ سے شام سے کسی طرح کم نہیں۔ اہل حجاز کو چونکہ عراق کی نسبت شام کا سفر اختیار کرنے میں زیادہ آسانیاں میسر ہیں اس لیے قدرتنا ان کی نظریں شام ہی کی طرف اٹھتی ہیں۔ لیکن اگر وہ عراق کے دل فریب مناظر دیکھیں تو یقیناً شام کی طرح یہ علاقہ بھی ان کے لیے پرکشش ثابت ہو۔

شنی نے یہ بھی بتایا کہ جو عرب قبائل دجلہ اور فرات کے ڈیلٹائی علاقے میں آباد ہیں وہ وہاں کے مقامی باشندوں کے ہاتھوں سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ عرب زیادہ تر کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو ایرانی زمیندار آتے اور سارا غلہ سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ لیکن وہ غریب مزارع، جنہوں نے رات دن سخت محنت و مشقت برداشت کرتے ہوئے خون پسینہ ایک کر کے فصل تیار کی تھی، بالکل محروم رہ جاتے ہیں اور ان کے حصے میں ان چند ٹکوں کے سوا کچھ نہیں آتا جو زمینوں کے مالک ازراہ ترحم بخشش کے طور پر انہیں دے جاتے ہیں۔ اس ذلیل برتاؤ کے باعث عربوں کے دل ایرانی امراء اور زمینداروں کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے ہیں اور اگر جزیرہ عرب کو ایرانی دیسہ کاریوں، سازشوں اور مخالفانہ کارروائیوں سے بچانے کے لیے عراق پر فوج کشی کی جائے تو ایرانیوں سے دلی نفرت کے باعث وہاں کے عرب قبائل ضرور اپنے ہم وطنوں کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں گے اور ہر طرح ان کی امداد کریں گے۔ اس لیے نادر موقع ہاتھ سے نہ کھونا چاہیے اور سرزمین عراق میں اسلامی فوجیں روانہ کر دینی چاہئیں۔

کے لیے روانہ کیا جائے گا جس کی مدد سے وہ مزید پیش قدمی جاری رکھ سکیں گے۔

یہ ہے وہ روایت جسے ہمارے خیال میں دوسری روایات پر ترجیح حاصل ہے، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ نہ ثنی امداد کی درخواست کرنے کے لیے مدینہ گئے اور نہ حضرت ابو بکرؓ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ ڈیلٹائی علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے۔ آگے جا کر انہیں ایرانی سپہ سالار ہرمز کی افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی ہرمز اور ثنی کے درمیان جنگ جاری تھی کہ حضرت ابو بکرؓ کو بھی ان واقعات کی خبر ہو گئی۔ وہ اس وقت تک ثنی کے نام سے بالکل بے خبر تھے۔ ان خبروں کے پہنچنے پر جب انہوں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ ثنی نے جٹھائے ارتداد کے دوران میں بحرین کے اندر متعدد کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر کے ہمراہ ثنی کی مدد کے لیے عراق جائیں اور ہرمز پر فتح یاب ہو کر کئی عربوں کے دار الحکومت حیرہ کی جانب کوچ کریں۔ ساتھ ہی عیاض بن غنم کو حکم دیا کہ وہ دومۃ الجندل جائیں اور وہاں کے متمرّد اور مرتد باشندوں کو مطیع کر کے حیرہ پہنچیں۔ دونوں قائدوں میں سے جو پہلے حیرہ پہنچ جائے اسی کو اس علاقے میں جنگی کارروائی کرنے والی فوجوں کی قیادت حاصل ہوگی۔

پہلی روایت کے مقابلے میں دوسری روایت ہمارے نزدیک قابل ترجیح نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے سرے سے صحیح ہی نہیں سمجھتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس عہد کے متعلق ہمارے پاس جو روایات پہنچی ہیں ان میں بے حد اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ ابتدائی مورخین طبری اور ابن اثیر وغیرہ بھی یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کس روایت کو ترجیح دیں اور کسے نہ دیں۔

بعد میں آنے والے بعض مورخین کا خیال ہے کہ خالدؓ اپنی فوجوں کے ہمراہ جب عراق کے ڈیلٹائی علاقے میں پہنچے تو ان کے سامنے کوئی معین مقصد اور پہلے سے تیار شدہ منصوبہ نہ تھا۔ وہ صرف ثنی کی مدد اور انہیں ایرانیوں کے لشکر سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن جب ابتدائی جنگوں میں انہیں کامیابی نصیب ہوئی تو انہوں نے بہ طور خود پیش قدمی کا ایک منصوبہ بنا کر حضرت ابو بکرؓ کی اجازت حاصل کیے بغیر حیرہ اور شمالی عراق کی

ہونے اور اس طرح ایک ایسا فرض ادا کرنے کا موقع دیا جائے جس کی بجائے آوری درحقیقت اسلامی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔

چونکہ اہل مدینہ عراق کے حالات سے بالکل ناواقف تھے اور انہیں ڈرتھا کہ سلطنت ایران پر چڑھائی کر کے اسلامی افواج کہیں الٹی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ خالد بن ولید کو بلا کر یہ سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جائے اور جو رائے وہ دیں اس پر عمل کیا جائے۔ خالد بن ولید اس زمانے میں غزوہ عقربا، سے فارغ ہو کر اپنی دونوں بیویوں، ام تمیم اور بنت مجاہد، کے ہمراہ یمامہ ہی میں مقیم تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے انہیں فوراً مدینہ طلب فرمایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ نے عراق پر فوج کشی کے متعلق ثنی کی تجاویز ان کے سامنے رکھیں تو انہوں نے بلاپس وپیش ان پر صا کر دیا۔

خالدؓ نے خداداد فراست کی بنا پر بھانپ لیا تھا کہ ثنی نے حدود عراق میں ایرانیوں کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہے اگر خدا نخواستہ وہ ناکام ہو گئی اور ثنی کی فوج کو عرب کی جانب پسپا ہونا پڑا تو ایرانی حکام دلیر ہو جائیں گے۔ وہ صرف ثنی کی فوج کو عراق کی حدود سے باہر نکالنے پر اکتفا نہ کریں گے بلکہ بحرین اور اس کے ملحقہ علاقوں پر دوبارہ اثر و رسوخ قائم کرنے اور تسلط بٹھانے کی کوشش بھی کریں گے اور اس طرح اسلامی حکومت کو سخت خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اس خطرے سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے وہ یہ کہ دربار خلافت سے ثنی کو قرار واقعی امداد مہیا کی جائے اور ایرانیوں کو عرب کی حدود میں اثر و رسوخ جمانے کے بجائے مزید پسپائی پر مجبور کیا جائے تاکہ ان کی جانب سے آئندہ کبھی عرب کو کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔

خالد بن ولید کی یہ رائے سن کر دیگر اصحاب نے بھی ثنی کی تجاویز قبول کر لیں اور حضرت ابو بکرؓ سے عرض کر دیا کہ انہیں ثنی کی امارت پر کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ثنی کو ان کی خواہش کے پیش نظر ان لوگوں کا سردار مقرر کر دیا۔ جنہیں ہمراہ لے کر انہوں نے عراقی حدود میں پیش قدمی کی تھی اور حکم دیا کہ فی الحال وہاں کے عرب قبائل کو ساتھ ملانے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ کریں، جلد ہی مدینہ سے ایک لشکر بھی ان کی امداد

بارہواں باب

فتح عراق

خالدؓ کی روانگی عراق:

حضرت ابو بکرؓ نے ثنی بن حارثہ شیبانی کی درخواست پر انہیں ایرانیوں پر حملہ کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی تھی چنانچہ ثنی نے اپنا قبیلہ ہمراہ لے کر ایک نئے عزم و ولولہ سے عراق پر بلہ بول دیا اور دریائے دجلہ و فرات کے ذیلنائی علاقے میں پے درپے فتوحات حاصل کرنی شروع کیں۔ جب یہ خبریں مدینہ پہنچیں تو حضرت ابو بکرؓ نے ثنی کو کمک بھیجنا مناسب خیال کیا تا کہ وہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے خالدؓ کو حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ عراق چلے جائیں اور لشکر کی کمان فی الحال اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں۔ عیاض بن غنم کو حکم دیا کہ وہ پہلے دومۃ الجندل جا کر وہاں کے سرکش لوگوں کو مطیع کریں اور وہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد بہ جانب مشرق حیرہ پہنچیں۔ اگر وہ خالدؓ سے پہلے وہاں پہنچ جائیں تو ایرانیوں سے جنگ کرنے والے لشکر کے سپہ سالار وہ ہوں گے اور خالدؓ ان کے ماتحت افسر ہو کر کام کریں گے، اور اگر خالدؓ پہلے پہنچ جائیں تو سپہ سالاری کے فرائض خالدؓ انجام دیں گے اور عیاض ان کے ماتحت ہوں گے۔

عرب عراق کی زمینوں میں بہ طور کاشت کار کام کرتے تھے۔ فصل تیار ہونے پر انہیں بٹائی کا بہت تھوڑا حصہ ملتا تھا۔ اکثر حصہ ان ایرانی زمینداروں کے پاس چلا جاتا تھا جو ان زمینوں کے مالک تھے۔ یہ زمیندار غریب عربوں پر بے حد ظلم توڑتے تھے اور ان کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے سالاروں کو حکم دے دیا تھا کہ جنگ کے دوران میں ان عرب کاشت کاروں سے نیک سلوک کیا جائے۔ انہیں

جانب بڑھنا شروع کر دیا اور حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں صرف خمس بھیجنے اور انہیں جنگی صورت حال سے آگاہ کرنے پر اکتفا کیا۔

لیکن یہ روایت ضعیف معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے مقرر کردہ قائدین کو واضح طور پر یہ احکام بھیج رکھے تھے کہ وہ کسی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اگلا قدم اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک ان سے اجازت حاصل نہ کر لیں۔ جنگ ہائے ارتداد اور بعد میں عراق و شام کی فتوحات کے دوران میں دیکھا جاتا ہے کہ تمام قائدین نے حضرت ابو بکرؓ کی اس ہدایت پر پوری طرح عمل کیا۔ اس لیے ممکن نہیں کہ خالدؓ عراق میں پیش قدمی کرتے وقت یہ واضح و ضروری ہدایت نظر انداز کر دیتے اور بہ طور خود ایک منصوبہ بنا کر خلیفہ کی اجازت حاصل کیے بغیر اس پر عمل شروع کر دیتے۔



لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دیں جو رسول اللہ کے بعد بدستور اسلام پر قائم رہے اور جنہوں نے مرتدین کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا۔ یہ خط موصول ہونے پر خالدؓ نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا۔ دو ہزار سپاہ ان کے پاس موجود تھی۔ قبائل مضر اور ربیعہ سے انہوں نے آٹھ ہزار افراد مہیا کیے اور دس ہزار کی جمعیت کے ہمراہ عراق روانہ ہو گئے۔ خالد سے پہلے حوامراء عراق میں موجود تھے اور جن کی سرکردگی ثنیٰ کر رہے تھے ان کے پاس آٹھ ہزار فوج موجود تھی۔ اس طرح عراق میں لڑنے والی اسلامی فوجوں کی تعداد اٹھارہ ہزار ہو گئی۔

حضرت ابو بکرؓ نے خالدؓ کو ہدایت کی تھی کہ وہ عراق میں جنگ کا آغاز ابلہ سے کریں جو خلیج فارس پر ایک سرحدی مقام تھا۔ ہندوستان اور سندھ کو جو تجارتی قافلے جاتے تھے وہ یہاں سے سفر شروع کرتے تھے اور ان دونوں ملکوں سے جو تجارتی قافلے عراق آتے تھے سب سے پہلے ابلہ میں قیام کرتے تھے۔ ابلہ کی فتح کے متعلق دو روایتیں مذکور ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں نے ابلہ کو سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں فتح کیا لیکن بعد میں یہ دوبارہ ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا اور حضرت عمرؓ بن خطاب کے زمانے میں مسلمان اس پر پوری طرح قابض ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی فتح حضرت عمرؓ کے زمانے میں ہوئی، البتہ مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ عراق میں سب سے پہلی جنگ حفر کے مقام پر

۱۔ ازدی نے خالدؓ کے لیے حضرت ابو بکرؓ کے ایک خط کا ذکر کیا تو جس میں انہوں نے خالدؓ کے لشکریوں کو نصائح فرمائی تھیں۔ حمد و ثنا کے بعد انہوں نے لکھا تھا:

”میں نے خالدؓ بن ولید کو عراق جانے کا حکم دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ وہ اس وقت تک وہاں جنگوں میں مشغول رہیں جب تک میری طرف سے انہیں واپس آنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ اور دشمنوں سے جنگ کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کا ثبوت نہ دو۔ اچھی طرح جان لو کہ تم نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے اگر حسن نیت سے اس میں قدم اٹھاؤ گے تو اللہ کی طرف سے ثواب عظیم کے مستحق ٹھہرو گے۔ جب تم عراق جاؤ تو اس وقت تک وہیں مقیم رہو جب تک واپس آنے کے متعلق میرے احکام تمہیں نہ پہنچیں۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے اور تمہارے ساتھ ہو اور سب کام اس کی رضا سے انجام پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔“

طبری ابن خلدون اور ابن اثیر نے اس خط کا ذکر نہیں کیا۔

قتل نہ کیا جائے نہ قیدی بنایا جائے۔ غرض ان سے کسی قسم کی بدسلوکی نہ کی جائے کیونکہ وہ عرب ہیں اور ایرانیوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ ان کی مظلومانہ زندگی کے دن ختم ہوئے اور اب وہ اپنے ہم قوم لوگوں کی بدولت حقیقی عدل و انصاف اور جائز آزادی و مساوات سے بہرہ ور ہو سکیں گے۔

حضرت ابو بکرؓ کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو بے حد فائدہ پہنچایا۔ ان کی فتوحات کے راستے میں آسانیاں پیدا ہو گئیں اور انہیں یہ خدشہ نہ رہا کہ پیش قدمی کرتے وقت کہیں پیچھے سے حملہ ہو کر ان کا راستہ مسدود نہ ہو جائے۔

حضرت خالدؓ کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ ایک تو اس کا بہت سا حصہ جنگ یمامہ میں کام آچکا تھا اور دوسرے حضرت ابو بکرؓ نے انہیں ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی شخص عراق نہ جانا چاہے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ کسی سابق مرتد کو اس وقت تک اسلامی لشکر میں شامل نہ کیا جائے جب تک خلیفہ سے خاص طور پر اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔

خالدؓ نے حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں مزید کمک بھیجنے کے لیے لکھا تو انہوں نے صرف قعقاع بن عمرو التمیمی کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کیا:

”آپ خالدؓ کی مدد کے لیے صرف ایک شخص کو روانہ کر رہے

ہیں حالانکہ لشکر کا بیشتر حصہ اب ان سے الگ ہو چکا ہے۔“

حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا:

”جس لشکر میں قعقاع جیسا شخص شامل ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا

سکتا۔“

صرف قعقاع سے یہ بات خاص نہ تھی۔ ایک بار عیاض بن غنم نے بھی ان سے ہمدانگی تھی تو انہوں نے عبد بن عوف الحمیری کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا تھا اور لوگوں کے استفسار پر وہی جواب دیا تھا جو قعقاع کے بھیجنے پر دیا۔

پھر بھی قعقاع کے ہاتھ آپؓ نے خالدؓ کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ وہ ان

”فلاں شخص ہر مز سے بھی زیادہ بد فطرت اور بد طینت ہے۔“

”فلاں شخص ہر مز سے بھی زیادہ احسان فراموش ہے۔“

یہی وجہ تھی کہ جزیرہ عرب کی حدود میں بسنے والے عرب اپنے بھائیوں پر مظالم کی داستانیں سن کر صبر نہ کر سکتے تھے اور وقتاً فوقتاً ہر مز کے علاقے پر چھاپے مار کر اس کا آرام و سکون برباد کیے رکھتے تھے۔ ہر مز ایک طرف عربوں کے پے در پے چھاپوں اور غارت گری سے عاجز رہتا تھا، دوسری طرف ہندوستان کے بحری قزاق اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے تھے۔ وہ کشتیوں میں سوار ہو کر آتے اور اس کے علاقے میں غارت گری کر کے واپس چلے جاتے۔

خالدؓ یمامہ سے دس ہزار کی جمعیت لے کر عراق روانہ ہوئے تھے۔ عراق کی سرحد پر انہوں نے مثنیٰ کو دو ہزار کی جمعیت کے ساتھ اپنا منتظر پایا۔ انہوں نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصہ فوج کو ہدایت کی کہ وہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا حفر پہنچ جائے۔ پہلا لشکر، جس کے سردار مثنیٰ بن حارثہ تھے۔ خالدؓ کے کوچ سے دو روز پہلے روانہ ہو گیا۔ دوسرا لشکر، جس کی قیادت عدی بن حاتم کر رہے تھے، اگلے روز روانہ ہوا۔ تیسرے روز خالدؓ بھی لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ ان لشکروں کی روانگی سے قبل خالدؓ نے ہر مز کو ایک خط بھی بھیجا تھا جس میں لکھا تھا:

”تم اسلام لے آؤ۔ امن میں رہو گے۔ اگر یہ بات منظور نہیں تو ذمی

بن کر ہماری سلطنت میں شامل ہونا اور جزیہ دینا قبول کرو۔ اگر یہ

پیش کش بھی تمہیں منظور نہیں تو بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہ

ہوگا۔ اس صورت میں تم اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرنا کیونکہ ہم اپنے

ساتھ ایک ایسی قوم لا رہے ہیں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنے تم

لوگ زندگی کے شائق ہو۔“

جب ہر مز کو یہ خط ملا تو اس نے شہنشاہ اردشیر کو پیش آمدہ حالات کی اطلاع دی اور خود لشکر جمع کر کے خالدؓ کے مقابلے کے لیے کو اظم روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے معلوم ہوا کہ خالدؓ نے اپنے لشکروں کو حفر میں جمع ہونے کی ہدایت کی ہے چنانچہ اس نے ”حفر“ کا

ہرمز سے مقابلہ:

ہرمز کی بستی خلیج فارس اور کاظمہ کے سرحدی شہر کے قریب صحرا کے کنارے واقع ہے۔ ایرانیوں کی طرف سے ہرمز اس علاقے کا حاکم تھا جو حسب و نسب اور شرف و عزت میں اکثر امراءِ ایران سے بڑھا ہوا تھا۔ ایرانی معززین کی عادت تھی کہ وہ معمولی ٹوپوں کے بجائے قیمتی ٹوپیاں پہنتے تھے۔ حسب و نسب اور شرف و عزت میں جو شخص جس مرتبے کا ہوتا تھا اسی مناسبت سے قیمتی ٹوپیاں پہنتا تھا سب سے بیش قیمت ٹوپیاں ایک لاکھ درہم کی ہوتی تھی جسے وہی شخص پہن سکتا تھا جس کی بزرگی مسلم الثبوت ہو اور جو شرف و عزت اور توقیر و جاہت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہو۔ ہرمز کے مرتبے کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹوپیاں کی قیمت بھی ایک لاکھ درہم تھی جسے کوئی کم درجے کا امیر ہرگز نہ پہن سکتا تھا۔ ایرانیوں کے نزدیک تو اس کی وجاہت مسلم الثبوت تھی لیکن عراق کی حدود میں بسنے والے عرب اسے انتہائی نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ کیونکہ وہ ان عربوں پر تمام سرحدی امراء سے زیادہ سختی اور ظلم کرتا تھا۔ عربوں کی اس سے نفرت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ کسی شخص کی خباثت کا ذکر کرتے ہوئے ہرمز کا نام بہ طور ضرب المثل لینے لگے تھے۔ چنانچہ کہتے تھے:

”فلاں شخص تو ہرمز سے بھی زیادہ خبیث ہے۔“

طبری ابن خلدون اشیر دونوں میں ابلہ کے متعلق مذکورہ اختلاف کا ذکر ہے۔ ازدی لکھتے ہیں کہ ابلہ ابلہ سے جنگ کا آغاز سوید بن قطبہ ذہلی نے کیا تھا۔ لیکن ابلہ والوں کی بہادری کے سامنے ان کی پیش نہ جاسکی۔ جب حضرت خالد بن ولیدؓ کو سوار سے ملے تو دونوں میں طے پایا۔ دشمنوں پر یہ ظاہر کیا جائے کہ خالد سوید کو چھوڑ کر مثنیٰ کے پاس چلے گئے ہیں لیکن رات گئے وہ فوج لے کر لشکر گاہ میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبر ابلہ میں مقیم ایرانی لشکر نے خالدؓ کے لشکر کو واپس جاتے دیکھا تو خیال کیا کہ یہ اچھا موقع ہاتھ آیا ہے سوید کی فوج ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے ایک بارگی بھر پور حملہ کر کے اس کی طاقت ختم کر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اگلے روز صبح سویرے سوید کی فوج پر حملہ کر دیا لیکن رات کے اندھیرے میں خالدؓ کی فوج سوید سے آ کر مل چکی تھی۔ نتیجتاً ایرانیوں کو سخت ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اسی قسم کی روایت فتوح البلدان باذری میں بھی موجود ہے۔

مسلمانوں کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے۔

مسلمانوں نے رات کے اندھیرے میں ان کا تعاقب کیا اور دریائے فرات کے بڑے پل (جسر اعظم) تک جہاں آج کل بصرہ آباد ہے، انہیں قتل کرتے چلے گئے۔ ان مفرورین میں قباذ اور انوشجان بھی شامل تھے جنہیں ہرمز نے میمنہ اور میسرہ کا سردار مقرر کر رکھا تھا۔

دشمنوں پر پوری طرح قابو پانے کے بعد خالدؓ نے معقل بن مقرن المر فی کو ابلہ جا کر مال غنیمت اور قیدیوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا اور ثنیٰ بن حارثہ کو شکست خوردہ مفرور لشکر کا پیچھا کرنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ معقل نے ابلہ کا رخ کیا اور ثنیٰ ہزیمت خوردہ لشکر کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔

اثنائے تعاقب میں ثنیٰ کا گزر ایک قلعے کی جانب ہوا جس میں ایک ایرانی شہزادی رہتی تھی۔ اسی مناسبت سے مورخین عرب اسے ”حصن المرأة“ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس قلعے کے کچھ فاصلے پر اس کے خاوند کا بھی ایک قلعہ تھا۔ ثنیٰ نے اپنے بھائی معنی بن حارثہ کو تو شہزادی کے قلعے کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا اور خود اس کے خاوند کے قلعے کا محاصرہ کر کے اسے شکست فاش دی۔ اس کے بعد بدستور ہزیمت خوردہ لشکر کا پیچھا شروع کر دیا۔ جب شہزادی کو اپنے خاوند کی شکست کا حال معلوم ہوا تو اس نے معنی سے مصالحت کر کے اس سے شادی کر لی۔

عراق کی اس سب سے پہلی لڑائی کو غزوہ ذات السلاسل کا بھی نام دیا جاتا ہے

۱۔ بعض مورخین معقل کے ابلہ جانے کا واقعہ تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا خیال جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ابلہ کو حضرت عمرؓ بن خطاب کے عہد میں فتح کیا۔ اس کے برعکس بعض مورخین کا بیان ہے کہ معقل نے ابلہ فتح کر لیا تھا لیکن بعد ازاں اسے ایرانیوں نے واپس لے لیا۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں عرب دوبارہ اس پر قابض ہو گئے۔ مؤرخ الذکر روایت اور سوید بن قطیبہ کے ہاتھوں ابلہ کی تسخیر کی روایت میں (جو ہم پہلے درج کر چکے ہیں) تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ سوید بن قطیبہ نے خالدؓ کی اعانت سے ابلہ فتح کیا ہو اور معقل نے جنگ کاظم کے بعد خالدؓ کے حکم کے مطابق صرف مال غنیمت جمع کرنے اور قیدی اکٹھے کرنے پر اکتفا کیا ہو۔

رخ کیا اور تیزی سے سفر کرتا ہوا خالدؓ سے پہلے وہاں پہنچ کر پانی پڑیرے ڈال دیئے۔ جب خالدؓ وہاں پہنچے تو انہیں ایسی جگہ اترنا پڑا جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا لوگوں نے ان سے اس مشکل کا ذکر کیا تو فرمایا:

”فکر کی کوئی بات نہیں۔ اسی جگہ پڑاؤ ڈالو اور دشمن کے ساتھ بے جگری سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ پانی پر آخر اسی فریق کا قبضہ ہوگا جو لڑائی میں استقلال اور صبر و استقامت کا ثبوت دے گا۔“

ہرمز نے میمنہ اور میسرہ پر شاہی خاندان کے دو آدمیوں قباز اور انوشجان کو متعین کر رکھا تھا لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہرمز اپنی صفوں سے باہر نکلا اور خالدؓ کو دعوت مبارزت دی۔ اسے خالدؓ کی بہادری، شجاعت، جوانمردی اور عظیم مرتبے کا خوب علم تھا اور جانتا تھا کہ اگر اس نے خالدؓ پر قابو پا کر انہیں قتل کر دیا تو ایرانیوں کو اگر کامل فتح نہیں تو کم از کم آدھی فتح ضرور حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اسے یہ بھی علم تھا کہ خالدؓ کو قتل کرنا اور ان پر قابو پانا آسان نہیں اس لیے اس نے فریب دہی سے کام لیا اور اپنے چند سواروں کو اس کام پر مامور کر دیا کہ جونہی وہ خالدؓ کو آتا دیکھیں فوراً ان پر جھپٹ پڑیں اور قتل کر دیں۔

ادھر جب خالدؓ نے ہرمز کی آواز سنی تو وہ گھوڑے سے اتر کر پیدل ہی، اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ قریب پہنچ کر تلوار کھینچی اور ہرمز پر حملہ آور ہوئے۔ اس اثناء میں ہرمز کے مقرر کردہ سواروں نے کمین گاہوں سے نکل کر خالدؓ کو قتل کرنا اور ہرمز کو ان کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا۔ لیکن مسلمان بھی کچی گولیاں نہ کھیلے تھے۔ قعقاع بن عمرو نے، جو بہت غور سے دشمن کی حرکات و سکنات جانچ رہے تھے، جونہی ایرانی سواروں کو کمین گاہوں سے نکلتے دیکھا، فوراً اپنے دستے کے ہمراہ ادھر کا رخ کیا اور خالدؓ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی انہیں تلواروں کی باڑوں پر رکھ لیا۔ اس دوران میں خالدؓ نے ایک دو سواروں کے بعد ہرمز کی گردن اڑادی اور اپنی صفوں میں واپس چلے آئے۔

اب دونوں فوجوں میں بہت بہ دست جنگ شروع ہو چکی تھی لیکن اپنے سپہ سالار کے مارے جانے کی وجہ سے ایرانیوں کی کمرہمت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک

بنایا ہوا عجوبہ ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کو ہاتھی کے مدینہ میں رکھنے سے کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ اس لیے انہوں نے اسے اس کے مہاوت کے ہمراہ عراق واپس بھیج دیا۔

اس فتح یابی نے مسلمانوں کی ہمتوں کو دو چند کر دیا تھا اور ان میں ایک نیا عزم اور ولولہ پیدا ہو چکا تھا۔ ثنیٰ شیبانی تیزی سے شکست خوردہ مفرور ایرانیوں کا تعاقب کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان لوگوں کے مدائن پہنچنے سے پہلے پہلے ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ انہیں مدائن سے خالدؓ اور ان کے لشکر کے مقابلے کے لیے ایرانیوں کے ایک عظیم الشان لشکر کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی۔ یہ لشکر شہنشاہ اردشیر نے اصل میں ہرمز کا خط ملنے پر ترتیب دیا تھا اور اپنے ایک سالار قارن بن قریانس کو اس سردار مقرر کیا تھا۔ قارن لشکر لے کر مدائن سے روانہ ہو چکا تھا کہ راستے میں اسے قباز اور انوشجان ملے جو ہرمز کے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ بھاگے چلے آ رہے تھے۔ اس نے ان کی ہمت بندھائی اور اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوا۔ کچھ دور آگے بڑھ کر اس لشکر نے ”مذار“ میں پڑاؤ ڈالا جو ایک ندی کے کنارے واقع ہے جو دجلہ اور فرات کو آپس میں ملاتی ہے۔

جنگ مذار:

جب ثنیٰ کو قارن کے لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اتنے عظیم الشان لشکر سے اکیلے مقابلہ کرنا اپنی شکست کو دعوت دینے اور سخت خطرہ مول لینے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے اپنے لشکر کے ہمراہ مذار کے قریب ہی ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور خالدؓ کو ایک خط لکھ کر تمام حالات سے مطلع کیا۔ خالدؓ نے اس اندیشے کے تحت کہ کہیں قارن ثنیٰ کی قلیل فوج پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد نہ کر دے، اپنی فوج کو فوری تیاری کا حکم دیا اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے مذار پہنچ گئے۔

خالدؓ کا اندیشہ صحیح تھا۔ قارن اس دوران میں برابر ثنیٰ کے لشکر پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف رہا لیکن خالدؓ کے اچانک مذار پہنچ جانے کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اصل میں ہرمز کے لشکر کی شکست نے ایرانیوں کے دل میں ایک آگ لگا دی تھی اور ہر شخص مسلمانوں سے انتقام لینے کے درپے تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ثنیٰ کے کمزور

کیونکہ اس جنگ میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ لیا تھا تا کہ کوئی بھی شخص میدان جنگ سے فرار نہ ہو سکے۔ لیکن بعض لوگ اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے جنگ کاظمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ یہ جنگ کاظمہ کے قریب لڑی گئی تھی۔

جنگ کاظمہ دور رس نتائج کی حامل ثابت ہوئی۔ اس لڑائی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ ایرانی، جن کی سطوت و صولت کا شہرہ ایک عرصہ سے سننے میں آ رہا تھا، اپنی پوری طاقت کے باوجود ان کی معمولی فوج کے مقابلے میں بھی نہ ٹھہر سکے۔ ان کا سردار ہرمز خالدؓ کے ہاتھ سے مارا گیا اور ہزاروں سپاہیوں کو میدان جنگ میں کٹوا کر آخرا نہیں فرار ہوتے ہی بن پڑی۔ اس جنگ میں مال غنیمت کی جو مقدار ان کے ہاتھ لگی اس کا وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہتھیاروں کے علاوہ ہر سوار کے حصے میں ایک ہزار درہم آئے تھے۔

اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کی ایک بڑی وجہ حضرت ابو بکرؓ کی وہ پالیسی بھی تھی جو انہوں نے عراق کے کاشت کاروں کے بارے میں وضع کی تھی اور جسے خالدؓ نے سختی سے لباس عمل پہنایا تھا۔ اس پالیسی کے تحت انہوں نے کاشت کاروں سے مطلق تعرض نہ کیا۔ جہاں جہاں وہ آباد تھے انہیں وہیں رہنے دیا اور جزیے کی معمولی رقم کے سوا اور کسی قسم کا تاوان یا ٹیکس ان سے وصول نہ کیا۔

خالدؓ نے مال غنیمت کا پانچواں حصہ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں ارسال کر دیا۔ اس کے ساتھ ہرمز کی بیش قیمت ٹوپی اور ایک ہاتھی بھی جسے مسلمانوں نے لڑائی کے دوران میں پکڑا تھا بھیج دیا۔ اہل مدینہ کو اس سے قبل ہاتھی دیکھنے کا کبھی اتفاق نہ ہوا تھا۔ مدینہ والوں کا تو ذکر ہی کیا عرب کے کسی اور باشندے نے بھی ابرہہ کے ہاتھی کے سوا آج تک ہاتھی کی صورت نہ دیکھی تھی۔ اس لیے جب عراق سے آئے ہوئے ہاتھی کے مہاوت نے اسے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا تو اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر اہل مدینہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ مخلوق کس قسم کی ہے۔ بعض عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھیں کہ کیا یہ جانور واقعی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے۔ بعض عورتوں کا خیال تھا کہ ایرانیوں کا

کے لشکر کے سامنے بری طرح بھاگ رہا تھا۔ تیس ہزار ایرانی اس دن میدان جنگ میں قتل ہوئے۔ اگر ایرانی فوج کا بیشتر حصہ کشتیوں میں سوار ہو کر، جس کا انتظام انہوں نے پہلے ہی سے کر رکھا تھا، پار نہ اتر جاتا یا بیچ میں نہر حائل نہ ہوتی تو اس دن مسلمانوں کے ہاتھوں ایک بھی ایرانی کا بچنا غیر ممکن تھا۔ فتح کے بعد خالد کچھ عرصے کے لیے مداری میں مقیم ہو گئے اور غنیمت کا پانچواں حصہ فتح کی خوش خبری کے ساتھ سعید بن نعمان کے ہاتھ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں مدینہ ارسال کر دیا۔

جنگ کے بعد لڑائی میں حصہ لینے والوں اور ایرانی فوج کی حمایت کرنے والوں کو مع اہل و عیال کے قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں ابوالحسن بصری بھی شامل تھے۔

جہاں لڑائی میں شامل ہونے والوں اور ان کے مددگاروں پر اس قدر سختی کی گئی وہاں عام رعایا سے بے حد نرمی کا سلوک کیا گیا۔ کاشت کاروں اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جزیہ دینے کا اقرار کر لیا تھا کچھ نہ کہا گیا اور انہیں ان کی زمینوں اور جگہوں پر برقرار رکھا گیا۔

ان ابتدائی امور سے فراغت حاصل کر کے خالدؓ نے مفتوحہ علاقے کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی۔ علاقے کے تمام لوگ ذمی قرار پائے اور ان پر جزیہ لگایا گیا۔ جزیہ وصول کرنے کے لیے جا بجا عمال مقرر کیے گئے۔ مفتوحہ علاقے کی حفاظت کے لیے انہوں نے حفر اور جسر اعظم پر فوجیں متعین کر رکھی تھیں، ان کا انتظام اور بہتر بنایا گیا اور فوجوں کے تمام دستوں کو مختلف افسروں کے زیر نگرانی دے کر انہیں دشمنوں کی خفیہ و علانیہ سرگرمیوں سے خبردار رہنے اور موقع پڑنے پر ان کا مقابلہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔

خالدؓ کی جنگی مہارت کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ سرزمین ایران میں ان کی پیش قدمی کے آغاز ہی سے کسریٰ کی طاقت و رنوجیں مغلوب ہونی شروع ہو گئیں اور ان کے دم خم، حوصلے اور ولولے سب سرد پڑ گئے۔ جنگ مدار حیرہ سے کچھ ہی فاصلے پر ہوئی تھی۔ حیرہ خلیج فارس اور مدائن کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔

جنگ و لہجہ:

ایرانیوں نے کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر ان عربی قبائل کو ساتھ ملانا چاہا جو دریائے

لشکر کو شکست دے کر جذبہ انتقام کو تسکین دے سکیں گے۔ خالدؓ کے مذاہر پہنچ جانے سے ایرانیوں کو تشویش ضرور ہوئی لیکن ان کے جذبہ انتقام میں کوئی کمزوری نہ آئی۔ قباذ اور انوشجان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذلت و رسوائی کا وہ داغ دھونا چاہا جو معرکہ حفر میں شکست کھانے اور میدان جنگ میں بری طرح فرار ہونے کی وجہ سے ان پر لگ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے لشکر کی ہمت بندھانی شروع کی اور ان کے جذبہ انتقام کو بھڑکا کر ایک بار پھر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے تیار کر دیا۔ ان دو شخصوں اور قارن کا خیال تھا کہ اگر وہ اس وقت خالدؓ کے غیر منظم اور غیر مرتب لشکر پر حملہ کر دیں تو یقیناً مسلمانوں کو شکست دے کر انہیں جزیرہ عرب کی جانب پسپا کر سکتے ہیں اور اس طرح ایرانی قوم اور کسریٰ کی نظروں میں سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں۔

خالدؓ نے جب ایرانی لشکر کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو انہوں نے بھی لشکر کو فوری تیاری کا حکم دے دیا اور ایرانیوں کو موقع نہ دیا کہ وہ ان کے غیر مرتب و غیر منظم لشکر پر حملہ کر سکیں۔ جنگ شروع ہوئی تو خالدؓ کے اس مقولے کی عملی تصویر ایرانیوں کے سامنے آ گئی کہ ”میں ایسے لوگوں کو لے کر تمہارے پاس آ رہا ہوں جو موت کے اتنے ہی عاشق ہیں جتنے تم زندگی کے۔“ مسلمان اس بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ان کے سامنے ایرانیوں کی کوئی پیش نہ جاتی تھی۔ مسلمانوں کی تلواریں بڑی بے دردی سے ایرانیوں کے سراڑا رہی تھیں۔ قارن، قباذ اور انوشجان، جن کے سپرد تمام ایرانی افواج کی کمان تھی اور جنہیں بہادری اور شجاعت پر ناز تھا ایک ایک کر کے مسلمان سرداروں کے سامنے آئے لیکن اپنے آپ کو قتل ہونے سے نہ بچا سکے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تینوں سردار تلوار کے گھاٹ اتر گئے۔

اپنے بڑے بڑے بہادروں اور سرداران فوج کو ایسی بری طرح قتل ہوتے دیکھ کر ایرانی فوج کے چھکے چھوٹ گئے۔ مسلمانوں نے ایرانیوں کی گھبراہٹ اور بے چینی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور انہیں گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایرانیوں میں شکست کے آثار تو پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، اس نئے حملے نے ان کے ہوش و حواس بالکل معطل کر دیے اور تھوڑی دیر میں وہ لشکر جو اپنی قوت و طاقت پر نازاں تھا اور جسے فتح سامنے نظر آ رہی تھی خالدؓ

ہو تو وہ دشمن پر اچانک پیچھے کی طرف سے حملہ کر کے اس کا تیاپا نچا کر دیں۔ لیکن ان دستوں کو کمین گاہوں کے اندر چھپنے میں دیر لگ گئی جس کے باعث وہ وقت مقررہ پر میدان جنگ میں پہنچ کر دشمن پر حملہ آور نہ ہو سکے۔

جنگ میں کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور وہ دشمن کو پیچھے دھکیل دیتے اور کبھی دشمن کا زور بڑھ جاتا اور وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ آخر عین اس وقت جب فریقین میں سے کسی کو بھی واضح فیصلے کا یقین نہ رہا تھا اور دونوں مایوس ہو کر اپنے اپنے کیمپوں میں واپس جانے اور اگلے روز کی لڑائی کے لیے تیاری کرنے والے تھے، اسلامی فوج کے دستے کمین گاہوں سے نکلے اور عقب سے کسریٰ کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ ایرانی پہلے ہی مسلمانوں کی زبردست مقاومت سے گھبرائے ہوئے تھے۔ یہ نئی مصیبت دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے اور حوصلہ ہار بیٹھے خالدؓ کی فوجوں نے سامنے سے اور کمین گاہوں سے نکل کر آنے والے دستوں نے پیچھے سے دشمن کو گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔

جنگ الیس:

اس شکست نے، جو قبیلہ بکر بن وائل کو اپنے ہم قوم اور ہم وطن لوگوں کے ہاتھوں اٹھانی پڑی تھی، عراق کے عربی النسل عیسائیوں کو آتش زیر پا کر دیا۔ انہوں نے طیش میں آ کر مسلمانوں سے ایک بار پھر جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اپنا سردار بنو عجلان کے ایک شخص عبد الاسود عجلی کو بنایا اور حیرہ وابلہ کے درمیان مقام الیس پر فوجیں اکٹھی کرنے لگے۔ ساتھ ہی دربار ایران سے مدد کی درخواست بھی کی۔ وہاں سے بہمن جاذویہ کو حکم ملا کہ وہ بھاری جمعیت کے ساتھ عیسائیوں کی مدد کو پہنچے۔ یہ احکام ملنے پر بہمن جاذویہ نے مناسب خیال کیا کہ وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے شہنشاہ اردشیر سے بالمشافہ گفتگو کرے۔ اس نے فوج کی کمان ایک سردار جابان کے سپرد کر کے اسے ہدایت کی کہ وہ فوج لے کر الیس پہنچ جائے لیکن جہاں تک ممکن ہو دربار ایران سے اس کی واپسی تک جنگ کا آغاز نہ کیا جائے۔ خود وہ شہنشاہ سے مشورہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ شہنشاہ اردشیر بیمار ہے۔ وہ وہیں ٹھہر گیا لیکن جابان کو کوئی ہدایت نہ بھیجی۔

دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں عراق کی سرحدوں کے قریب آباد تھے۔ ان میں سے اکثر قبائل عیسائی تھے جنہیں ایرانی سر توڑ کوشش کے باوجود مجوسی مذہب قبول کرنے پر آمادہ نہ کر سکے تھے۔ جب مسلمان اس سر زمین میں وارد ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بہ صورت دیگر جزیے کا مطالبہ کیا۔ ان کا فائدہ سراسر جزیہ قبول کرنے میں تھا کیونکہ اس طرح وہ اپنی آزادی بدستور برقرار رکھ کر ان مراعات سے فائدہ اٹھا سکتے تھے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل تھیں، لیکن مدت دراز تک ایرانیوں کی عملداری میں رہنے کے باعث وہ ان کے احکام سے سرتابی کی جرات نہ کر سکے۔ عراق میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکر بن وائل تھا۔ کسریٰ اردشیر نے انہیں طلب کیا اور ان کی ایک فوج مرتب کر کے انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ولجہ کی جانب روانہ کر دیا۔ لیکن اس خیال سے کہ مسلمانوں پر فتح یابی کا فخر کلیۃً عیسائی عربوں کے حصے میں نہ آئے، اپنے ایک بہت بڑے سپہ سالار بہمن جاذویہ کو بھی ایک بھاری لشکر کے ہمراہ ان کے پیچھے پیچھے روانہ کر دیا۔ عیسائی لشکر نے حیرہ اور ولجہ کے درمیان بسنے والے دوسرے عرب قبائل اور کاشت کاروں کو بھی ساتھ ملا لیا اور اس طرح عربوں کا ایک عظیم الشان لشکر اپنے ہی اہل وطن سے لڑنے کے لیے روانہ ہو گیا جس کے پیچھے ایرانیوں کی ایک بھاری جمعیت بھی چلی آ رہی تھی۔

خالد گونداری میں یہ خبریں پہنچیں۔ انہوں نے اپنے تمام فوجی افسروں کو جو حیرہ، کاظمہ اور عراق کے دوسرے حصوں میں موجود تھے، کہلا بھیجا کہ وہ دشمن کی کارروائیوں سے خبردار رہیں اور اس دھوکے میں نہ آئیں کہ ماضی میں چونکہ بعض عظیم فتوحات حاصل ہو چکی ہیں۔ اس لیے اب دشمن ان کے مقابلے میں سراٹھا ہی نہیں سکتا۔ وہ خود لشکر لے کر کسریٰ کی بھیجی ہوئی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ولجہ روانہ ہو گئے اور دشمن کی فوجوں کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔ چونکہ دونوں فریق طاقت و قوت اور عزم و ارادہ میں ایک دوسرے سے کس طرح بیٹے نہ تھے۔ اس لیے خاصے وقت تک فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ خالد زیادہ دیر تک یہ صورتحال برداشت نہ کر سکے اور لشکر کے دوسرے داروں کو حکم دیا کہ وہ اپنا دستہ لے کر فوج سے علیحدہ ہو جائیں اور دشمن کی صفوں کے پیچھے جا کر چھپ جائیں۔ جب لڑائی شروع

جنگ سے فرار ہونے لگے۔ خالدؓ نے یہ دیکھ کر فوج میں اعلان کر دیا کہ بھاگنے والوں کا تعاقب کیا جائے اور انہیں زندہ پکڑ کر ان کے سامنے حاضر کیا جائے۔ صرف اسی شخص کو قتل کیا جائے جو کسی طرح قابو میں نہ آئے اور مزاحمت پر آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ مسلمانوں اور ان کے مددگار عراقی عربوں نے، جو اسلامی فوج میں شامل تھے، ایسا ہی کیا اور عیسائی گروہ درگروہ میدان جنگ میں لائے جانے لگے۔

جبابان کی ایرانی فوجوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کھانا تیار کیا تھا اور وہ اطمینان سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ مسلمان بلائے ناگہانی کی طرح ان پر آ پڑے اور وہ کھانا اسی طرح چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ خالدؓ نے اپنی فوج سے کہا:

”یہ کھانا اللہ نے تمہارے لیے تیار کر لیا تھا اب تم مزے سے اسے کھاؤ۔“

مسلمان دسترخوانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ عجیب عجیب کھانے تھے جنہیں مسلمانوں نے کبھی دیکھا تھا نہ چکھا تھا۔ وہ کھاتے جاتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاتے تھے۔ جس نے انہیں بے مانگے ان نعمتوں سے نوازا تھا۔

الیس کے قریب دریائے فرات اور دریائے باوقلی کے سنگم پر ایک شہر امغیشیا یا منیشیا آباد تھا جو آبادی کی کثرت اور مال و دولت کی فراوانی میں حیرہ کا ہم پلہ تھا۔ اس کے باشندوں نے بھی جنگ الیس میں عیسائیوں اور ایرانیوں کی مدد کی تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد خالدؓ نے اس قصبے کا رخ کر کے اسے فتح کیا۔ یہاں سے بھی مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا جس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مال غنیمت میں سے ہر سوار کے حصے میں علاوہ اس حصے کے جو اسے الیس میں ملا تھا پندرہ سو درہم آئے۔

اس کے بعد خالدؓ نے مال غنیمت کا پانچواں حصہ اور ان جنگوں میں گرفتار ہونے والے قیدی حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں روانہ کر دیئے۔ انہیں کے ہمراہ بنی عجل کے ایک شخص جندل کو بھی بھیجا جس نے الیس کی فتح، مال غنیمت، قیدیوں کی کثرت اور خالدؓ کے کارناموں کا حال بالتفصیل حضرت ابو بکرؓ سے بیان کیا۔ یہ واقعات سن کر انہوں نے فرمایا:

”عورتیں اب خالدؓ جیسا شخص پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔“

انہوں نے جنگ الیس کے قیدیوں میں سے ایک لونڈی جندل کو مرحمت فرمائی

ادھر جابان نے ایس پہنچ کر عیسائی فوجوں کے متصل پڑاؤ ڈال دیا اور انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے متعلق مشورے دینے لگا۔

خالد کو معلوم نہ تھا کہ عیسائیوں کی مدد کے لیے ایرانیوں کا لشکر بھی جابان کے زیر سرکردگی میدان جنگ میں موجود ہے۔ انہیں صرف عربی النسل عیسائیوں کے مقام ایس میں اجتماع کی خبر ملی تھی۔ وہ اپنا لشکر لے کر پہلے حنظل پہنچے اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ ان کے مقرر کردہ عمال وہاں کا نظم و نسق کامیابی سے چلا رہے ہیں اور پشت کی جانب سے کسی حملے کا اندیشہ نہیں، دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایس پہنچتے ہی انہوں نے عیسائیوں کو تیاری کا موقع دیے بغیر ان سے لڑائی چھیڑ دی۔ یہ حملہ اس قدر اچانک ہوا کہ عیسائی بالکل نہ سنبھل سکے اور پہلے ہی ہلے میں ان کا سالار مالک بن قیس مارا گیا۔ جب جابان نے محسوس کیا کہ عیسائیوں کی صفوں میں اضطراب پیدا ہونے لگا ہے تو وہ ایرانی فوج کا ایک دستہ لے کر آگے بڑھا اور جوش انگیز جملوں سے عیسائیوں کی ہمت بندھانے اور انہیں جم کر مسلمانوں کے مقابلے کی تلقین کرنے لگا۔ اس کے مقرر کیے ہوئے آدمی عیسائیوں کی صفوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے کہ بہمن جاذویہ ان کی مدد کے لیے عنقریب ایک لشکر جرار لے کر پہنچنے والا ہے۔ اس کے آنے تک پامردی سے مسلمانوں کا مقابلہ جاری رکھیں اور تمام خطرات کو نظر انداز کر کے بہادری کی طرح میدان جنگ میں ڈٹے رہیں۔ چنانچہ عیسائی سنبھل گئے اور انہوں نے بڑی جرأت و بہادری سے مسلمانوں کے پیہم حملوں کو روکنا اور ان کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ یہ عزم و ثبات اور صبر و استقلال دیکھ کر خالد حیران رہ گئے اور انہوں نے مسلمانوں جو جوش دلایا کہ وہ ایک بار پھر پور طاقت و قوت سے دشمن پر حملہ شروع کر دیں۔

عیسائیوں کو لڑتے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی امیدوں کا واحد سہارا بہمن جاذویہ تھا۔ کیونکہ اس کے آنے تک ایرانی فوج ان سے مل کر جنگ میں حصہ نہ لے سکتی تھی۔ لیکن بہمن کا کہیں پتا نہ تھا۔ جابان بھی حیران تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ادھر مسلمانوں کا دباؤ برابر بڑھتا چلا جا رہا تھا اور ان کے مقابلے میں عیسائیوں کی کوئی پیش نہ جا رہی تھی۔ آخر دشمن کی طاقتوں نے جواب دے دیا۔ ایک ایک کر کے ان کی صفیں ٹوٹنے لگیں اور وہ میدان

لینے کے لیے انہوں نے عراق میں مقیم عربی النسل عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما کر دیا اور اس طرح الیس کا معرکہ پیش آیا۔ فتح یاب ہونے پر خالدؓ نے چاہا کہ ایرانیوں اور ان کے مددگاروں کی جنگی روح کو بالکل کچل دیا جائے کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے کی جرأت نہ کر سکیں۔ اس غرض سے انہوں نے جو طریقے استعمال کیے ان کے باعث واقعی ایرانیوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ کسریٰ اردشیر کو جو اس وقت بیمار تھا، اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کے اثر سے وہ جانبر نہ ہو سکا اور نہایت حسرت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

حیرہ:

اردشیر کی موت سے ایرانی دو گونہ مشکلات میں مبتلا ہو گئے۔ ایک طرف شہنشاہ کی موت کا صدمہ دوسری طرف صحرائے شام اور دریائے دجلہ و فرات کے درمیانی علاقے میں مسلمانوں کی روز افزوں پیش قدمی۔ ان پر یاس و نو میدی کا غلبہ تھا اور وہ اپنے آپ میں مسلمانوں سے مقابلے کی طاقت نہ پاتے تھے۔ اپنے علاقوں سے مسلمانوں کو نکالنا انہیں ناممکن نظر آتا تھا۔ پھر بھی خالدؓ ایرانیوں کی اس پڑمردگی سے کسی قسم کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوئے اور ایرانیوں پر عظیم فتوحات حاصل کرنے کے باوجود اپنی قوت و طاقت پر کبھی نازاں نہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ عیسائی قبائل جنہیں ایرانیوں نے مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر الیس کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما کر دیا تھا، اگرچہ اس وقت خاموش ہیں لیکن غیظ و غضب اور انتقام کی آگ ان کے دلوں میں بدستور بھڑک رہی ہے اور مناسب موقع آنے پر ظاہر ہوئے بغیر نہ رہے گی، اس لیے اگر اسی وقت بغاوت اور سرکشی کے ان جراثیم کا پوری طرح قلع قمع نہ کیا گیا اور جزیرہ عرب کو جانے والے تمام راستوں کی حفاظت نہ کی گئی تو آئندہ مسلمانوں کو عظیم خطرات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مناسب سمجھا کہ حیرہ پر جلد از جلد تسلط حاصل کرنا چاہیے تاکہ دریائے فرات کے مغرب سے جزیرہ نمائے عرب کی حدود تک سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ جائے اور انہیں پشت کی جانب سے کسی حملے کا اندیشہ نہ رہے۔

اور سلطنت کے تمام حصوں میں قاصد روانہ کیے جنہوں نے قریہ بہ قریہ پھر کر لوگوں کو خالدؓ اور لشکر اسلام کی فتوحات اور عظیم الشان کارناموں سے آگاہ کیا۔ قدیم مورخین کے بیان کے مطابق ان جنگوں میں دشمن کے مقتولوں کی تعداد ستر ہزار تھی۔

بعض مورخین نے الیس اور امغیشیا کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ان جنگوں میں مسلمانوں نے انتہائی قساوت قلبی کا ثبوت دیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کاش یہ واقعات، جو تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں، غلط ہوتے گو بظاہر انہیں جھٹلایا نہیں جاسکتا کیونکہ کئی راویوں نے ان کا ذکر کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسانی تہذیب ابھی تک اس بلند مقام تک نہیں پہنچی جہاں وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی بہیمیت سے کاملاً مصون و مامون کر سکے۔ گوزبان سے اس کا اقرار نہیں کیا جاتا لیکن درحقیقت آج بھی وحشت و بربریت کا شمار ان اسباب میں ہوتا ہے جنہیں تہذیب و تمدن کی استواری میں مدد و معاون خیال کیا جاتا ہے۔ آج بھی قومی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ کا وجود ناگزیر قرار دیا جاتا ہے۔ وہی قومیں اقوام عالم کی نظروں میں سر بلند سمجھی جاتی ہیں جو ہلاکت خیز ہتھیاروں کی تیاری میں اپنی مد مقابل قوموں سے کسی طرح کم تر نہ ہوں اور جو قوم جنگی تیاریوں میں کوتاہی برتی ہے اس کا شمار پست اور غیر ترقی یافتہ اقوام میں کیا جاتا ہے۔ اس صورت حال کی روشنی میں اگر کوئی سپہ سالار دوران جنگ میں اپنے مد مقابل سے جابرانہ طور سے پیش آتا ہے اور خونریزی کے لیے غیر معمولی طریقے استعمال کرتا ہے تو انسانی سرشت کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی اہم اور قابل اعتراض بات نہیں۔

بعض اوقات سپہ سالار اس خدشے کے پیش نظر سختی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مد مقابل کو یونہی چھوڑ دیا گیا تو وہ آئندہ چل کر اس کے لیے دوبارہ خطرے کا باعث بن جائے گا، اس لیے وہ بد عہدی اور بغاوت کے ہر امکانی خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی غرض سے میدان جنگ میں بے دردانہ دشمنوں کا قتل عام کرتا ہے اور ان کے ولولوں کو سرد کر کے انہیں دوبارہ سراٹھانے کے ناقابل بنا دیتا ہے۔ خالدؓ کو بھی اسی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔

مذار اور حفر میں ایرانیوں کو جو غیرت ناک شکست اٹھانی پڑی تھی اس کا انتقام

ہوئے اور بہ جانب شمال حیرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کی تھی کہ دریا خشک ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس گئیں۔ خالدؓ کو بے حد تعجب ہوا اور انہوں نے ملاحوں سے اس کا سبب پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس نے دریا پر بند باندھ کر اس کا پانی روک لیا ہے اور سارا پانی دریا سے نکلنے والی نہروں میں چھوڑ دیا ہے۔ یہ معلوم کر کے خالدؓ نے کشتیوں کو تو وہیں چھوڑا اور خود فوج کا ایک دستہ لے کر دریا کے دہانے کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ آذابہ کا لڑکا دہانے پر کھڑا دریا کا رخ پھرنے کے کام کی نگرانی کر رہا ہے۔ انہوں نے اچانک اس پر حملہ کر کے اسے اور اس کی فوج کو قتل کر ڈالا اور بند توڑ کر دریا میں دوبارہ پانی جاری کر دیا۔ وہ خود اپنے سواروں کے ہمراہ کھڑے ہو کر اس کام کی نگرانی کرتے رہے کشتیوں نے دوبارہ سفر شروع کر دیا اور اسلامی لشکر لے کر خورنق پہنچ گئیں جہاں خالدؓ نے لشکر کو اترنے کا حکم دیا اور خورنق کے مشہور محل کے سامنے خیمہ زن ہو گئے۔

آذابہ حاکم حیرہ کو اپنے بیٹے کے قتل اور اردشیر کی وفات کی خبر ایک ساتھ ملی۔ اس نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ خالدؓ کے آنے سے پیشتر بھاگ کر جان بچالے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر خالدؓ مکمل تیاری کے بعد فوج لے کر حیرہ کی جانب بڑھے۔ پہلے خورنق اور نجف پر قبضہ کیا جہاں گرمیوں کے موسم میں حیرہ کے امراء آ کر ٹھہرتے تھے۔ اس کے بعد حیرہ کے سامنے پہنچ کر ڈیرے ڈال دیئے۔

اگرچہ آذابہ جان بچا کر حیرہ سے بھاگ گیا تھا لیکن اہل حیرہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ شہر کے چار قلعوں میں محصور ہو کر بیٹھ گئے اور لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خالدؓ نے ان قلعوں کا سختی سے محاصرہ کر لیا اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا شروع کیا۔ جب یہ لوگ کسی طرح صلح کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو خالدؓ نے انہیں کہلا بھیجا کہ اگر انہوں نے ایک دن کے اندر اندر ہتھیار نہ ڈالے اور ان کی پیش کردہ تین باتوں میں سے ایک یعنی ”اسلام“ ”جزیہ“ یا ”جنگ“ قبول نہ کی تو انہیں بالکل تہس نہس کر دیا جائے گا اور ان کی تباہی کی ذمہ داری انہیں پر ہوگی۔

لیکن ان لوگوں نے صلح کی بات چیت کرنے کے بجائے اسلامی فوجوں پر سنگ

اس زمانے میں حیرہ کا حاکم ایک ایرانی مرزبان، آزا بہ تھا۔ پچیس سال پیشتر عراقی عربوں کا یہ دارالحکومت اپنی اس شان و شوکت سے محروم ہو چکا تھا جو اسے ان عربوں کی حکومت کے زمانے میں نصیب ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ لخمیوں کا (جنہوں نے دوسری صدی عیسوی میں یہ مقام حیرہ اپنی سلطنت قائم کی تھی اور جو صدیوں تک یہاں حکمران رہے) طائیوں سے زبردست اختلاف پیدا ہو گیا اور دونوں میں جنگ چھڑ گئی۔ کسریٰ نے جنگ و جدل کے اس سلسلے میں فائدہ اٹھانا چاہا اور لخمی بادشاہ نعمان بن منذر کے خلاف طائیوں کی مدد کر کے نعمان کو قتل کراڈالا اور ایاص بن قبیصۃ الطائی کو حیرہ اور اس کے گرد و نواح کا حاکم بنا دیا۔ ابھی ایاص کو حاکم بنے چند ہی سال ہوئے تھے کہ ذوقار کے مقام پر بنو بکر بن وائل نے ایرانیوں کے لشکر کو، جسے ایاص کی پشت پناہی حاصل تھی، شکست دے دی جس کے نتیجے میں ایاص کو حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے اور کسریٰ نے اپنی طرف سے ایک شخص کو حیرہ کا مرزبان (حاکم) بنا دیا۔ اس طرح حیرہ اپنی شان و شوکت سے محروم ہو گیا۔ پھر بھی عربوں کو اس سے دلی تعلق تھا اور وہ اس کی شان و شوکت دوبارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جب خالدؓ نے مسلمانوں کے خلاف ان عیسائیوں کا غیظ و غضب دیکھا تو انہیں خدشہ پیدا ہو گیا کہ مبادا بنو بکر بن وائل طائیوں اور حیرہ میں مقیم دوسرے عربوں کو قومی عصبیت کی بنا پر ساتھ ملا کر ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور پیچھے سے ان کا راستہ کاٹنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے انہوں نے حیرہ پر حملہ کر کے اس پر قابض ہونے اور اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔

ادھر اہل حیرہ بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ تھے۔ انہیں ایاص اور امغیشیا کے معرکوں کا مفصل حال معلوم ہو چکا تھا اور یقین تھا کہ وہ دن دور نہیں جب خالدؓ کی فوجوں کا رخ ان کی جانب پھرے گا۔ حاکم حیرہ نے پہلے ہی یہ اندازہ کر لیا تھا کہ خالدؓ حیرہ پہنچنے کے لیے دریائی راستہ اختیار کریں گے اور امغیشیا سے کشتیوں میں سوار ہو کر حیرہ پہنچیں گے۔ وہ اپنی فوج لے کر حیرہ سے باہر نکلا اور اپنے بیٹے کو دریائے فرات کا پانی روکنے کا حکم دیا تا کہ خالدؓ کی کشتیاں دریا میں پھنس جائیں اور آگے نہ بڑھ سکیں۔

آزا بہ کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ خالدؓ امغیشیا سے کشتیوں میں سوار

”جمی راہ اختیار کرتا ہے۔“

لیکن خالدؓ کی باتوں کا ان سرداروں پر مطلق اثر نہ ہوا اور انہوں نے بدستور عیسائی رہنے پر اصرار کیا۔ اس کی وجہ غالباً ایک تو یہ ہوگی کہ وہ مذہبی آزادی کے حق سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں گے اور اسلامی سپہ سالار کی طرف سے اسلام قبول کرنے کی دعوت کو اپنے حقوق میں ناجائز مدافعت تصور کرتے ہوں گے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں خیال ہوگا کہ نہ معلوم مسلمانوں کو عراق میں ثبات و استقلال میسر آتا ہے یا نہیں اور ان کی حکومت برقرار رہتی ہے یا نہیں، اس لیے ان غیر یقینی حالات میں مذہب کیوں تبدیل کریں۔

خالدؓ نے سرداران حیرہ سے ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ جزیے پر صلح کی تھی۔ اس سلسلے میں باقاعدہ یہ صلح نامہ لکھا گیا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”یہ وہ عہد نامہ ہے جو خالدؓ بن ولید نے سرداران حیرہ عدی بن عدی، عمرو بن عدی، عمرو بن عبد المسیح، ایاس بن قبیصۃ الطائی اور حیری بن اکال سے کیا ہے۔ اہل حیرہ نے یہ عہد نامہ تسلیم کر لیا ہے اور اپنے سرداروں کو اس کی تکمیل کے لیے مجاز گردانا ہے۔ عہد نامے کے مطابق اہل حیرہ کو ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ جزیہ ان کے پادریوں اور راہبوں سے بھی لیا جائے گا البتہ محتاجوں، یتیموں اور تارک الدنیا راہبوں کو معاف ہوگا۔

اگر یہ جزیہ باقاعدہ ادا کیا جاتا رہا تو اہل حیرہ کی حفاظت کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔ اگر وہ حفاظت میں ناکام رہے تو جزیہ نہ لیا جائے گا۔ اگر قول یا فعل کے ذریعے سے بدعہدی کی گئی تو یہ ذمہ داری ختم سمجھی جائے گی۔ یہ معاہدہ ربیع الاول ۱۲ھ میں لکھا گیا۔“

اہل حیرہ نے جزیے کے علاوہ خالدؓ کو کچھ تحفے بھی دیئے جو انہوں نے مال غنیمت کے ہمراہ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں بھیج دیئے۔ انہوں نے خالدؓ کو کہلا بھیجا کہ اگر یہ تحفے

باری شروع کر دی۔ مسلمان بھی جواب میں ایرانیوں پر تیروں کا مینہ برسانے لگے جس سے ان کے بے شمار آدمی ہلاک ہو گئے۔ یہ صورت حال دیکھ کر اہل حیرہ بہت گھبرائے۔ شہر میں پادریوں اور راہبوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے ایرانی سرداروں سے فریاد کی کہ اس خون ریزی کی ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ خدا کے لیے سنگ باری بند کر دو اور لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔

کوئی چارہ کار اور راہ فرار نہ دیکھ کر قلعوں کے سرداروں نے صلح پر آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے اسلامی فوج کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ ہم آپ کی پیش کردہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے براہ کرم تیر اندازی بند کر دیں اور اپنے سپہ سالار کو اس کی اطلاع دے دیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے تیر اندازی بند کر دی اور خالدؓ کو مطلع کر دیا کہ اہل حیرہ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خالدؓ نے انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔

اپنے وعدے کے مطابق سرداران حیرہ اپنے اپنے قلعوں سے نکل کر معززین شہر کے ہمراہ اسلامی لشکر کے سرداروں کے پاس پہنچے جنہوں نے انہیں خالدؓ کے پاس روانہ کر دیا۔ خالد باری باری ہر قلعے کے لوگوں سے ملے اور انہیں ملامت کرتے ہوئے فرمایا:

”تم پر افسوس! تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ کر ہم سے مقابلہ کیا۔ اگر تم عرب ہو تو کس وجہ سے تم اپنے ہی ہم قوم لوگوں کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے اور اگر عجمی ہو تو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایک ایسی قوم کے مقابلے میں جیت جاؤ گے جو عدل و انصاف میں نظیر نہیں رکھتی!“

سرداروں نے جزیہ دینے کا اقرار کر لیا۔

خالدؓ کو امید تھی کہ ہم قوم ہونے کی وجہ سے یہ عراقی عرب ضرور اسلام قبول کر لیں گے لیکن انہیں بے حد تعجب ہوا جب انہوں نے بدستور عیسائی رہنے پر اصرار کیا۔ خالدؓ نے فرمایا:

”مجھے تم سے اس جواب کی امید نہ تھی۔ کفر کا راستہ یقیناً ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ احمق ترین عرب وہ ہے جو عربی شاہراہ ترک کر کے

پادری صلو با بن نسطونا تھا۔ اس نے بانقیا اور بسما کے ان قصبات کی ساری اراضی کے لگان کی ذمہ داری قبول کر لی جو دریائے فرات کے کنارے واقع تھی۔ کسریٰ کے موتیوں کے علاوہ اس نے اپنی ذات، خاندان اور قوم کی طرف سے دس ہزار دینار دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ باقاعدہ یہ معاہدہ لکھا گیا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”یہ معاہدہ خالد بن ولید کی طرف سے صلو با بن نسطونا اور اس کی قوم کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق تم سے دس ہزار درہم سالانہ جزیہ وصول کیا جائے گا۔ کسریٰ کے موتی اس کے علاوہ ہوں گے۔ یہ رقم مستطیع اور کمانے والے افراد سے ان کی آمدنی اور حیثیت کے مطابق سالانہ وصول کی جائے گی۔ اس جزیے کے بدلے مسلمانوں کی طرف بانقیا اور بسما کی بستیوں کی حفاظت کی جائے گی۔ تمہیں اپنی قوم کا نقیب مقرر کیا جاتا ہے جسے تمہاری قوم قبول کرتی ہے۔ اس معاہدے پر میں اور میرے ساتھ کے سب مسلمان رضامند ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں اسی طرح تمہاری قوم بھی اس پر رضامند ہے اور اسے قبول کرتی ہے۔“

صلو با کے بعد عراق کے دوسرے زمینداروں نے بھی خالدؓ کی اطاعت قبول کر لی۔ فلا لیج سے ہرمز و جرد تک کے علاقے کے لیے بیس لاکھ درہم پر مصالحت ہوئی۔ اس طرح وہ سارا علاقہ، جو جنوب میں خلیج فارس سے شمال میں حیرہ تک اور مغرب میں جزیرہ عرب سے مشرق میں دریائے دجلہ تک پھیلا ہوا تھا، خالدؓ کے زیر نگیں آ گیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں امراء مقرر کر کے بھیجے جن کے سپرد امن و امان اور شہری نظام بحال کرنے کے علاوہ خراج کی وصولی کا کام بھی تھا۔ علاوہ بریں انہوں نے مختلف شہروں میں فوجی دستے بھی متعین کیے تاکہ اگر کوئی بغاوت پھوٹ پڑے یا کسی جانب سے حملے کا خطرہ ہو تو اس کا تدارک کیا جائے۔ ان دستوں کے تقرر سے شوریدہ لوگوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے اور وہ اسلامی حکومت سے بغاوت کا خیال بھی دل میں نہ لاسکے۔

جزیے میں شامل ہیں تو خیر ورنہ انہیں جزیے کی رقم میں شامل کر کے باقی رقم اہل حیرہ کو واپس کر دو۔

جب حیرہ کی فتح کی تکمیل ہو چکی تو خالدؓ نے آٹھ نفل بہ طور شکرانہ پڑھے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

”جنگ موتہ کے دن میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی تھیں لیکن جس قدر سخت مقابلہ مجھے اہل فارس سے پیش آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا اور اہل فارس میں سے ایسے والوں نے جس جواں مردی سے میرا مقابلہ کیا اس کی نظیر میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھی۔“

فتح کے بعد خالدؓ نے حیرہ کو مسلمانوں کا فوجی مستقر اور مفتوحہ علاقے کا دار الحکومت بنایا۔ یہ پہلا اسلامی دار الحکومت تھا جو جزیرہ عرب کے باہر قائم کیا گیا۔ پھر بھی یہاں کا نظم و نسق آپ نے مقامی سرداروں ہی کے ہاتھوں میں رہنے دیا۔ وہ اپنی اس قدر حوصلہ افزائی سے بہت خوش ہوئے اور دل و جان سے ان کی اطاعت و فرماں برداری کا دم بھرنے اور حیرہ اور اس کے گرد و نواح میں سکون و اطمینان کی فضا پیدا کرنے میں مدد و معاون ثابت ہونے لگے۔ جب حیرہ کے قریبی شہروں کے باشندوں نے دیکھا کہ اہل حیرہ اسلامی عدل و انصاف سے کاملاً بہرہ ور ہو رہے ہیں، انہیں اپنے مذہب پر قائم رہنے، مذہبی رسوم ادا کرنے اور عبادات بجالانے کی پوری آزادی حاصل ہے اور وہ اطمینان سے اپنے کاروبار میں مصروف ہیں اور دوسری طرف ایرانی حکومت ان کی طرف سے بالکل غافل ہے تو انہوں نے بھی خالدؓ سے مصالحت کرنے اور ان کی اطاعت قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حکومت میں غریب کاشت کار بڑے اطمینان سے کھیتی باڑی میں مشغول ہیں۔ مسلمان نہ صرف ان سے مطلق تعرض نہیں کرتے بلکہ ایرانی زمینداروں کے ہاتھوں انہیں جن مظالم اور سختیوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ ان کا وجود بھی باقی نہیں، مسلمان ان کے حقوق کی پوری نگہداشت کرتے ہیں تو ان کے دل بے اختیار مسلمانوں کی طرف مائل ہو گئے۔

سب سے پہلے جس شخص نے خالدؓ کی جانب صلح کا ہاتھ بڑھایا وہ دیرناطف کا

ہاتھ ایک خط ایرانی مرزبانوں (عمال و امراء) کے نام ارسال کیا۔

ملوک فارس کے نام جو خط بھیجا اس کا مضمون یہ تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”یہ خط خالد بن ولید کی طرف سے ملوک فارس کے نام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارا نظام درہم برہم کر دیا، تمہارے مکر و فریب کو ناکام کر دیا اور تم میں اختلافات پیدا کر دیئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس میں تمہارا ہی نقصان تھا۔ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہماری اطاعت قبول کر لو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں اور تمہارا علاقہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں گے ورنہ تمہیں ایک ایسی قوم کے سامنے مغلوب ہونا پڑے گا جو موت کو اس سے زیادہ پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔“

ایرانی مرزبانوں کے نام جو خط تھا اس میں لکھا تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”یہ خط خالد بن ولید کی طرف سے ایرانی مرزبانوں کے نام ہے۔ تم لوگ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ یا جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ ورنہ یاد رکھو کہ میں نے ایسی قوم کے ساتھ تم پر چڑھائی کی ہے جو موت کی اتنی ہی فریفتہ ہے جتنے تم شراب نوشی کے۔“

انبار:

ایرانی افواج حیرہ کے بالکل قریب انبار اور عین التمر میں خیمہ زن ہو چکی تھیں اور مسلمانوں کے اس فوجی مستقر کو سخت خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ دریں حالات اگر خالد خاموشی سے حیرہ میں بیٹھے رہتے اور باہر نکل کر ایرانی فوجوں کے خلاف کارروائی نہ کرتے تو اندیشہ تھا کہ مسلمان اس علاقے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے جو انتہائی مشقت کے بعد ان کے ہاتھ آیا

اس زمانے میں جب مسلمان دجلہ کے اس پار فتوحات پر فتوحات حاصل کرنے میں مصروف تھے، اہل فارس اپنے اندرونی جھگڑوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اردشیر کی وفات سے ایرانی شہنشاہی کا شیرازہ منتشر ہو چکا تھا۔ تمام شہزادے جنہیں سلطنت کا وارث بننا تھا، اپنے حریفوں کے ہاتھوں قتل کیے جا چکے تھے اور ایرانیوں کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کس شخص کے سر پر بادشاہی کا تاج رکھیں یکے بعد دیگرے کئی لوگ تخت شاہی پر متمکن ہوئے۔

لیکن کسی کو بھی چند دن سے زیادہ بادشاہی کرنا نصیب نہ ہوئی اور اس طرح سلطنت کی کمزوری میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ان حالات کی موجودگی میں ایرانیوں نے مناسب سمجھا کہ خالدؓ کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کر کے انہیں دوبارہ فتح کرنے کی نسبت بہتر یہ ہے کہ جو علاقہ اس وقت ان کے پاس ہے اسے ایرانی افواج کے بل بوتے پر مسلمانوں کے قبضے میں آنے سے محفوظ رکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے دریائے دجلہ کی دوسری طرف حفاظتی انتظامات شروع کر دیئے۔

خالدؓ ان فوجی انتظامات اور ایرانی افواج کو مطلق خاطر میں لانے والے نہ تھے اور نہ ایرانی اپنی پوری قوت و طاقت کے باوجود اسلامی افواج کے مقابلے میں ٹھہر ہی سکتے تھے لیکن جس چیز نے خالدؓ کو آگے بڑھنے سے روک رکھا وہ حضرت ابو بکرؓ کا یہ حکم تھا کہ جب تک عیاض بن غنم، دومۃ الجندل کی فتح سے فارغ ہو کر ان کے پاس نہ پہنچ جائیں اس وقت تک خالدؓ نہ حیرہ کو چھوڑیں اور نہ مزید فتوحات کے لیے آگے بڑھیں۔ ادھر عیاض دومۃ الجندل میں پھنسے ہوئے تھے اور جب سے حضرت ابو بکرؓ نے انہیں وہاں بھیجا تھا انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ خالدؓ کامل ایک سال تک حیرہ میں مقیم رہے۔ بے کاری کا یہ زمانہ خالدؓ جیسے مصروف عمل انسان کو بہت شاق گزر رہا تھا۔ انہوں نے بارہا ساتھیوں سے کہا کہ اگر خلیفہ کا حکم نہ ہوتا تو میں عیاض کا مطلق انتظار نہ کرتا اور نہ انہیں اپنی فوج میں شامل کرتا۔ اس وقت ایران فتح کرنے سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں۔ ایک سال گزر چکا ہے لیکن محض عیاض کی وجہ سے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔

جب خالدؓ کا پیما نہ صبر لہریز ہو گیا تو انہوں نے تنگ آ کر ایک آدمی حیرہ کا اور ایک اجباط کا بلا بھیجا۔ حیرہ باشندے کے ہاتھ ایک خط ملوک فارس کے نام بھیجا اور انباطی کے

حفاظت کے لیے ایرانیوں کی ایک بھاری فوج جمع کر رکھی تھی۔ ایرانی فوجوں کے علاوہ بنی تغلب، نمر اور ایاد کے بدوی قبائل بھی عتقہ بن ابی عتقہ اور ہذیل کے زیر سرکردگی بھاری تعداد میں مہران کے پاس جمع تھے۔ جب عین التمر والوں نے اسلامی لشکر کو آتے دیکھا تو عتقہ نے مہران سے کہا:

”عرب عربوں سے لڑنا خوب جانتے ہیں۔ اس لیے تم ہمیں مسلمانوں سے نبٹ لینے دو۔“

مہران نے مسکرا کر جواب دیا:

”تم ٹھیک کہتے ہو۔ عربوں سے لڑنے میں تم اتنے ہی ماہر ہو جتنے ہم عجمیوں سے لڑنے میں ماہر ہیں۔ تم مسلمانوں سے لڑو۔ اگر ہماری ضرورت ہوگی تو ہم بھی میدان جنگ میں پہنچ جائیں گے۔“

ایرانی مہران کی چال کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے اس خیال سے کہ مہران کی ان باتوں سے ان کی کمزوری اور نا طاقتی عیاں ہوتی ہے، اسے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ مہران نے جواب دیا:

”تم میرے کام میں دخل نہ دو۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہاری بہتری کے لیے کیا ہے اس وقت تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس نے تمہارے بادشاہوں کو قتل اور تمہاری سلطنت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے ان عربوں کے ذریعے سے تمہارا بچاؤ کیا ہے۔ اگر یہ لوگ خالد کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی کا فخر تمہارے ہی حصے میں آئے گا لیکن اگر شکست کھا گئے تو ہماری تازہ دم فوج تمہکے ماندے مسلمانوں کو آسانی سے زیر کر سکے گی۔“

یہ سن کر ایرانی فوج مطمئن ہو گئی۔

عتقہ فوج لے کر آگے بڑھا اور خالدؓ کے راستے میں حائل ہو گیا۔ لڑائی شروع ہوئی تو بڑی پھرتی سے کمند پھینک کر عتقہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اپنے سردار کا یہ حشر دیکھ کر بدوؤں کے

تھا۔ چنانچہ انہوں نے فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ قعقاع بن عمرو کو حیرہ کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا۔ اقرع بن حابس کو مقدمۃ الحیش پر مقرر کیا اور انبار روانہ ہو گئے۔

انبار پہنچ کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور لشکر کو حکم دیا کہ قلعے کی محافظ فوج پر تیر برسائیں لیکن مضبوط شہر پناہ اور گہری خندق کے باعث، جو شہر کے ارد گرد کھدی ہوئی تھی، ایرانیوں کو اس تیر اندازی سے کوئی گزند نہ پہنچا اور مسلمانوں کا ابتدائی حملہ ناکام رہا۔

خالدؓ زیادہ دیر تک صبر نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے شہر پر حملہ کرنے کی کوئی راہ معلوم کرنے کے لیے خندق کے ساتھ ساتھ شہر کے گرد چکر لگایا چنانچہ ایک جگہ دیکھا کہ وہاں خندق نسبتاً کم چوڑی تھی۔ انہوں نے حکم دیا کہ لشکر کے جواوٹ بہت بیمار اور بالکل ناکارہ ہوں وہ ذبح کر کے اس جگہ پھینک دیئے جائیں۔ مسلمانوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور اوٹ ذبح کر کے خندق کے تنگ حصے میں پھینکنے شروع کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی لاشوں سے وہ حصہ پٹ کر ایک پل سا بن گیا جس کے بعد خالدؓ فوج کا ایک دستہ لے کر خندق کے پار ہو گئے۔ اس دستے نے فسیل پھاند کر شہر کا دروازہ کھول دیا اور اسلامی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔

یہ حالت دیکھ کر ایرانی فوج کے سپہ سالار شیرزاد نے صلح کے لیے سلسلہ جنابانی شروع کی اور یہ پیش کش کی کہ اگر میری جان بخشی کر دی جائے تو میں سواروں کے ایک دستے کے ساتھ، جس کے پاس سامان وغیرہ کچھ نہ ہوگا، شہر سے نکل جاؤں گا۔ خالدؓ نے یہ پیش کش قبول کر لی اور شیرزاد شہر سے نکل گیا۔ شہر میں مسلمان قابض ہو گئے اور انبار کے نواحی علاقے کے لوگوں نے خالدؓ سے مصالحت کر لی۔

عین التمر :

جب خالدؓ کو انبار اور اس کے نواحی علاقے کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو زبرقان بن بدر کو اپنا نائب بنا کر انبار میں چھوڑا اور خود عین التمر کا قصد کیا جو عراق اور صحرائے شام کے درمیان صحرا کے کنارے واقع ہے۔ انبار سے عین التمر تک پہنچنے میں تین دن لگے۔ ایرانیوں کی طرف سے وہاں کا حاکم مہران بن بہرام چوبین تھا۔ اس نے شہر کی

حفاظت کے لیے ایرانیوں کی ایک بھاری فوج جمع کر رکھی تھی۔ ایرانی فوجوں کے علاوہ بنی تغلب، نمر اور ایاد کے بدوی قبائل بھی عتقہ بن ابی عتقہ اور ہذیل کے زیر سرکردگی بھاری تعداد میں مہران کے پاس جمع تھے۔ جب عین التمر والوں نے اسلامی لشکر کو آتے دیکھا تو عتقہ نے مہران سے کہا:

”عرب عربوں سے لڑنا خوب جانتے ہیں۔ اس لیے تم ہمیں

مسلمانوں سے نبٹ لینے دو۔“

مہران نے مسکرا کر جواب دیا:

”تم ٹھیک کہتے ہو۔ عربوں سے لڑنے میں تم اتنے ہی ماہر ہو جتنے ہم عجمیوں سے

لڑنے میں ماہر ہیں۔ تم مسلمانوں سے لڑو۔ اگر ہماری ضرورت ہوگی تو ہم بھی میدان جنگ میں پہنچ جائیں گے۔“

ایرانی مہران کی چال کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے اس خیال سے کہ مہران کی ان

باتوں سے ان کی کمزوری اور ناطقتی عیاں ہوتی ہے، اسے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ مہران نے جواب دیا:

”تم میرے کام میں دخل نہ دو۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہاری بہتری

کے لیے کیا ہے اس وقت تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسا شخص آ

رہا ہے جس نے تمہارے بادشاہوں کو قتل اور تمہاری سلطنت کو پاش

پاش کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے ان عربوں کے ذریعے سے تمہارا

بچاؤ کیا ہے۔ اگر یہ لوگ خالد کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو

کامیابی کا فخر تمہارے ہی حصے میں آئے گا لیکن اگر شکست کھا گئے تو

ہماری تازہ دم فوج تھکے ماندے مسلمانوں کو آسانی سے زیر کر سکے

گی۔“

یہ سن کر ایرانی فوج مطمئن ہو گئی۔

عتقہ فوج لے کر آگے بڑھا اور خالدؓ کے راستے میں حائل ہو گیا۔ لڑائی شروع ہوئی

تو بڑی پھرتی سے کمند پھینک کر عتقہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اپنے سردار کا یہ حشر دیکھ کر بدوؤں کے

چھکے چھوڑ دیئے اور انہوں نے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ البتہ ہذیل اور بعض دوسرے سرداران لشکر بچ کر نکل گئے۔ مہران بڑے اطمینان سے قلعے میں فروکش تھا اور اسے یقین تھا کہ بدو ضرور مسلمانوں کا حملہ روک لیں گے لیکن جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو بہت شیشیا اور فوج لے کر قلعہ سے بھاگ گیا۔ قلعے میں صرف وہ فوج رہ گئی جو پہلے سے اس کی حفاظت کے لیے متعین تھی یا وہ بدو جو عقدہ کے لشکر میں شامل تھے اور شکست کھا کر قلعے میں پناہ گزیں ہو گئے تھے۔

خالدؓ نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ روز تو قلعے والے دروازے بند کیے محاصرے کا مقابلہ کرتے رہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں خالدؓ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تو انہوں نے اس شرط پر دروازے کھولنے کی پیش کش کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ لیکن خالدؓ نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ آخر انہیں یہ مطالبہ ماننا ہی پڑا اور قلعے کے دروازے کھول دیئے۔ خالدؓ نے سب لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد عقدہ کو کھلے میدان میں لایا گیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔

انبار اور عین التمر کی فتح کے بعد خالدؓ نے ولید بن عقبہ کو خمس دے کر فتح کی خوش خبری کے ساتھ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ خالدؓ نے ان کے احکام نظر انداز کرتے ہوئے حیرہ اس لیے چھوڑا اور انبار و عین التمر پر اس لیے چڑھائی کی کہ انہیں حیرہ میں قیام کیے ہوئے پورا ایک سال ہو گیا تھا اور عیاض کا کچھ پتا نہ تھا کہ وہ کب دومتہ الجندل سے فارغ ہو کر خالدؓ کی مدد کے لیے حیرہ پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ بھی عیاض کی سست روی سے تنگ آگ چکے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں۔ اگر دشمن کو خالدؓ کے ان کارناموں کی اطلاعات نہ ملتی رہتیں جو انہوں نے عراق میں انجام دیئے تو یقیناً وہ عیاض کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو سخت زک پہنچاتے۔

دومتہ الجندل:

جب ابو بکرؓ ولید سے عراق کے متعلق تمام رپورٹیں حاصل کر چکے تو انہیں عیاض کی

مدد کے لیے دومۃ الجندل جانے کا حکم دیا۔ جب ولید وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عیاض بن غنم دومۃ الجندل کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور جواباً دومۃ الجندل والوں نے عیاض کا محاصرہ کر کے ان کا راستہ مسدود کر رکھا ہے۔ عیاض سے بات چیت کرنے اور تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد ولید نے محسوس کیا کہ عیاض اپنی فوج کی مدد سے نہ دومۃ الجندل والوں کو شکست دے سکتے ہیں اور نہ ان کے چنگل سے نکل سکتے ہیں۔ ولید نے ان سے کہا کہ بعض حالات میں عقل کی ایک بات زبردست لشکر سے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اگر تم میری مانو تو خالدؓ کے پاس قاصد بھیج کر ان سے اعانت چاہو۔

عیاض کے لیے ولید کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ انہیں دومۃ الجندل پہنچے ہوئے سال بھر ہو چکا تھا اور ابھی تک فتح کی کوئی شکل نظر نہ آتی تھی۔ انہوں نے اپنے قاصد کو خالدؓ کے پاس روانہ کیا۔ قاصدان کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ عین التمر کی فتح سے فارغ ہو چکے تھے۔ خالدؓ نے خط پڑھا۔ اس کے لفظ لفظ سے گھبراہٹ اور پریشانی عیاں تھی۔ انہوں نے عیاض کے نام ایک مختصر خط دے کر قاصد کو فوراً واپس کر دیا تا کہ عیاض کی پریشانی کچھ کم ہو جائے۔ خط میں لکھا تھا:

”خالد بن ولید کی طرف سے عیاض کے نام۔ میں بہت جلد تمہارے پاس آتا ہوں۔ تمہارے پاس اونٹنیاں آنے والی ہیں جن پر کالے زہریلے ناگ سوار ہیں۔ فوج کے دستے ہیں جن کے پیچھے اور دستے ہیں۔“

عیاض کے نام خالدؓ کے اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ حیرہ میں بے کار پڑے رہنے کی وجہ سے حضرت خالدؓ کو کس قدر گھبراہٹ لاحق تھی اور انبار و عین التمر کی جنگیں اور فتوحات بھی ان کی آتش شوق کی سرد نہ کر سکی تھیں۔ اسی وجہ سے عیاض کا بلاوا پہنچتے ہی وہ دومۃ الجندل جانے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔

خالدؓ نے عویم بن کاہل اسلمی کو عین التمر میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود فوج لے کر دومۃ الجندل روانہ ہوئے۔ دومۃ الجندل اور عین التمر کے درمیان تین سو میل کا فاصلہ ہے۔ یہ مسافت خالدؓ نے دس روز سے بھی کم عرصے میں طے کی۔ شمال سے جنوب کو جاتے ہوئے

چھکے چھوڑ دیئے اور انہوں نے بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ البتہ ہذیل اور بعض دوسرے سرداران لشکر بچ کر نکل گئے۔

مہران بڑے اطمینان سے قلعے میں فروکش تھا اور اسے یقین تھا کہ بدو ضرور مسلمانوں کا حملہ روک لیں گے لیکن جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو بہت شہنشاہ اور فوج لے کر قلعہ سے بھاگ گیا۔ قلعے میں صرف وہ فوج رہ گئی جو پہلے سے اس کی حفاظت کے لیے متعین تھی یا وہ بدو جو عقبہ کے لشکر میں شامل تھے اور شکست کھا کر قلعے میں پناہ گزیں ہو گئے تھے۔

خالدؓ نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ روز تو قلعے والے دروازے بند کیے محاصرے کا مقابلہ کرتے رہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں خالدؓ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تو انہوں نے اس شرط پر دروازے کھولنے کی پیش کش کی کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ لیکن خالدؓ نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ آخر انہیں یہ مطالبہ ماننا ہی پڑا اور قلعے کے دروازے کھول دیئے۔ خالدؓ نے سب لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد عقبہ کو کھلے میدان میں لایا گیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔

انبار اور عین التمر کی فتح کے بعد خالدؓ نے ولید بن عقبہ کو خمس دے کر فتح کی خوش خبری کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ خالدؓ نے ان کے احکام نظر انداز کرتے ہوئے حیرہ اس لیے چھوڑا اور انبار و عین التمر پر اس لیے چڑھائی کی کہ انہیں حیرہ میں قیام کیے ہوئے پورا ایک سال ہو گیا تھا اور عیاض کا کچھ پتا نہ تھا کہ وہ کب دومتہ الجندل سے فارغ ہو کر خالدؓ کی مدد کے لیے حیرہ پہنچتے ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ بھی عیاض کی سست روی سے تنگ آگ چکے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں۔ اگر دشمن کو خالدؓ کے ان کارناموں کی اطلاعات نہ ملتی رہتیں جو انہوں نے عراق میں انجام دیئے تو یقیناً وہ عیاض کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو سخت زک پہنچاتے۔

دومتہ الجندل:

جب ابوبکرؓ ولید سے عراق کے متعلق تمام رپورٹیں حاصل کر چکے تو انہیں عیاض کی

میں میخ کی طرح گڑی ہوئی تھیں۔ اسی لیے جب اس نے خالدؓ کے دومۃ الجندل پہنچنے کی خبر سنی تو وہ جودی بن ربیعہ سے ملا جو دومۃ الجندل کے لیے عراق سے آنے والے بدوی قبائل کا سردار تھا اور کہنے لگا:

”میں تمہاری نسبت خالدؓ سے بہت زیادہ واقف ہوں۔ آج دنیا میں خالدؓ سے بڑھ کر کوئی شخص اقبال مند اور فنون جنگ کا ماہر نہیں۔ جو قوم خالدؓ سے مقابلہ کرتی ہے۔ خواہ تعداد میں کم ہو یا زیادہ، ہر حال میں شکست کھا جاتی ہے۔ اس لیے تم میری بات مانو اور مسلمانوں سے صلح کر لو۔“

لیکن ان قبائل نے، جن کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اکیدر کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اکیدر یہ کہہ کر ان سے علیحدہ ہو گیا۔ ”تم جانو تمہارا کام۔ میں تو تمہارے ساتھ مل کر خالدؓ سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔“

وہ اپنے حلیفوں سے جدا ہو کر خالدؓ کو ملنے کے ارادے سے ان کے کیمپ میں داخل ہوا۔ یہاں پہنچ کر روایات میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ جب اکیدر خالدؓ کے سامنے حاضر ہوا تو انہوں نے اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا لیکن بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے قید کر کے مدینہ بھیج دیا گیا۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں اسے رہائی ملی اور وہ مدینہ سے عراق چلا گیا۔ وہاں عین التمر کے قریب افک مقام دومۃ ہی میں اقامت پذیر ہو گیا اور آخر وقت تک وہیں رہا۔

خالدؓ آگے بڑھ کر دومۃ الجندل پہنچے۔ وہاں کی فوج مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے سردار کے ماتحت تھا اور یہ تمام سردار جودی بن ربیعہ کے زیر سرکردگی تھے۔ خالدؓ نے دومۃ الجندل کو اپنی اور عیاض بن غنم کی فوج کے گھیرے میں لے لیا۔ جو عربی النسل عیسائی دومۃ الجندل والوں کی امداد کے لیے پہنچے تھے وہ قلعے کے چاروں طرف جمع تھے کیونکہ قلعے میں ان کے لیے گنجائش نہ تھی۔

لڑائی شروع ہوئی تو جودی بن ربیعہ اور ودیعہ خالدؓ کے بالمقابل اور ابن حدر جان اور ابن الایم عیاض بن غنم کے مقابل صف آرا ہوئے۔ خالدؓ نے جودی کو اور اقرع بن

درمیان میں شامل اور نفوذ کے خوف ناک اور لقمہ و دق صحرا پڑتے تھے جن میں سے گزرتے ہوئے سینکڑوں خطرات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن خالدؓ تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ جب وہ دومۃ الجندل کے قریب پہنچے اور اہل شہر کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ حیران و ششدر رہ گئے ان کے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور آئندہ اقدامات کے متعلق غور کرنا شروع کیا۔

دومۃ الجندل میں اس وقت جو قبائل ڈیرے ڈالے پڑے تھے ان کی تعداد اس وقت سے کئی گنا زیادہ تھی جب ایک سال قبل عیاض بن غنم ان کی سرکوبی کے لیے پہنچے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بنو کلب بہراء اور غسان کے قبائل اپنے ساتھ اور کئی قبائل ملا کر عراق سے دومۃ الجندل چلے آئے تھے اور خالدؓ کے ہاتھوں اپنی عبرت ناک شکستوں کا بدلہ عیاض سے لینا چاہتے تھے۔ ان قبائل کی روز افزوں آمد کے باعث عیاض کے لیے انتہائی صبر آزمائیاں پیدا ہو گئے تھے اور ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے کیا تدابیر اختیار کریں۔

دومۃ الجندل کی فوج دو بڑے حصوں میں منقسم تھی۔ ایک حصے کا سردار اکیدر بن عبد الملک کنڈی تھا اور دوسرے کا جودی بن ربیعہ۔ اکیدر دومۃ الجندل کا حاکم تھا اور اس نے مدینہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکرؓ نے عیاض کو روانہ کیا تھا۔ ان تمام قبائل میں، جو اس جگہ جمع تھے، اکیدر سے زیادہ خالدؓ سے اور کوئی واقف نہ تھا۔ وہ غزوہ تبوک کو نہ بھولا تھا جب رسول اللہؐ اس سے وفاداری کا عہد لے کر مدینہ واپس تشریف لے آئے تھے اور اسے وہ وقت بھی خوب یاد تھا جب رسول اللہؐ کے احکام کے مطابق خالدؓ پانچ سو سواروں کے ہمراہ دومۃ الجندل پہنچے تھے اور اسے قید کر کے دھمکی دی تھی کہ اگر دومۃ الجندل کے دروازے مسلمانوں کے لیے نہ کھولے گئے تو اسے جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مجبور ہو کر اسے دومۃ الجندل کے دروازے کھولنے ہی پڑے اور خالدؓ کو دو ہزار اونٹ، آٹھ سو بکریاں، چار سو سق گیسوں اور چار سو درہم دے کر صلح کرنی پڑی۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اسے خالدؓ کے ہمراہ مدینہ آنا، وہاں اسلام قبول کرنا اور رسول اللہؐ سے دوستی کا معاہدہ کرنا پڑا۔ یہ تمام باتیں اکیدر کے دل

مقام مسلمانوں کے قبضے میں رہے۔ یہی وجہ تھی کہ عیاض بن غنم ایک سال تک اس کا محاصرہ کیے پڑے رہے اور سخت مشکلات کے باوجود وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لیا۔ جب خالدؓ کو دومۃ الجندل پہنچنے کے لیے کہا گیا تو وہ بھی بلا توقف اس جانب روانہ ہو گئے۔ اگر خدا نخواستہ دومۃ الجندل مسلمانوں کے قبضے میں نہ آتا تو نہ صرف عراق میں ان کی فتوحات کا کوئی بھروسہ نہ ہوتا بلکہ شام کی فتح بھی ناممکن ہو جاتی۔

خالدؓ کی عراق میں واپسی:

انسانی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ جب تک ایک قوی اور زبردست وجود ان کے درمیان رہتا ہے وہ بھیگی بلی بنے رہتے ہیں لیکن جونہی وہ شخص انہیں چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے تو وہ میدان خالی پا کر من مانی کرنے پر تل جاتے ہیں۔ یہی حال خالدؓ کی غیر حاضری میں اہل حیرہ اور اہل عراق کا ہوا۔ ایرانیوں اور ان کے عرب مددگاروں نے سوچا کہ مسلمانوں کی اطاعت کا جو اسر سے اتار پھینکنے کا موقع اس سے بہتر اور کوئی ہاتھ نہ آئے گا..... بنو تغلب نے یہ خیال کیا کہ عقدہ کے قتل کا بدلہ لینے کا موقع اس سے اچھا اور کوئی نہیں۔ قعقاع اس موقع پر صرف یہ کر سکتے تھے کہ جن جن علاقوں پر مسلمان قابض ہو چکے تھے انہیں ہاتھ سے نہ نکلنے دیں اور دشمن کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ لیکن خالدؓ کی پالیسی کو لباس عمل پہنانے کی طاقت ان میں نہ تھی کہ دشمن کے حملوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آگے بڑھ کر اس کے مقبوضات پر پے در پے حملے کیے جائیں اور اسے اپنے ہی علاقوں میں الجھائے رکھ کر اسلامی مقبوضات کی طرف پیش قدمی کرنے سے روکا جائے۔

ادھر جب خالدؓ کو ایرانیوں اور عربی النسل عیسائی قبائل کے ارادوں سے آگاہی ہوئی تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی دومۃ الجندل میں نہ رہ سکے اور انہوں نے فوراً کوچ کی تیاری کر لی۔ مقدمے پر اقرع بن حابس کو متعین کیا اور عیاض بن غنم کو ساتھ لے کر حیرہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حیرہ پہنچ کر اسے عیاض کی سپردگی میں دیا اور قعقاع کو حید کی طرف بھیجا۔ جہاں عربوں اور ایرانیوں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ خود قسم کھائی کہ بنو تغلب پر اس طرح اچانک حملہ کریں گے کہ انہیں کسی طرح بھی سنبھلنے کا موقع نہ ملے گا۔

حابس نے ودیعہ کو گرفتار کر لیا۔ باقی لوگ قلعے کی طرف بھاگے۔ لیکن وہاں گنجائش نہ تھی۔ قلعہ بھر جانے پر اندروالوں نے دروازہ بند کر لیا اور اپنے ان ساتھیوں کو، جو باہر رہ گئے تھے، مسلمانوں کی تلواروں کے حوالے کر دیا۔ یہ صورت حال دیکھ کر خالدؓ کی فوج کے ایک سردار عاصم بن عمرو نے اپنے قبیلے بنو تمیم سے اپنے حلیف بنی کلب کی امداد کی درخواست کی۔ بنو تمیم فوراً ان کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے اور اس طرح بنی کلب کی جانیں بچ گئیں۔

جو لوگ قلعے کی طرف بھاگے تھے خالدؓ نے ان کا پیچھا کیا اور اتنے آدمی قتل کیے کہ ان کی لاشوں سے دروازہ پٹ گیا اور اندر جانے کا راستہ نہ رہا۔ انہوں نے جو دی بن ربیعہ اور دوسرے قیدیوں کی بھی گردانیں اڑا دیں۔ سوا بنی کلب کے قیدیوں کے جنہیں عاصم بن عمرو نے پناہ دے دی تھی۔ اس کے بعد خالدؓ نے قلعے کا دروازہ اکھڑا ڈالا اور چلتے بھی لوگ قلعے میں محصور تھے انہیں قتل کر دیا۔ فتح کے بعد انہوں نے اقرع بن حابس کو انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خود دومۃ الجندل میں قیام کیا۔

سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کیا بات تھی کہ مسلمانوں نے دومۃ الجندل پر اتنی تو مبذول کی اور اسے ہر قیمت پر فتح کر لینا چاہا۔ رسول اللہؐ کے عہد میں دوبار اس پر چڑھا ہوئی اور آخر اکیدر سے دوستی کا معاہدہ کر کے اسے اسلامی عمل داری میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت ابو بکرؓ کے عہد میں مسلمان سال بھر تک اس کا محاصرہ کیے پڑے رہے اور اس وقت تک دم نہ لیا جب تک اسے کاملاً مطیع کر کے اپنی حکومت میں دوبارہ شامل نہ کر لیا گیا۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دومۃ الجندل کی جغرافیائی حالت ایسی تھی کہ اس پر قبضہ کرنا ہر حالت میں ناگزیر تھا۔ دومۃ الجندل اس راستے کے سرے پر واقع ہے جہاں اسے ایک طرف حیرہ اور عراق کو راستہ جاتا ہے اور دوسری طرف شام کو۔ رسول اللہؐ کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ شام اور جزیرہ عرب کی سرحدوں پر امن قائم رہے اور رومی فوجیں مسلمانوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر سرزمین عرب میں نہ گھس آئیں۔ اسی لیے آپؐ نے دومۃ الجندل کو اپنے زیر نگین لانے کے لیے ہر ممکن کوشش فرمائی۔ یہی حال حضرت ابو بکرؓ کا تھا۔ ان کے زمانے میں اجلائی فوجیں ایک طرف عراق میں ایرانی فوجوں سے نبرد آزما تھیں تو دوسری طرف شام کی سرحد پر رومیوں سے مصروف پیکار تھیں اور ضروری تھا کہ یہ اہم

تھا۔ جب حضرت ابو بکرؓ کو ان کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان دونوں کا خون بہا ادا کر دیا۔

جنگِ مَضِیح سے فارغ ہونے کے بعد خالدؓ نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے اپنے دوسرے داروں قعقاع اور ابولیلیٰ کو بنی تغلب کی بستیوں کی جانب روانہ فرمایا اور خود بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ اس حملے کا پروگرام بھی ویسا ہی بنایا گیا تھا جیسا جنگِ مَضِیح کے موقع پر ترتیب دیا گیا تھا۔ خالدؓ نے اپنے ساتھیوں سے مل کر رات کے وقت تین اطراف سے دشمنوں پر زور شور سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں بنی تغلب کا کوئی بھی مرد بچ کر نہ نکل سکا۔ عورتیں گرفتار کر لی گئیں۔ فتح کے بعد خالدؓ نے نعمان بن عوف شیبانی کے ہاتھ حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں خمس روانہ کیا۔ حضرت علیؓ نے انہیں قیدیوں میں سے ایک لڑکی صاحبہ بنت ربیعہ بن بجیر کو خرید لیا تھا جس سے ان کے یہاں عمر اور رقیہ پیدا ہوئے۔

فراض:

خالدؓ کے ان اچانک حملوں اور قبائل کے ان کے مقابلے سے عاجز رہنے کی خبریں عراق بھر میں پھیل چکی تھیں اور صحرا میں رہنے والے تمام قبائل سخت خوف زدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالنے اور ان کی اطاعت قبول کرنے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ خالدؓ نے اپنی فوجوں کے ہمراہ دریائے فرات کے ساتھ شمالی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ وہ جہاں بھی پہنچتے وہاں کے باشندے ان سے مصالحت کر لیتے اور ان کی اطاعت کرنے کا اقرار کرتے۔ آخر وہ فراض پہنچ گئے جہاں شام، عراق اور الجزیرہ کی سرحدیں ملتی تھیں۔

فراض عراق اور شام کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ اگر عیاض بن غنم کی قسمت یاوری کرتی اور وہ ابتدا ہی میں دومتہ الجندل فتح کر لیتے تو غالباً خالدؓ یہاں تک نہ پہنچتے کیونکہ حضرت ابو بکرؓ کا منشاء سارے عراق اور شام کو فتح کرنے کا نہ تھا۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ان دونوں ملکوں کی سرحدوں پر جو عرب سے ملتی ہیں، امن و امان قائم ہو جائے اور ان اطراف سے ایرانی اور رومی عرب پر حملہ آور نہ ہو سکیں لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہ دونوں

جب اہل عراق کو معلوم ہوا کہ خالدؓ ان کی سرکوبی کے لیے ایک بار پھر عراق پہنچ چکے ہیں تو ان کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی اور اپنے علاقے کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے جو حسین خواب وہ دیکھ رہے تھے وہ سب آن کی آن میں ختم ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ دوسری اقوام کی طرح مسلمان بھی سرزمین عراق کو تاخت و تاراج کر کے چلے جائیں گے اور وہ بعد میں اپنے علاقوں پر قابض ہو سکیں گے۔ لیکن ان کے یہ خیالات پادر ہوا ثابت ہوئے۔

حصید، خنافس اور مضيح:

خالدؓ کے حکم کے مطابق قعقاع حصید کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایرانی لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکا۔ اس کا سپہ سالار مارا گیا اور لشکر نے میدان جنگ سے فرار ہونے میں اپنی عافیت سمجھی۔ ہزیمت خوردہ لشکر کا خیال تھا کہ وہ شہر خنافس میں پناہ لے سکے گا جہاں پہلے ہی سے ایک اور ایرانی لشکر موجود تھا لیکن اسے اس میں بھی ناکامی ہوئی کیونکہ خنافس میں مقیم ایرانی لشکر کا سپہ سالار مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر پہلے ہی وہاں سے فرار ہو کر مضيح پہنچ چکا تھا جہاں کا حاکم ہذیل بن عمران تھا۔

اس طرح مسلمان بغیر لڑے بھڑے خنافس پر قابض ہو گئے اور اب کوئی فرد ایسا نہ تھا جو ایرانی لشکر کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کر کے میدان جنگ میں لاتا۔

اب خالدؓ نے اپنے سرداروں کو مضيح کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا اور خود بھی ادھر کا رخ کیا۔ یہ پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا کہ تمام قائدین کو کس رات اور کس وقت مضيح پہنچنا ہے۔ چنانچہ مقررہ وقت پر تمام قائدین منزل مقصود پر پہنچ گئے اور آتے ہی تین اطراف سے ہذیل اور اس کی فوج پر، جو بے خبر پڑی سو رہی تھی، بھرپور حملہ کر دیا۔ ہذیل مع چند ساتھیوں کے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ باقی تمام فوج قتل ہو گئی۔ لاشوں سے میدان اس طرح پٹ گیا گویا بکریاں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔

اس جنگ کے دوران میں دو ایسے مسلمان اسلامی فوج کے ہاتھوں مارے گئے جو مضيح میں مقیم تھے اور جن کے پاس حضرت ابو بکرؓ کا عطا کیا ہوا ایک صداقت نامہ بھی موجود

ملا دیا تھا۔ ایرانیوں کے علاوہ تغلب، ایاد اور نمر کے عربی النسل قبائل نے بھی رومیوں کی پوری پوری مدد کی کیونکہ وہ اپنے رؤساء اور سربراہ آوردہ اشخاص کے قتل کو بھولے نہ تھے۔ چنانچہ رومیوں، ایرانیوں اور عربی النسل قبائل کا ایک لشکر جرار مسلمانوں سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ دریائے فرات پر پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا:

”تم دریا کو عبور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہم دریا کو عبوری کر کے تمہاری طرف آئیں؟“

خالدؓ نے جواب دیا:

”تم ہماری طرف آ جاؤ۔“

چنانچہ دشمن کا لشکر دریا عبور کر کے دوسری جانب اترنا شروع ہوا۔ اس دوران میں خالدؓ نے اپنے لشکر کی تنظیم اچھی طرح کر لی اور باقاعدہ صفیں قائم کر کے انہیں دشمن سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار کر دیا۔ جب لڑائی شروع ہونے کا وقت آیا تو رومی لشکر کے سپہ سالار نے فوج کو حکم دیا کہ تمام قبائل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس گروہ نے زیادہ شان دار کارنامہ انجام دیا ہے۔ چنانچہ ساری فوج علیحدہ علیحدہ ہو گئی۔ لڑائی شروع ہوئی تو خالدؓ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ وہ چاروں طرف سے دشمن کے لشکر کو گھیر لیں اور انہیں ایک جگہ جمع کر کے اس طرح پے در پے حملے کریں کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسلامی دستوں نے رومی لشکر کو گھیر کر ایک جگہ جمع کر لیا اور ان پر پر زور حملے شروع کر دیئے۔ رومیوں اور ان کے حلیفوں کا خیال تھا کہ وہ قبائل کو علیحدہ علیحدہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھیج کر لڑائی کو زیادہ طول دے سکیں گے اور جب مسلمان تھک کر چور ہو جائیں گے تو ان پر بھرپور حملہ کر کے انہیں مکمل طور پر شکست دے دیں گے لیکن ان کا خیال خام ثابت ہوا اور ان کی تدبیر خود ان پر الٹ پڑی۔ جب مسلمانوں نے انہیں ایک جگہ جمع کر کے ان پر حملے کرنے شروع کیے تو وہ ان کی تاب نہ لا سکے اور بہت جلد شکست کھا کر میدان جنگ سے فرار ہونے لگے۔ لیکن مسلمان انہیں کہاں چھوڑنے والے تھے۔ انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور دور تک انہیں قتل کرتے چلے گئے۔

تمام مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ اس معرکے میں عین میدان جنگ اور

مملکتیں کاملاً مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں۔ اس لیے اس نے ایسے اسباب پیدا کر دیئے کہ خالدؓ عراقی قبائل کو مطیع کرنے کی غرض سے انتہائی شمال تک چلے گئے اور اس طرح مسلمانوں کے لیے بالائی جانب سے شام پر حملہ کرنے کا راستہ کھل گیا۔ ایرانی سرحدات سے رومیوں پر حملہ کرنے کا راستہ کھل گیا۔ ایرانی سرحدات سے رومیوں پر حملہ کا راستہ کھل جانا ایک ایسا معجزہ تھا جس کا خیال حضرت ابو بکرؓ تک کو بھی نہ آ سکا اور یہ کارنامہ ایسے شخص کے ہاتھوں رونما ہوا جس کی نظیر پیدا کرنے سے عرب اور عجم کی عورتیں واقعی عاجز تھیں۔

فراض میں خالدؓ کو کامل ایک مہینے تک قیام کرنا پڑا۔ یہاں بھی انہوں نے ایسی جرات اور عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا کہ وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ وہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے۔ مشرقی جانب ایرانی تھے جو ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ مغربی جانب رومی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ اگر اس وقت خالدؓ کی جمعیت کو تباہ و برباد نہ کر دیا گیا تو پھر وہ یہ سیلاب روکے نہ رکے گا۔ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان صرف دریائے فرات حائل تھا۔ ان کے علاوہ چاروں طرف بدوی قبائل آباد تھے۔ جن کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کے خالدؓ نے ان کے دلوں میں انتقام کی ایک نہ ختم ہونے والی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس نازک صورت حال سے خالدؓ لاعلم نہ تھے۔ اگر وہ چاہتے تو حیرہ واپس آ کر اپنی قوت و طاقت میں اضافہ کرتے ہوئے پھر رومیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ایسا نہ کیا کیونکہ دشمن کو سامنے دیکھ کر خالدؓ کے لیے صبر کرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ ان کی نظروں میں کیا ایرانی اور کیا اہل بادیہ سب حقیر تھے۔ ان کی عظیم الشان فوجوں کو وہ نہ پہلے کبھی خاطر میں لائے اور نہ آئندہ خاطر میں لانے کو تیار تھے۔ اس لیے وہ بڑے اطمینان سے لڑائی کی تیاریوں میں مشغول تھے۔

ادھر رومیوں کو ابھی تک خالدؓ سے واسطہ نہ پڑا تھا اور وہ ان کے حملے کی شدت سے ناواقف تھے۔ جب اسلامی فوجیں فراض میں اکٹھی ہوئیں اور برابر ایک مہینے تک ان کے سامنے ڈیڑے ڈالے پڑی رہیں تو انہیں بہت جوش آیا اور انہوں نے اپنے قریب کی ایرانی چوکیوں سے مدد مانگی۔ ایرانیوں نے بڑی خوشی سے رومیوں کی مدد کی کیونکہ مسلمانوں نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا تھا اور ان کی شان و شوکت کو تہ و بالا کر کے ان کا غرور خاک میں

ہیں اور جو نہی وہ روانہ ہوتے پیچھے سے ایرانی فوجیں مسلمانوں پر حملہ کر دیتیں۔ اس صورت میں اس حج کا کیا فائدہ ہوتا جو مسلمانوں کی تباہی کا موجب بننا اور اگر خلیفہ کی طرف سے اجازت نہ ملتی تو ان کے پاس اس آتش شوق کو سرد کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ جو حج بیت اللہ کے لیے ان کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ اس لیے آپ نے یہی مناسب سمجھا کہ انتہائی خفیہ طور پر حج کیا جائے کہ نہ حضرت ابو بکرؓ کو اس کا پتا چلے اور نہ ان کے لشکر کے کسی فرد کو۔ انہیں یقین تھا کہ اگر حضرت ابو بکرؓ نے اس فعل پر باز پرس کی تو وہ عذر معذرت کر کے انہیں راضی کر لیں گے۔ دوسری طرف اللہ بھی انہیں اس حج کے ثواب سے محروم نہ کرے گا۔

انہوں نے لشکر کو تو حیرہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے متعلق یہ ظاہر کر کے کہ وہ ”ساقہ“ کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں خفیہ طور پر حج کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ چند لوگ اور بھی تھے۔ وہ شہروں اور بستیوں سے دور دور سیدھے مکہ کی سمت روانہ ہوئے۔ یہ راستہ بہت عجیب و غریب اور سخت دشوار گزار تھا۔ کوئی رہبر نہ تھا لیکن جوانی کے ایام میں چونکہ انہیں تجارت کے لیے ملک در ملک پھرنا پڑا تھا اور سپہ سالار کی حیثیت سے پورا صحرا چھان مارا تھا اس لیے وہ اس علاقے کی تمام وادیوں، ٹیلوں راستوں، میدانوں غرض چپے چپے سے واقف تھے اور انہیں راستے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ حج سے پہلے ہی وہ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور حج کے فرائض پوری طرح ادا کر کے واپس آ گئے۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ قیام مکہ کے دوران میں کسی بھی شخص کو ان کی وہاں موجودگی کا علم نہ ہوا حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ کو بھی پتا نہ چلا جو بعض روایات کے مطابق اس سال حج پر مکہ میں موجود تھے۔

واپسی پر بھی انہوں نے وہی دہشت ناک اور دشوار گزار راستہ اختیار کیا جو حج کے لیے جاتے ہوئے اختیار کیا تھا۔ ابھی لشکر کا آخری حصہ حیرہ پہنچا بھی نہ تھا کہ وہ ”ساقہ“ سے آ ملے اور اس کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے۔ اس طرح ان کے لشکر کے کسی بھی فرد اور عراق کے کسی بھی شخص کو یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ اس نازک وقت میں لشکر سے غیر حاضر تھے اور حج کے لیے مکہ چلے گئے تھے۔

حیرہ میں قیام کے بقیہ دن انہوں نے بڑے اطمینان سے گزارے۔ ایک طرف یہ خوشی تھی کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں حج بیت اللہ کی توفیق مرحمت فرمادی تھی،

بعد ازاں تعاقب میں دشمن کے ایک لاکھ آدمی کام آئے۔

فتح کے بعد خالدؓ نے دس روز قیام فرمایا اور ۲۵ ذی القعدہ ۱۲ھ کو انہوں نے اپنی فوج کو واپس حیرہ کی جانب کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔

خالدؓ کا خفیہ حج:

خالدؓ یمامہ میں مرتدین کی سرکوبی کر چکے تھے۔ عراق ان کے ذریعے سے فتح ہو چکا تھا۔ ان کے ہاتھوں کسریٰ کے اقتدار کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ فراض کی فتح سے سلطنت رومہ میں پیش قدمی کرنے کا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ اللہ کی عنایت تھی ورنہ خالدؓ کی کیا حیثیت تھی کہ وہ یہ عظیم الشان فتوحات حاصل کرتے اور ایرانی سلطنت ان کے آگے سرنگوں ہونے پر مجبور ہو جاتی۔ جب وہ اللہ کے ان افضال و انعامات پر غور کرتے تو ان کا دل تشکر و امتنان کے جذبات سے معمور ہو جاتا۔ تشکر و امتنان کے یہی جذبات تھے جنہوں نے جنگ فراض سے فارغ ہونے کے بعد انہیں حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے پر آمادہ کیا۔ جنگ کے بعد فراض کے دس روزہ قیام نے جذبات کی اس آگ کو اس حد تک بھڑکا دیا کہ اب کوئی طاقت انہیں حج پر جانے سے باز رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی غیر حاضری عراق میں مسلمانوں کے لیے سخت خطرات پیدا کرنے کا موجب ہو سکتی ہے۔ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانی اس علاقے میں دوبارہ فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکا سکتے تھے۔ پھر بھی حج بیت اللہ کے مقابلے میں انہوں نے ان تمام خطرات کو نظر انداز کر دیا۔

اگر دشمن کو خالدؓ کی غیر حاضری کا علم ہو جاتا تو وہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کا یہ زریں موقع کسی طرح ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس خطرے سے بچنے کا صرف یہی طریقہ تھا کہ وہ اس طور پر حج کرتے کہ سوا خاص سرداروں کے اسلامی فوج کے کسی بھی فرد کو یہ معلوم نہ ہو سکتا کہ ان کا سپہ سالار لشکر سے غیر حاضر ہے۔ خالدؓ کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ حج کے لیے پہلے خلیفہ سے اجازت طلب کرتے لیکن اس صورت میں یہ خدشہ تھا کہ اگر خلیفہ کی طرف سے اجازت مل جاتی تو سارے لشکر میں چرچا ہو جاتا کہ خالدؓ حج کو جا رہے

تیرہواں باب

شام پر حملے کے اسباب

رومیوں کو تشویش:

سرزمین عراق میں خالد بن ولید نے جو عظیم الشان کارنامے سرانجام دیئے اور جس طرح ہرمیدان میں ایرانی افواج قاہرہ کو شکست دی اس کا ذکر ہمسایہ ملکوں کے بچے بچے کی زبان پر تھا۔ ان خبروں پر سب سے زیادہ تشویش مشرق رومی سلطنت کے فرمان رواؤں کو ہو رہی تھی۔ کیونکہ ان کے حالات بھی ایرانی سلطنت سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھے۔ جس طرح عراقی سرحد پر لخم، بنو تغلب، ایاد اور نمر وغیرہ عربی النسل قبائل آباد تھے۔ اسی طرح شام کی سرحد پر بنو بکر، بنو عدبرہ، بنو عدوان، بنو بحرہ اور غسانی قبائل مقیم تھے۔ رومی سلطنت کا خیال تھا کہ جس طرح مسلمانوں نے عراق پر پے در پے حملے کر کے اسے اپنی عمل داری میں شامل کر لیا ہے اسی طرح وہ شام پر حملے کر کے اسے بھی قبضے میں لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس خیال کے تحت انہوں نے پوری توجہ شام کی اس سرحد کو مضبوط کرنے پر مبذول کی جو عرب سے ملتی تھی تاکہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو ابتدا ہی میں روک کر انہیں رومی سلطنت پر حملہ کرنے سے باز رکھا جاسکے۔

اس سلسلے میں تعجب خیز امر یہ ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں مسلمانوں نے رومیوں کے ڈر سے شام کی ملحقہ سرحدات کو مستحکم کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ایسا نہ ہو وہ عرب سے جلا وطن کیے ہوئے یہود و نصاریٰ کی انگلیخت سے عرب پر حملہ کر دیں۔ مگر چند ہی سال میں حالات اتنے تبدیل ہو گئے کہ جن رومیوں سے ڈر کر مسلمانوں نے اپنی سرحدوں کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ کی تھی اب انہیں رومیوں نے مسلمانوں سے ڈر کر اپنی جنوبی سرحدوں

دوسری طرف یہ اطمینان تھا کہ عراق میں ان کی فتوحات پایہ تکمیل کو پہنچ چکی تھیں۔ اب ان کا خیال سلطنت ایران کے دار الحکومت مدائن کی طرف کوچ کرنے کا تھا۔ لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ جنگ فراض میں کامیابی حاصل کر کے خالدؓ نے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا اسے پایہ تکمیل کو پہنچائیں اور رومی سلطنت میں بھی اسی طرح فتوحات حاصل کریں۔ جس طرح ایرانی سلطنت میں کر چکے تھے۔^۱

بعض تاریخوں میں مذکور ہے کہ جس سال خالدؓ حج پر روانہ ہوئے اس سال امیر الحجاج حضرت عمرؓ تھے اور حضرت ابو بکرؓ نے اپنے ایام خلافت میں کبھی حج نہیں کیا۔ لیکن مورخین اس روایت کو ترجیح دیتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اس سال حج کے موقع پر حضرت ابو بکرؓ خود مکہ معظمہ میں موجود تھے۔ بہر حال دونوں روایتوں میں سے خواہ کوئی سی بھی روایت صحیح ہو اس میں شبہ نہیں کہ حضرت ابو بکرؓ کو اپنے سپہ سالار اعظم کے حج پر جانے کا اس وقت تک علم نہ ہوا جب تک وہ واپس حیرہ نہ پہنچ گئے۔



۱۔ عراقی فتوحات کے ذیل میں حیرہ کی فتح تک تو مورخین میں اتفاق ہے۔ بعض تفصیل میں کچھ اختلاف ہو تو ہو لیکن واقعات کی ترتیب اور ان کے نتائج میں کوئی اختلاف نہیں لیکن حیرہ کی فتح کے بعد پیش آنے والے واقعات میں اختلاف ہے۔ ہم نے اس باب میں انبار، الہتمر اور فراض کی جنگوں کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے اس پر طبری، ابن اثیر اور ابن خلدون تو متفق ہیں لیکن بلاذری، ازدی اور واقدی نہیں۔ یہ مورخین جنگ فراض کا سرے سے ذکر ہی نہیں کرتے۔ انبار اور عین الہتمر کی جنگوں کے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت پیش آئیں جب حضرت ابو بکرؓ نے خالدؓ کو شام کی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔

شامی سرحد پر مقیم مسلمان امراء کو واضح ہدایات دے دی تھیں کہ وہ اپنی طرف سے رومی سرحدات پر حملہ کرنے میں پہل نہ کریں اور جب تک رومیوں کی طرف سے حملہ کرنے کی ابتداء نہ ہو وہ مدافعت کا پہلو اختیار کیے رکھیں اور اپنے آپ کو رومی تصادم سے ہر ممکن طریقے پر بچائیں۔ ادھر چونکہ رومیوں کو مسلمانوں کی فتوحات کا سارا حال معلوم تھا۔ اس لیے وہ بھی شام کی سرحد عبور کر کے اسلامی فوجوں پر حملہ کرنے سے ہچکچاتے تھے اور اپنی سرحد ہی کے اندر ڈیرے ڈالے پڑے تھے۔ اس طرح فریقین کے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق ڈر اور خوف کے جذبات پائے جاتے تھے اور ہر فریق جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلو تہی کر رہا تھا۔

رومیوں کے ڈر اور خوف کی بنیاد زیادہ تر اس پر تھی کہ ابو بکرؓ نے بیعت کے بعد شمالی عرب کے مرتدین کی سرکوبی اور سرحدوں کے استحکام کے لیے جو فوجیں روانہ کی تھیں انہیں اپنے مقاصد میں پوری کامیابی ہوئی تھی اور وہ کسی قسم کا نقصان اٹھائے بغیر مظفر و منصور واپس آ گئی تھیں۔ تمام قبائل نے بغیر لڑے بھڑے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی اور سوا دومۃ الجندل کے باقی تمام علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ فلسطینیوں اور شامی سرحد پر بسنے والے عربوں پر مشتمل جو فوجیں شام کے سرحدی مقامات پر موجود تھیں انہیں رومی کسی طرح بھی عربوں کے مقابلے کے لیے تیار نہ کر سکتے تھے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ مبادا یہ لوگ مسلمانوں سے مل جائیں۔

شامی سرحد پر اسلامی فوجوں کے سردار خالد بن سعید بن عاص تھے ابو بکرؓ نے پہلے انہیں مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجنا چاہا تھا لیکن عمرؓ نے ان کے اس ارادے کی مخالفت کی اور اتنا اصرار کیا کہ آخر ابو بکرؓ نے انہیں مرتدین کے مقابلے میں بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کے بجائے تیما میں امدادی دستے کا امیر مقرر کر کے شام کی سرحد پر بھیج دیا۔ انہیں ہدایت تھی کہ جب تک خلیفہ کے واضح احکام ان تک نہ پہنچیں وہ نہ اپنی جگہ سے ہٹیں اور نہ اس وقت تک دشمن سے جنگ کا آغاز کریں جب تک دشمن خود پہل کر کے ان کے مقابلے میں آ جائے۔ البتہ وہ گرد و نواح میں بسنے والے قبائل کو ساتھ ملانے کی پوری کوشش کریں سوا ان قبائل کے جو ارتداد اختیار کر چکے تھے۔

کی حفاظت اور انہیں مستحکم کرنے کے کام کو باقی تمام کاموں پر فوقیت دینی شروع کر دی۔ ابو بکرؓ بھی ہر قل شام و روم کے ان جذبات و خیالات سے پوری طرح آگاہ تھے جنہوں نے اسے سخت سراسیمہ کر رکھا تھا۔ لیکن جب تک مرتدین سے جنگیں ختم نہ ہو جاتیں وہ شام پر توجہ مبذول نہ کر سکتے تھے کیونکہ اگر مرتدین کی پوری طرح سرکوبی سے پہلے ہی اسلامی فوجوں کو شامی سرحدات کی طرف روانہ کر دیا جاتا تو خدشہ تھا کہ مبادا مرتد قبائل، جنہیں رفتہ رفتہ مطیع کیا جا رہا تھا۔ اسلامی فوجوں کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ وسیع پیمانے پر بغاوت کر دیں۔ بعد میں جب ثنی بن حارثہ کی ان تھک کوششوں کے نتیجے میں مسلمانوں کو عراق میں کامیابی نصیب ہونے لگی اور خالدؓ نے ایرانی سلطنت میں گھس کر انجمیوں کے دار الحکومت حیرہ پر اسلامی پرچم لہرا دیا تو ابو بکرؓ کو شام کا بھی خیال آیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے عراق کی طرح شام کی سرحد پر بھی عرب قبائل آباد تھے اور جس طرح عراق کے بعض عرب قبائل نے عیسائیت پر قائم رہنے کے باوجود مسلمانوں سے مل کر کسریٰ کی فوجوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اسی طرح شام کے عرب قبائل کے بارے میں بھی یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے کیونکہ رومیوں کی حیثیت حاکم کی تھی اور اہل شام کی محکوموں کی، اور حاکموں اور محکوموں کے درمیان نفرت و عداوت کے جو جذبات پنہاں ہوتے ہیں وہ ہر شخص کو معلوم ہیں۔ حاکم و محکوم کے تعلق کے علاوہ ایرانیوں اور عراق کی سرحد پر بسنے والے عرب قبائل کی طرح رومی اور شامی سرحد پر بسنے والے بادیہ نشین عرب قبائل کے درمیان جنس اور زبان کا بین اختلاف بھی موجود تھا۔ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو امید تھی کہ شام کی سرحد کی طرف پیش قدمی کر کے جب وہ رومی لشکروں پر غلبہ حاصل کر لیں گے تو شامی عرب اپنے ہم وطن لوگوں سے آ کر مل جائیں گے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی طاقت و قوت میں معتد بہ اضافہ ہو جائے گا اور وہ رومیوں پر مکمل فتح حاصل کر کے اس زرخیز اور آباد سرزمین پر قابض ہو سکیں گے۔

رومیوں پر حملہ کرنے میں ابو بکرؓ جو تر د تھا وہ دومۃ الجندل کی فتح عمل میں آنے اور مسلمانوں پر اس کے دروازے کھل جانے کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر بھی چونکہ ابھی تک عراق میں جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اس لیے رومیوں پر فوری حملہ مناسب نہ سمجھا گیا۔ ابو بکرؓ نے

اختیار کیس انہیں پوری طرح لباس عمل پہنانے نہ پائے تھے کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ اب آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ ہر قل ہمارے مقابلے کی غرض سے کثیر تعداد میں فوجیں جمع کر رہا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طاقت و جرأت سے کام لینا چاہیے اور رومیوں سے نبرد آزمائی کے واسطے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوجیں شام روانہ کرنی چاہئیں۔ جو شخص مارا گیا اسے شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا اور جو زندہ رہا وہ مجاہدین کے زمرے میں شامل ہوگا۔ اور اللہ کے ہاں اس کے لیے جو اجر لکھا جائے گا اس کا کوئی حساب و شمار ہی نہیں۔ اب آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔“

سب سے پہلے عمرؓ اٹھے اور کہنے لگے:

”واللہ! ہم نے جس نیک کام میں بھی سبقت کرنے کی کوشش کی، اس میں آپ کو سب سے آگے پایا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں کسی کو کلام نہیں۔ اللہ کا منشاء بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم شام کو فتح کر لیں۔ آپ یقیناً زیادہ سے زیادہ آدمی شام روانہ کیجئے۔ اللہ اپنے دین کا مددگار ہے۔ وہ یقیناً اسلام کو شان و شوکت بخشے گا اور اس کی ترقی کے لیے جو وعدے اس نے اپنے رسولؐ سے کیے تھے انہیں ضرور پورا فرمائے گا۔“

عبدالرحمن بن عوفؓ میں احتیاط کا مادہ زیادہ تھا۔ عمرؓ کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور

کہنے لگے:

”اے خلیفہ رسول اللہ! اس معاملے پر اچھی طرح غور و فکر کر لیجئے۔ رومی ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ یک دم افواج بھیج کر انہیں غیر یقینی صورت حال سے دوچار کر دینا قرین دانش مندی نہ ہوگا۔ میرے خیال میں رومیوں پر پوری قوت سے حملہ کرنے کی نسبت بہتر

فریقین کی جنگی تیاریاں:

خالد بن سعید نے ابوبکرؓ کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جس کے نتیجے میں چند ہی دنوں کے اندر ان کے جھنڈے کے نیچے ایک جرار لشکر تیار ہو گیا۔ جب ہر قل کو اپنی سرحدوں پر اس عظیم الشان لشکر کے اجتماع کی خبر ملی تو اس نے بھی پورے زور شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ خالد بن سعید نے فوراً ابوبکرؓ کو خط لکھا جس میں ہر قل کی جنگی تیاریوں کا ذکر کر کے رومی سرحدوں پر چڑھائی کرنے کی اجازت طلب کی مبادارومیوں کا لشکر اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے اور انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑے۔

ابوبکرؓ نے خالد بن سعید کے خط پر خوب غور و فکر کیا۔ جنوبی عرب سے آنے والی خبریں بہت حوصلہ افزاء تھیں۔ عکرمہ اور مہاجر نے اس علاقے کے مرتدین کا قلع قمع کر دیا تھا اور عکرمہ، مہاجر کو یمن میں چھوڑ کر خود اپنی فوجوں کے ساتھ واپس آنے والے تھے۔ ان فوجوں کی واپسی پر شام میں مقیم اسلامی فوجوں کو کمک بھیجنا آسان تھا لیکن سوال یہ تھا کہ آیا یہ فوجیں، جن کی تعداد بہر حال رومیوں کے جرار لشکروں سے بہت کم تھی، رومیوں کے مقابلے کے لیے کافی بھی ہوں گی بالخصوص اس حالت میں کہ رومیوں کے پاس سامان جنگ کی بھی کمی نہ تھی اور اس سے قبل ہر قل اپنی افواج کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی کی بدولت ایرانیوں کی عظیم الشان فوجوں کو شکست دے چکا تھا۔ اس مشکل صورت حال سے عہدہ برآ ہونے کا یہی طریقہ تھا کہ جنوبی عرب کے ان قبائل کو جو بدستور اسلام پر قائم تھے، ساتھ ملایا جائے اور دوسری اسلامی فوجوں کے ساتھ انہیں بھی شام روانہ کر دیا جائے۔ اس طرح امید ہو سکتی تھی کہ اسلامی فوجیں رومیوں کے سامنے ٹھہر سکیں۔

ابوبکرؓ نے انتہائی غور و فکر کے بعد عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، عبد الرحمن بن عوفؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، ابو عبیدہؓ بن جراحؓ، معاذ بن جبلؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ اور دوسرے بڑے بڑے مہاجرین و انصار کو طلب فرمایا اور یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ابوبکرؓ نے فرمایا:

”رسول اللہؐ کی خواہش تھی کہ اہل عرب کو شامیوں کے متوقع حملوں

سے ہر طرح محفوظ رکھا جائے۔ اس غرض سے آپؐ نے جو تدابیر

”آپ کی جو بھی رائے ہو اسی پر عمل کیجئے۔ ہم دل و جان سے آپ کی اطاعت کریں گے اور جو حکم آپ ہمیں دیں گے اسے بہ سروچشم قبول کریں گے۔“
یہ سن کر ابو بکرؓ اٹھے اور لوگوں کو شام پر لشکر کشی کے لیے تیار ہونے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

”میں تم پر چند امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنے امراء کی مخالفت نہ کرو۔ تمہاری نیتیں اور سیرتیں پاک و صاف ہونی چاہئیں کیونکہ اللہ انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔“

لیکن لوگوں پر رومیوں کی اتنی ہیبت طاری تھی کہ خلیفہ کے احکام سن کر تھوڑی دیر کے لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ آخر عمرؓ نے اس خاموشی کو توڑا اور گرج کر کہنے لگے:

”اے مسلمانو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خلیفہ کی باتوں کا جواب نہیں دیتے حالانکہ اس کے پیش نظر صرف تمہاری بھلائی ہے۔“

عمرؓ کی اس سرزنش نے حاضرین کے دلوں پر فوری اثر کیا اور وہ شام روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔

ابو بکرؓ کی مصروفیات اور ذمہ داریاں:

شام پر چڑھائی کے معاملے میں ابو بکرؓ کو اس درجہ انہماک تھا کہ دوسرے تمام معاملات ان کی نظر میں ہیچ تھے۔ جریر بن عبد اللہ خالد بن سعید کی فوج میں شامل تھے۔ وہ ان سے اجازت لے کر شام سے مدینہ آئے اور ابو بکرؓ کی خدمت میں بعض مطالبات پیش کیے۔ ابو بکرؓ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا:

۱۔ ازدی لکھتے ہیں کہ خالد بن سعید اس مجلس میں موجود تھے اور ان ہی نے سب سے پہلے جہاد پر جانے کی حامی بھری تھی۔ لیکن طبری، ابن خلدون اور ابن اثیر نے اپنی کتابوں میں وہی روایت درج کی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ ہم بھی طبری ہی کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ خالدؓ اس زمانے میں تہام میں مقیم تھے اور اس اجتماع میں حاضر نہ تھے۔

یہ ہوگا کہ ابتداء میں چند دستے بھیجے جائیں جو سرحد پر چھاپہ مار کر اور رومیوں کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا کر واپس چلے آئیں۔ ان کے بعد چند دستے اور بھیجیں جو پہلے کی طرح سرحدوں پر چھاپے مار کر سرحدی قبائل کو خوف زدہ کر کے واپس آ جائیں۔ اسی طرح کچھ کچھ وقفے کے بعد دستے بھیجے جائیں اور کچھ عرصہ بعد انہیں واپس بلا لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف تو اہل شام ہمارے مسلسل حملوں سے خوف زدہ ہو جائیں گے، دوسری طرف جب عرب دیکھیں گے کہ ہمارے دستے ہر بار رومیوں کو زک پہنچا کر اور مال غنیمت لے کر واپس آتے ہیں تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ان میں رومیوں سے مقابلہ کرنے کی جرات پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ بہت آسانی سے اہل یمن اور ربیعہ و مضر کو اکٹھا کر کے انہیں رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ انہیں ساتھ لے کر خود جہاد پر روانہ ہو جائیں یا اپنی جگہ دوسرے مقام پر مقرر کر کے بھجوا دیں۔“

مجلس پر سناٹا چھا لیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ابو بکر حاضرین کی طرف متوجہ

ہوئے اور فرمایا:

”بتائیے اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟“

اس پر عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور ہنسنے لگے:

”آپ مسلمانوں کے دلی خیر خواہ اور حامی دین ہیں۔ اگر آپ نے

ان کی بھلائی کے لیے کوئی قطعی رائے قائم کر لی ہے تو نتیجہ خواہ چھ ہی

کیوں نہ ہو آپ اسے نافذ کرنے کا حکم فرمائیں۔ کوئی شخص آپ کی

مخالفت نہ کرے گا۔“

اس موقع پر دیگر حاضرین مجلس نے بھی عثمان سے پوری طرح اتفاق کیا اور ابو بکرؓ

کو مخاطب کر کے کہنے لگے:

ابو بکرؓ کو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا اتنا شدید احساس تھا کہ جب سے مرتدین کی جنگوں نے شدت اختیار کی تھی انہوں نے مدینہ سے باہر نہ جانے کی قسم کھالی تھی۔ ان کے شب و روز دار الخلافہ ہی میں گزرتے تھے اور ہر وقت وہ انہیں افکار میں غلطاں و پیچاں رہتے تھے کہ پیش آمدہ حالات سے عہدہ برآ ہونے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں، فوجوں کو کس طرح کمک پہنچائی جائے، فلاں علاقے کی بغاوت کس شخص کے ذریعے سے فرو کی جائے، مفتوحین سے کیا سلوک کیا جائے اور مفتوحہ علاقوں کا انتظام و انصرام کس طرح عمل میں لایا جائے!

مرتدین کی سرکوبی سے فراغت کے بعد جب اسلامی فوجوں نے ایران و روم کی عظیم الشان و باجروت سلطنتوں کی طرف توجہ منعطف کی اور عراق و شام کے میدانوں میں معرکے سر ہونے لگے تو ابو بکرؓ کی ذمہ داریوں اور مصروفیتوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اپنے فرائض کی بجا آوری میں انہیں اس درجہ انہماک تھا کہ مملکت کے علاوہ دیگر تمام امور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی فراموش کر کے اپنے آرام و آسائش اور صحت تک کو اس راہ میں قربان کر دیا۔

ابو بکرؓ کی اختیار کردہ سیاست کامیابی اور ظفر مندی کی ضامن تھی۔ ان کا عہد جہاں عدل و انصاف اور رعایا پر رحمت و شفقت کے لحاظ سے اپنی نظیر نہیں رکھتا وہاں اس اولوالعزمی کا بھی جواب نہیں جس کا نمونہ انہوں نے اپنے مختصر سے عہد خلافت میں پیش کیا۔ انہوں نے انتہائی شجاعت سے سارے عرب کو اسلامی حکومت کا مطیع و فرمان بردار بنا دیا لیکن قبائل کو ان کے جائز حقوق دینے سے کبھی پہلو تہی نہ کی بلکہ جو آزادی رسول اللہؐ نے انہیں مرحمت فرما رکھی تھی اسی آزادی سے انہوں نے بھی انہیں بہرہ ور کیے رکھا اور سوا زکوٰۃ کے، جو وہ رسول اللہؐ کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے، ان سے اور کسی چیز کی ادائیگی کا مطالبہ نہ کیا۔ اس زکوٰۃ کا بھی بیشتر حصہ انہیں قبائل کے فقراء اور مساکین پر خرچ ہو جاتا تھا۔ سلطنت کو خراج اور مال غنیمت کے ذریعے سے جو آمدنی ہوتی تھی ابو بکرؓ اس میں سے ایک درہم بھی اپنی ذات پر خرچ کرنا حرام سمجھتے تھے۔ وہ سلطنت کے خزانے سے صرف اتنی رقم لیتے تھے جتنی مسلمانوں نے ان کے لیے گزارے کے طور پر مقرر کر رکھی تھی۔ آمدنی

”تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان اس وقت ایران اور روم، دو شیروں کے مقابلے میں نبرد آزما ہیں لیکن تمہیں اس وقت اپنے مطالبات کی پڑی ہے۔ تم فوراً عراق پہنچ کر خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہو جاؤ اور اپنے مطالبات کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔“

ابو بکرؓ کا یہ جواب سننے کے بعد جریر حیرہ چلے گئے جہاں اس وقت خالد بن ولید مقیم تھے۔

ابو بکرؓ کو ابتدائے خلافت ہی سے اہم جنگی مسائل سے واسطہ پڑ چکا تھا جن میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس لیے ان کا زیادہ تر وقت انہیں مسائل کو حل کرنے اور انہیں گتھیوں کو سلجھانے میں گزر جاتا تھا۔ کبھی عراق میں پھیلی ہوئی فوجوں کی فکر دامن گیر ہوتی تھی کہ انہیں مدد کی ضرورت تو نہیں۔ کبھی جنگوں میں گئے ہوئے لوگوں کے اہل و عیال کی طرف توجہ کرنی پڑتی تھی کہ ان کی ضروریات بہت اچھی طرح پوری ہو رہی ہیں اور انہیں تکالیف کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا۔ کبھی شمالی اور جنوبی عرب کے قبائل کا خیال آتا تھا کہ حکومت سے ان کی وفاداری اور دار الخلافہ سے ان کے یہ ظاہر مخلصانہ تعلقات مشکوک تو نہیں۔ کبھی میدان جنگ سے فتوحات کی دل خوش کن خبریں آ کر مسرت و بہجت کی لہریں قلب کے گوشے گوشے میں پھیل جاتی تھیں اور کبھی بعض سرداروں کی پست ہمتی کی اطلاعات موصول ہو کر دل و دماغ پر تفکرات کے پردے ڈال دیتی تھیں۔ ہر خبر کے متعلق سوچنا پڑتا تھا کہ اسے لوگوں سے بیان کیا جائے یا نہ اور اگر بیان کیا جائے تو کس طریقے سے۔ غرض ان کے شب و روز انہیں تفکرات میں گزرتے تھے اور وہ ناخن تدبیر کے ذریعے سے پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں مصروف رہتے تھے۔ اگرچہ ان کے مشیر کار بہت تجربہ کار، مخلص اور تمام معاملات پر گہری نظر رکھنے والے تھے، انہیں ان پر بے حد اعتماد بھی تھا اور اکثر اہم امور کے بارے میں وہ ان سے برابر مشورہ کرتے رہتے تھے پھر بھی وہ ان کے مشوروں کے پابند نہ تھے بلکہ تمام معاملات میں آخری فیصلہ خود ہی کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ عامۃ المسلمین کے سامنے جواب دہ صرف خلیفہ کی ذات ہے اس لیے ہر معاملے کی ذمہ داری بھی اسی کو اٹھانی چاہیے اور یہ بوجھ کسی اور فرد یا جماعت کے سر نہ ڈالنا چاہیے۔

کے تمام مشیروں کی رائے تھی کہ یہ وقت اس کام کے لیے موزوں نہیں کیونکہ مدینہ کے چاروں طرف مرتدین کا زور ہے اور اسامہ کے لشکر کی روانگی کے باعث مدینہ میں لڑنے والوں کی تعداد بے حد کم رہ جائے گی لیکن ابو بکرؓ نے تمام لوگوں کے مشوروں کو رد کرتے ہوئے اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا اور مرتدین سے اس طرح مقابلہ کیا کہ ان کے تمام مشیروں کو ان کی فراست، عقل مندی اور کمال دورانہدیشی کا اعتراف کرنا پڑا۔

کام کا بوجھ ان پر جتنا پڑتا جاتا تھا ان کی طبیعت میں اتنا ہی انکسار، فروتنی اور سادگی آتی جاتی تھی۔ جب تک آپؓ سخی میں رہے آرام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت نکال لیا کرتے تھے۔ عموماً وہ صبح کے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر سخی سے مدینہ آیا کرتے تھے اور نماز پڑھا کر امور سلطنت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی آرام بھی کرتے تھے اور ان کی جگہ نماز پڑھاتے تھے جمعہ کے روز وہ دوپہر تک وہاں ہی رہتے تھے اور سر اور ڈاڑھی کو خضاب لگاتے تھے۔ اس کے بعد مدینہ آ کر جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن کام بڑھ جانے کے باعث جب انہیں سخی کا قیام ترک کر کے مدینہ میں رہنا پڑا تو انہوں نے آرام کا سارا وقت مسلمانوں کی خاطر قربان کر دیا اور لمحہ لمحہ سلطنت کے امور کی دیکھ بھال میں صرف کرنے لگے۔ لیکن کام کی انتہائی کثرت کے باوجود انہوں نے اپنے لیے کبھی کوئی خادم مقرر نہ کیا۔ دن کا بڑا حصہ وہ مسجد میں تشریف فرما رہتے اور لوگوں کی شکایات سنتے۔ جہاد کے متعلق مختلف ہدایات بھیجتے اور لوگوں کو مشورے دیتے رہتے تھے۔ جب ضروری ہوتا تھا تو ان سے مشورے لیتے بھی تھے۔ سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے معاملات مسجد ہی میں ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ ان کے متعلق احکام صادر فرما دیتے تھے۔

غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ سردیوں میں کھل خریدتے اور انہیں محتاجوں میں تقسیم کر دیتے۔ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر فقراء اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے تھے۔ عمر بن خطاب ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بوڑھی اندھی عورت رہتی تھی۔ میں روزانہ علی الصبح اس کی خبر گیری کے لیے جایا کرتا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہتی جب وہاں جا کر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص پہلے ہی سے آ کر اس بڑھیا

کا بیشتر حصہ جنگوں کی تیاری میں خرچ ہوتا تھا اور بقیہ فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ابتدائی عہد خلافت میں بیت المال سخ میں تھا جہاں ابو بکرؓ قیام پذیر تھے لیکن بعد میں جب کام کی زیادتی کے باعث انہیں اپنا قیام مدینہ میں منتقل کرنا پڑا تو بیت المال کو بھی اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ جب ایران سے بھاری مقدار میں مال غنیمت آنا شروع ہوا تو ان سے عرض کیا گیا کہ بیت المال کی نگرانی اور حفاظت کے لیے کسی شخص کو مقرر کر دیں لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ جتنا مال ان کے پاس آتا تھا وہ اسے اسی وقت لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور بیت المال میں اتنا بچتا نہ تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے نگران کی ضرورت پڑتی۔ ایک مرتبہ ان کے عہد خلافت میں مدینہ کے قریب قبیلہ بنو سلیم میں سونے کی ایک کان دریافت ہوئی۔ سونا بڑی قیمتی دھات ہے لیکن انہوں نے حسب معمول کان سے حاصل ہونے والا سونا بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ بچا کر نہ رکھا۔

تقسیم اموال میں وہ مساوات کا اصول ملحوظ رکھتے تھے اور ابتدائی دور کے مسلمانوں اور بعد میں اسلام قبول کرنے والوں، آزاد لوگوں اور غلاموں، مردوں اور عورتوں میں کسی قسم کا فرق روا نہ رکھتے تھے بعض لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ وہ لوگوں کے وظائف ان کے مرتبے کے مطابق کیوں مقرر نہیں کرتے لیکن انہوں نے یہ جواب دے کر انہیں خاموش کر دیا کہ جو لوگ ابتداء میں اسلام لائے وہ اپنا اجر آخرت میں اللہ سے پائیں گے، دنیا میں انہیں وہی کچھ ملے گا جو دوسرے مسلمانوں کو ملتا ہے۔

عدل و انصاف اور مساوات کے اس سلوک نے تمام لوگوں کو ابو بکرؓ کا گرویدہ کر دیا تھا اور ہر شخص کے دل میں ان کی تعظیم و تکریم کے جذبات پنہاں تھے۔

عمر بن خطاب دلی رفیق اور سب سے زیادہ قابل اعتماد مشیر تھے۔ عثمانؓ، علیؓ، طلحہؓ اور زبیرؓ وغیرہ کا بھی اپنی اپنی جگہ ان سے خصوصی تعلق تھا۔ ان لوگوں سے مشورہ لیے بغیر وہ کوئی کام نہ کرتے تھے لیکن اس قدر احتیاط کے باوجود ان کے مشوروں کو قبول کرنا ان کے لیے لازم نہ تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر مشورے کے بہانے وہ کسی کام کی ذمہ داری دوسروں پر نہ ڈالتے تھے بلکہ ہر قسم کی ذمہ داری خود اٹھاتے تھے۔ اس کی متعدد مثالیں ان کے عہد میں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ جب اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنے کا مسئلہ درپیش تھا تو ان

لیکن اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ صرف مال غنیمت کا لالچ عربوں کو کشاں کشاں میدان ہائے کارزار کی طرف لے جاتا تھا بلکہ جنگوں میں شامل ہونے کا بڑا سبب وہ جذبہ شہادت تھا جو ہر مسلمان کے دل میں موجزن رہتا تھا۔ کون شخص اس بات سے بے خبر تھا کہ مجاہدین اور ان کے دشمن کی قوت و طاقت اور تعداد میں کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ دشمن ہمیشہ بہترین جنگی تیاریوں اور جرار لشکروں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابل میدان جنگ میں آیا اور اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے میں کبھی کسی قسم کی کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ ان حالات میں شریک جنگ ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا لیکن نڈر اور بے خوف مجاہدین نے اللہ کے راستے میں کسی بھی خطرے کی پروانہ کی اور ہمیشہ دشمن کی صفوں میں دیوانہ وار گھستے چلے گئے۔ حصول شہادت کا یہی جذبہ دیکھ کر خالد بن ولید ایرانی سرداروں کو یہ پیغام بھجوایا کرتے تھے کہ ”میں تمہارے پاس ایک ایسی قوم کو لارہا ہوں جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنے تم زندگی کے۔“

یہ قانون قدرت ہے کہ جو قوم موت سے بے خوف ہوتی ہے اقوام عالم میں اسی کو زندہ رہنے کا مستحق سمجھا جاتا ہے اور جو لوگ اپنی خواہشات اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں قوموں کی سرداری کا تاج انہیں کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے لیے موت پسند کی جس پر انہیں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کی گئی۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہر قسم کی تکالیف اور مصائب برداشت کیے اس لیے انہیں دونوں جہان کی عزت سے سرفراز کیا گیا۔ پھر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مال غنیمت کا شوق بھی کسی حد تک انہیں میدان جنگ میں لے جانے کا باعث بنا۔ عرب قبائل کی فطرت میں یہ بات داخل تھی کہ وہ غنیمت کو دیکھ کر کسی طرح صبر نہ کر سکتے تھے۔ اگرچہ اسلام نے آ کر اس نفسانی جذبے کو بڑی حد تک مٹا دیا تھا اور غنیمت کے لالچ میں دشمن سے جنگ کرنے کی بجائے اللہ کے دین کی خاطر جہاد میں شرکت کرنے کی تمنا ان کے دلوں میں پیدا کر دی تھی لیکن قدرتی جذبے کو یکسر مٹانا آسان نہ تھا۔ کسی نہ کسی حد تک یہ جذبہ ان کے دلوں میں موجود تھا۔ چنانچہ خود خالد بن ولید نے الیس کی جنگ کے اختتام پر کہا تھا کہ عراق میں مال و دولت کی فراوانی اور مال غنیمت کی کثرت، جو عربوں کے خواب و خیال میں بھی نہ آ سکتی تھی، آتش جنگ بھڑکا

کا سارا کام کاج کر گیا ہے۔ آخر ایک روز میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس شخص کا پتا لگا کر ہی رہوں گا۔ ابھی رات باقی تھی کہ میں بڑھیا کی جھونپڑی کے قریب چھپ کر بیٹھا رہا اور اس شخص کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکرؓ چلے آ رہے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے دل میں کہا ”ابو بکرؓ! یقیناً یہ کام تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔“ چنانچہ انہوں نے آ کر اس اندھی عورت کا کام کاج کیا اور واپس چلے گئے۔

یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ ابو بکرؓ کی ذات ان کے تمام اعمال کے لیے نمونہ تھی۔ عرب کی آتش فشاں سرزمین میں، جہاں ہر طرف بغاوت اور ارتداد کے شعلے بھڑک رہے تھے، مایوس دلوں کے لیے ان کی ذات اس مشعل کی مانند تھی جو اندھیری رات اور تنگ و تاریک مکان میں ضیا افروز ہو اور تاریکی کو روشنی میں تبدیل کر رہی ہو۔ سارا عرب ان کے عدل و انصاف، رحمت و شفقت، حکمت اور حسن سیاست سے بہرہ اندوز ہو رہا تھا اور یہی خصوصیات ان کی کامیابی کا اصل باعث تھیں۔

جہاد اور غنیمت:

ابو بکرؓ کو کامل یقین تھا کہ اللہ انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اپنے رسولؐ سے دین کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ خواہ زمین و آسمان مل جاتے لیکن خدائی باتوں کا ٹلنا ناممکن تھا۔ چنانچہ اس کے وعدے پورے ہوئے مرتدین کی جنگوں میں مسلمانوں کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ عراق کے میدان ہائے جنگ میں فتح و نصرت ان کے قدم چوم رہی تھی اور مسلمان ہر دم تائید ایزدی سے بہرہ یاب ہو رہے تھے۔ کوئی جنگ ایسی نہ ہوتی تھی جس میں کثیر مال غنیمت ہاتھ نہ آتا ہو۔ دربار خلافت میں مال غنیمت کا صرف پانچواں حصہ جاتا تھا باقی میدان جنگ ہی میں لشکر کے درمیان تقسیم ہو جاتا تھا اور ہر سپاہی کے حصے میں ہزاروں درہم آتے تھے۔ جنگوں میں پیچھے رہنے والے لوگ جب یہ دیکھتے تھے تو ان کے دلوں میں بھی لڑائیوں میں شرکت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا تھا اور جو نہی حضرت ابو بکرؓ کی طرف سے جہاد میں شمولیت کا اعلان ہوتا فوراً ہی قبائل عرب دیوانہ وار آگے بڑھ کر ان کی دعوت پر لبیک کہتے تھے۔

اندازہ ناممکن ہے۔ تمہارے ان بھائیوں کو، جو میرے سامنے موجود تھے، میں نے جہاد کے لیے شام جانے پر آمادہ کیا، چنانچہ وہ میری آواز پر لبیک کہہ کر خلوص نیت سے شام روانہ ہو رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو! اب تمہاری باری ہے۔ تم بھی میری آواز پر لبیک کہو اور جو فریضہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عائد کیا گیا ہے اس کی بجا آوری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔“

اہل یمن پر اس خط کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ جونہی ابو بکرؓ کے قاصد نے اسے مجمع عام میں پڑھ کر سنایا ذوالکلاع حمیری اپنی قوم اور یمن کے بعض اور قبائل کو ہمراہ لے کر شام جانے کے ارادے سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ ذوالکلاع کی پیروی میں بیلہ مذحج سے قیس بن ہبیر مرادی، ازد سے جندب بن عمرو والدوسی اور طلی سے حابس بن سعد طائی نے اپنے اپنے ساتھیوں اور قبیلوں کے ہمراہ مدینہ کی راہ لی۔

اس دوران میں جب ابو بکرؓ کا قاصد یمن میں قبیلہ در قبیلہ جا کر ان کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں مشغول تھا اور اہل یمن کوچ کی تیاریوں میں مصروف تھے، ابو بکرؓ مہاجرین، انصار، اہل مکہ اور دوسرے نواحی قبائل کو اکٹھا کر کے شام بھیجنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ابو بکرؓ نے ان لشکروں کو کس وقت بھیجنا شروع کیا؟ شام کی طرف کوچ کرنے والا سب سے پہلا لشکر کون سا تھا؟ جو لشکر مدینہ آ کر اکٹھے ہوئے تھے ان کے امیر کون تھے؟ ان امور کے متعلق مورخین میں خاصا اختلاف ہے۔

اکثر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شام کی جانب سب سے پہلا لشکر ۱۲ھ کے اواخر میں ابو بکرؓ کے حج سے واپس آنے کے بعد روانہ ہوا تھا۔ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ ابو بکرؓ نے ۱۲ھ کے اوائل میں جب خالد بن ولید کو عراق روانہ فرمایا تو انہیں کے ساتھ خالد بن سعید بن عاص کو شام جانے کا حکم دیا۔ لیکن ہمارے خیال میں اصل واقعات اس

دینے کے لیے یقیناً کافی تھی۔

مرتد قبائل جنہیں ارتداد کی سزا میں عراق کی جنگوں میں شرکت سے بہ زور منع کر دیا گیا تھا، اپنے بھائیوں کے گھروں میں دولت کی ریل پیل دیکھ کر اپنے کیے پر پچھتا رہے تھے لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ جو لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے تھے وہ نہ صرف کامیابی و کامرانی سے ہم کنار بلکہ مال و دولت سے بھی بہرہ ور ہو رہے تھے مگر مرتدین کے حصے میں حسرت و مایوسی کے سوا کچھ نہ تھا۔

روانگی شام:

بائیں ہمہ جب ابوبکرؓ نے لوگوں کو شام جانے کی دعوت دی تو ابتداء میں رومیوں کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی زبردست جنگی طاقت دیکھ کر مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں جانے کی جرات نہ ہوئی لیکن ابوبکرؓ جانتے تھے کہ رومیوں کی ہیبت کا یہ اثر عارضی ہے اور جو نہی انہیں حالات کی نزاکت کا احساس ہو گا وہ جوق در جوق جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد لوگوں نے یکے بعد دیگرے اپنے آپ کو شام جانے کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا۔

اہل مدینہ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ابوبکرؓ نے اہل یمن کو بھی اس غرض کے لیے تیار کرنا چاہا اور انہیں یہ خط لکھا:

”اللہ نے مومنوں پر جہاد فرض کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تنگی ہو خواہ فراخی بہا مان جنگ کی کمی ہو یا افراط، انہیں ہر حال میں دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چنانچہ وہ فرماتا ہے: وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ (اے مومنو! اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو)۔ جہاد ایک لازم فریضہ ہے اور اس کا ثواب بھی اس قدر عظیم ہے جس کا

اموی کے حصے میں آئی۔ ہم قبل ازیں یہ روایت بھی بیان کر چکے ہیں کہ مرتدین سے جنگیں شروع ہوتے ہی انہیں شام کی سرحد پر تہاء بھیج دیا گیا تھا تا کہ رومی مسلمانوں کی مصیبت (ارتداد) سے فائدہ اٹھا کر عرب پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان دونوں روایتوں کے برعکس ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ خالد بن سعید رسول اللہ کی طرف سے یمن کے حاکم تھے اور آپ کی وفات سے ایک مہینہ بعد مدینہ پہنچے تھے مدینہ پہنچ کر وہ علیؓ اور عثمانؓ سے ملے اور کہنے لگے:

”اے بنو عبد مناف! تم نے ہنسی خوشی خلافت کی باگ ڈور

دوسروں کو کیوں سپرد کر دی حالانکہ اس پر تمہارا حق فائق تھا؟“

بعد میں جب ابو بکرؓ نے شام کی طرف اسلامی لشکر بھیجنا چاہا اور خالد بن سعید کو اس کا سپہ سالار مقرر کیا تو عمرؓ نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسے آدمی کو سالار لشکر بنا کر بھیج رہے ہیں جو قبل ازیں فساد انگیز باتیں کر چکا ہے۔

اس معاملے میں عمرؓ کا اصرار اس حد تک بڑھا کہ آخر حضرت ابو بکرؓ نے خالد بن سعید کو ہٹا کر ان کی جگہ زید بن ابوسفیان کو شامی لشکروں کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا تھا خالد بن سعید بر خود غلط اور متکبر انسان ہے۔ اس لیے اسے ایسی مہم پر بھیجنا مناسب نہ ہوگا جہاں ہر قدم پر انتہائی حزم و احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی روایتیں بھی آتی ہیں کہ خالد بن سعید کو کبھی امیر بنا کر بھیجا ہی نہیں گیا، وہ ابو عبیدہؓ بن جراح کے لشکر میں شامل تھے۔

ان تمام روایات کے برعکس ہمارا خیال وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یعنی خالد بن سعید کو شام کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تہا بھیجا گیا تھا اور وہ اپنے دسٹے کے ہمراہ وہیں مقیم رہے۔ جب ابو بکرؓ نے جہاد شام کے لیے عام تحریک فرمائی تو وہ مدینہ میں موجود نہ تھے۔ یہ تحریک انہوں نے خالد بن سعید ہی کی طرف سے یہ رپورٹ موصول ہونے

طرح ہیں کہ خالد بن ولید نے ابتدا میں جب ابھی یمن، کندہ اور حضر موت میں مرتدین سے جنگیں جاری تھیں، عراق جا کر اسلامی افواج کی قیادت سنبھالی تھی۔ خالد بن سعید کو بھی اسی زمانے میں شام بھیجا گیا تھا لیکن ان کے بھیجنے کی اصل غرض محض سرحدوں کی حفاظت تھی نہ کہ رومیوں سے جنگ چھیڑنا۔ ابو بکرؓ کو شام پر چڑھائی کرنے کا خیال یمن اور عرب کے دوسرے علاقوں میں مرتدین کے کامل استیصال، عرق میں حیرہ کی فتح اور شام کے سرحدی شہر دومتہ الجندل کی تسخیر کے بعد آیا۔

ہماری اس رائے کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ جب شام پر چڑھائی کرنے کا سوال پیدا ہوا تو ابو بکرؓ نے سب سے پہلے اہل یمن کو وہاں جانے کے لیے آمادہ کیا اور یہ اس وقت تک نہ ہو سکتا تھا جب تک وہاں سے فتنہ ارتداد کا بالکل قلع قمع نہ کر دیا جاتا۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ عکرمہ اور ذوالکلاع یمن میں امن وامان قائم کرنے کے بعد وہیں مقیم نہیں رہے بلکہ مہاجر کو ساتھ لے کر کندہ اور حضر موت میں فتنہ ارتداد کو فرو کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جب جنوبی عرب میں کلیۃً امن قائم ہو گیا اور مدینہ کو عکرمہ کی واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے اس لشکر کو چھوڑ کر، جس کے ذریعے سے انہوں نے مرتدین کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا تھا، ایک اور لشکر کی قیادت سنبھال لی جسے بدیل نے مرتب کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یمن اور جنوبی عرب کی بغاوتوں کو دبانے، یمن سے مدینہ لوٹنے اور وہاں سے شام روانہ ہونے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہے۔ اکیلا مکہ سے مدینہ تک کا راستہ اونٹوں پر دس دن سے کم میں طے نہیں ہوتا اور مدینہ سے شام کا فاصلہ ایک مہینے کی مسافت سے کسی طرح کم نہیں۔

مذکورہ بالا معاملے کی طرح اس امر میں بھی مورخین میں اختلاف ہے کہ شام پر چڑھائی کا خیال پیدا ہونے کے بعد ابو بکرؓ نے سب سے پہلے کس شخص کو امیر بنا کر وہاں بھیجا۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ یہ سعادت سب سے پہلے خالد بن سعید بن عاص

ہو گیا۔ آج فلاں شہر کی فوج نے مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کھائی اور آج فلاں فوج نے تاب مقاومت نہ لا کر راہ فرار اختیار کی۔

رومیوں کو یقین تھا کہ یتیم پر مقیم اسلامی فوج بھی چین سے بیٹھنے والی نہیں، وہ بھی اپنے بھائیوں کی تقلید میں شامی سرحد پر دست درازی کرنے سے کسی صورت باز نہ رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک نئے جوش اور ولولے سے مسلمانوں کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔

یہ دیکھ کر خالد بن سعید نے دوبارہ ابو بکرؓ کو خط لکھا۔ جس میں رومیوں کے جوش و خروش اور بہراء، کلب، تنوخ، نخم، جذام اور غسان کے قبائل کی جنگی تیاریوں کی اطلاع دیتے ہوئے شامی سرحد کے اندر پیش قدمی کی اجازت طلب کی۔ ابو بکرؓ اس وقت شام بھیجنے کے لیے فوجوں کی فراہمی میں مصروف تھے۔ انہوں نے خالدؓ کو جواباً لکھا:

”تمہاری درخواست پر تمہیں پیش قدمی کی اجازت دی جاتی ہے لیکن

حملہ کرنے میں کبھی پہل نہ کرنا اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہنا۔“

شامی فتوحات کے سلسلے میں یہ پہلے کلمات تھے جو ابو بکرؓ کے قلم سے نکلے۔



پر کی تھی کہ رومی فوجوں میں نقل و حرکت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں اور اگر دربار خلافت سے ان کی مدد کے لیے فوجیں روانہ نہ کی گئیں تو خطرہ ہے کہ مبادا رومی ان کے دستے پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیں۔

رومی بھی جنگی تیاریوں اور فوجی نقل و حرکت میں حق بجانب تھے۔ کیونکہ انہیں پیہم یہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ عراق میں مسلمان فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے ہیں اور عرب میں مسلمانوں کے خلاف مرتدین نے جو جا بجا فتنے کھڑے کیے تھے ان سب کا قلع قمع کر دیا گیا ہے۔ ان کے دلوں میں اب تک غزوہ تبوک کی یاد باقی تھی۔ جب رسول اللہؐ کثیر صحابہ کے کو ساتھ لے کر رومی سرحدوں تک پہنچ گئے تھے اور رومی سرحدوں پر بسنے والے قبائل سے معاہدات صلح کر کے مدینہ واپس چلے گئے تھے۔ اب آپ کے متبعین دوبارہ رومی سرحدوں تک پہنچ کر اسے عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔

ان حالات کو دیکھتے ہوئے رومی سلطنت نے غسانوں اور شام کی سرحد پر بسنے والے دوسرے قبائل کو ہدایت کی کہ وہ سرحد پر ایک زبردست روک بن کر کھڑے ہو جائیں اور مسلمانوں کو کسی طرح بھی شامی حدود میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دیں۔ چنانچہ ان قبائل نے کثیر فوج فراہم کر کے اسے سرحد پر جمع کر دیا۔

اب رومیوں اور مسلمانوں کی فوجیں ایک دوسرے کے بالمقابل کیل کانٹے سے لیس تیار کھڑی تھیں۔ مسلمانوں کی فوج سرحد کے اس طرف عرب کی حدود میں تھی اور غسانوں کی فوج سرحد کے اس پار شام کی حدود میں۔ دونوں فوجیں منتظر تھیں کہ کب حکم ملے اور دوسرے فریق پر دھاوا بول دیں۔

اسی دوران میں خالد بن ولید کی پے در پے فتوحات کی خبریں موصول ہو کر رومیوں کے لیے مزید پریشانی اور سراسیمگی کا باعث بن گئیں۔ آج اہل انبار نے عاجز آ کر شہر کے دروازے اسلامی لشکر کے لیے کھول دیے۔ آج عین التمر پر مسلمانوں کا تسلط

خدمت میں جلد از جلد کمک روانہ کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ کامیابی سے سفر جاری رکھ سکیں۔ ان دوران میں مدینہ سے فوجیں روانہ ہو چکی تھیں۔ ابو بکرؓ کو ان کی کامیابی کا پورا یقین تھا اور خدائی امداد پر کامل بھروسہ۔ وجہ یہ تھی کہ رومی ایرانیوں سے کسی طرح بھی بہتر نہ تھے۔ جب سے انہوں نے ایرانیوں پر غلبہ حاصل کیا تھا انہیں عیش و آرام کے سوا کوئی کام ہی نہ رہا تھا۔ سرحدوں کی حفاظت کا سارا کام انہوں نے بدوی قبائل پر چھوڑ رکھا تھا۔ یہ قبائل اگرچہ شجاعت و بہادری میں تو کسی سے پیٹے نہ تھے لیکن جنس اور زبان کے لحاظ سے جو تعلق انہیں اہل عرب سے تھا وہ رومیوں سے نہ تھا۔ شامی عرب اگرچہ عیسائی مذہب کے پیرو تھے پھر بھی ہر قل کی عیسائیت اور ان کی عیسائیت میں بڑا فرق تھا۔ شامی عرب ”ارژوذ کسی“ (آرتھوڈوکس) عقیدے کے پیرو تھے اور قیصر ”کاٹولیکی“ (کیتھولک) فرقے کا متبع۔

جب شامیوں نے دیکھا کہ قیصر کھلم کھلا مسلمانوں کے مقابلے میں آنے سے جی چر رہا ہے وہ سمجھ گئے کہ قیصر کو اپنے اہل وطن کی تباہی و بربادی کا خطرہ ہے، اس لیے وہ انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں لانے کے بجائے ہمیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے۔ اس پر شامی عیسائیوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے اور اس خیال سے کہ وہ خواہ مخواہ رومیوں کی سلطنت کے بچاؤ کی خاطر اپنی جانیں کیوں قربان کریں، انہوں نے لڑائی سے دست کشی اختیار کر لی اور خالد بن سعید کی پیش قدمی کے لیے راستہ صاف کر دیا۔

اسلامی لشکروں کی روانگی:

مورخین میں اس کے متعلق اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کون سا لشکر خالد بن سعید کی مدد کے لیے روانہ ہوا تھا؟ طبری ابن اثیر اور ابن خلدون نے اس سلسلے میں جو روایات بیان کی ہیں وہ ان روایات سے مختلف ہیں، جو اقدی، ازدی اور بلاذری نے لکھی ہیں۔ ذیل میں سب سے پہلے ہم طبری اور اس کے مذکورہ بالا ساتھیوں کی روایات کا تذکرہ کرتے ہیں اور بعد میں اقدی، ازدی اور بلاذری کی روایتیں درج کریں گے۔

عکرمہ بن ابو جہل کندہ اور حضر موت کی بغاوتوں کو فرو کر کے یمن اور مکہ کے

چود ہواں باب

فتح شام

اسلامی فوجوں کی پیش قدمی:

خالد بن سعید اپنے مختصر سے دستے اور بدوی قبائل کے ہمراہ شام کی سرحد پر تیماء میں مقیم تھے۔ ان کے مقابلے کے لیے سرحدی قبائل پر مشتمل رومیوں کا عظیم الشان لشکر سرحد کے دوسری طرف تیار کھڑا تھا لیکن اپنے سے کئی گنا فوج کو دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے اور ان کے عزم و ارادہ میں پہلے سے زیادہ پختگی آ گئی۔ جب خالد بن سعید کو ابو بکرؓ کی یہ ہدایات موصول ہوئیں تو انہوں نے فوراً اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دے دیا اور اسے لے کر شامی حدود میں داخل ہو گئے۔ رومیوں اور ان کے مددگاروں نے جو نہی اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا وہ حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ خالد بن سعید لشکر گاہ میں داخل ہوئے اور رومیوں کا چھوڑا ہوا سامان قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد ابو بکرؓ کی خدمت میں اس پہلی فتح کی اطلاع بھیجی۔ وہاں سے جواب آیا:

”آگے بڑھتے چلے جاؤ لیکن جب تک تمہارے پاس مزید فوجیں نہ

پہنچ جائیں۔ بہ طور خود دشمن پر حملہ کرنے سے پرہیز کرو۔“

چنانچہ خالد بن سعید آگے بڑھتے چلے گئے۔ بحر مراد کے مشرقی ساحل کے قریب مقام قسطل پر انہیں ایک اور رومی لشکر کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اسے بھی شکست دی اور پیش قدمی جاری رکھی۔ یہ دیکھ کر رومیوں اور اہل شام کو بہت طیش آیا۔ ان کی آتش حمیت بھڑک اٹھی اور انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔

جب خالد بن سعید نے ان کی یہ جنگی تیاریاں دیکھیں تو انہوں نے ابو بکرؓ کی

اور انہوں نے اس خیال سے کہ رومیوں پر فتح یابی کا فخر انہی کے حصے میں آئے، ولید بن عقبہ کو ساتھ لے کر رومیوں کی عظیم الشان فوج پر حملہ کرنا چاہا جس کی قیادت ان کا سپہ سالار اعظم بابان کر رہا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ جس طرح خالد بن ولید نے مٹھی بھر فوج کے ہمراہ ہرمز کو شکست دے کر عراق میں اپنا سکہ بٹھایا تھا اسی طرح وہ بھی بابان کو شکست دے کر رومیوں پر اپنا رعب قائم کر سکیں گے۔

بابان کو جب خالد بن سعید کے ارادہ کا پتا چلا تو اس نے لشکر لے کر دمشق کا رخ کیا۔ خالد اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ واقوصہ اور دمشق کے درمیان مقام ”مرج الصفر“ میں پڑاؤ ڈال کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ بابان کا پیچھے ہٹنا اصل میں ایک چال تھی اور وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر پشت سے ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی خطرے سے ابو بکرؓ نے بار بار انہیں خبردار کیا تھا لیکن کامیابی کے نشے اور فخر و مباہات کی محبت نے خالد بن سعید کے دل سے یہ بات قطعاً فراموش کر دی کہ وہ اپنی پشت کی حفاظت کا بندوبست کیے بغیر آگے نہ بڑھیں۔ جب وہ مرج الصفر کے قریب پہنچے تو بابان لشکر لے کر پلٹا اور مسلمانوں کا محاصرہ کر کے ان کی پشت کا راستہ کاٹ دیا۔ اتفاق سے اسلامی فوج کا ایک دستہ باقی لشکر سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ اس دستے میں خالد کا لڑکا سعید بھی تھا۔

بابان نے سب سے پہلے اس دستے پر حملہ کیا اور تمام لوگوں کو جن میں سعید بن خالد بھی شامل تھا قتل کر دیا۔ جب خالد بن سعید کو اپنے بیٹے کے مارے جانے کی اطلاع ملی اور اپنے آپ کو خوں خوار دشمنوں سے محصور پایا تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، انہوں نے لشکر کو عکرمہ کی سرکردگی میں چھوڑ کر چند آدمیوں کے ہمراہ راہ فرار اختیار کی اور مدینہ کے قریب ذوالمرہ وہی پہنچ کر دم لیا۔ جب ابو بکرؓ کو اس واقعے کا پتا چلا تو انہوں نے خالد کو بہت سخت خط لکھا اور انہیں مدینہ آنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنے شکست خوردہ ہمراہیوں کے ساتھ انتہائی حزن و الم کی حالت میں ذوالمرہ ہی میں مقیم رہے۔ ابو بکرؓ فرمایا کرتے تھے:

”عمرؓ اور علیؓ مجھ سے زیادہ خالد کی سرشت سے واقف تھے۔ اگر میں

ان دونوں کا کہا مانتا تو مسلمانوں کو اس شکست سے دو چار ہوتا نہ

پڑتا۔“

راستے میں پہنچے۔ اس وقت ابو بکرؓ نے انہیں خالد بن سعید کی مدد کے لیے جانے کا حکم دیا۔
 عکرمہ اپنا وہ لشکر چھوڑ چکے تھے جس کے ساتھ انہوں نے جنوبی علاقوں میں مرتدین سے
 جنگیں کی تھیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے ایک اور لشکر تیار کیا اور عکرمہ کو اس کی قیادت سپرد کر کے
 شام کی طرف روانہ کر دیا۔ اسی وجہ سے اس لشکر کا نام ”جیش بدال“ پڑ گیا۔ عکرمہ کے ساتھ
 ہی انہوں نے ذوالکلاع حمیری کو اس لشکر کا سردار بنا کر جو ان کے ساتھ یمن سے آیا تھا، شام
 روانہ ہونے کا حکم دیا تا کہ خالد بن سعید کو اطمینان رہے اور وہ پیش قدمی جاری رکھ سکیں۔

اسی زمانے میں عمرو بن عاص مرتدین سے فراغت پا کر قضاہ میں مقیم تھے۔
 ابو بکرؓ کی خواہش تھی کہ وہ بھی شام جا کر خالد بن سعید کے مدد و معاون ثابت ہوں لیکن ان کے
 کارناموں کی وجہ سے جو انہوں نے فتنہ ارتداد فرو کرنے کے سلسلے میں انجام دیئے تھے، ابو
 بکرؓ نے انہیں اختیار دیا کہ خواہ وہ قضاہ ہی میں مقیم رہیں، خواہ شام جا کر وہاں کے مسلمانوں
 کی تقویت کا باعث بنیں۔ ابو بکرؓ نے انہیں لکھا:

”اے ابو عبد اللہ! میں تمہارے سپرد ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو دین
 اور دنیا دونوں کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن تمہاری
 خودی مجھے بہر حال منظور ہے۔“
 عمرو بن عاص نے جواب میں لکھا:

”میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں اور اللہ کے بعد آپ
 اس کے تیر انداز۔ جس طرف آپ کو کوئی خطرہ نظر آئے آپ بلا تامل
 اس تیر کو چلائیے جو بہت سخت اور جگر چھلنی کرنے والا ہے۔“

ابو بکرؓ نے ولید بن عقبہ کو بھی اسی مضمون کا خط لکھا تھا۔ انہوں نے بھی جواب میں
 عمرو بن عاص کی طرح اخلاص و محبت اور ایثار کا اظہار کیا، چنانچہ ابو بکرؓ نے عمرو بن عاص کو
 فلسطین اور ولید کو اردن کا حاکم مقرر کر کے شام روانہ ہونے کا حکم دیا۔

تعمیل حکم میں دونوں صاحب شام روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے ولید بن عقبہ
 خالد بن سعید کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اہل مدینہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے بے
 تاب ہیں اور ابو بکرؓ کو جس بھیجنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ سن کر خالدؓ کی خوشی کی انتہا نہ رہی

جہاد کرنے والوں کو بہت بڑے اجر اور ثواب کی خوش خبری دی گئی ہے لیکن کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس ثواب کو صرف اپنے لیے مخصوص کرنا چاہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک تجارت ہے جسے اللہ نے مومنوں کے لیے جاری فرمایا ہے۔ جو شخص اسے اختیار کرتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچا لیتا ہے اور دونوں جہان کی عزت بخشا ہے۔“

یزید بن ابی سفیان کی روانگی کے وقت انہوں نے جو نصائح فرمائیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے فرمایا:

اپنے لشکر کے ساتھ اچھی طرح رہنا۔ ان سے عمدہ سلوک کرنا۔ انہیں نصیحت کرتے وقت اختصار سے کام لینا کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے بعض حصے بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، اس طرح لوگ بھلائی سے پیش آئیں گے۔ دشمن کے ایلچیوں کی عزت کرنا اور انہیں زیادہ دیر پاس نہ بٹھانا کہ جب وہ تمہارے لشکر سے باہر نکلیں تو انہیں جنگی رازوں کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو لشکر کے سب سے شاندار حصے میں انہیں ٹھہرانا۔ اپنا بھید چھپانا تاکہ تمہارا نظام درہم برہم نہ ہو جائے۔ ہمیشہ سچی بات کہنا تاکہ صحیح مشورہ ملے۔ راتوں کو اپنے رفیقوں کے ساتھ بیٹھنا، اس طرح تمہیں ہر قسم کی خبریں مل سکیں گی۔ لشکر میں پہرے کا انتظام کرنا اور پہرے والے سپاہیوں کو سارے لشکر میں پھیلا دینا۔ اکثر ان کا اچانک معائنہ بھی کرنا۔ اگر کسی ایسے شخص کو سزا دو جو اس کا مستحق ہو تو اس میں کسی قسم کا خوف دل میں نہ لانا۔ مخلص اور وفادار رفیقوں سے میل جول رکھنا۔ جن سے ملو اخلاص سے ملنا، بزدلی نہ دکھانا کیونکہ اس طرح دوسرے لوگ بھی بزدلی کا اظہار کرنے لگیں گے۔“

خالد بن سعید کے فرار کے باوجود ابو بکرؓ کے عزم و حوصلہ میں مطلق فرق نہ آیا۔ جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ عکرمہ بن ابو جہل اور ذوالکلاع حمیری اسلامی لشکر کو رومیوں کے چنگل سے بچا کر واپس شام کی سرحد پر لے آئے ہیں اور وہاں مدد کے منتظر ہیں تو ابو بکرؓ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمک بھیجنے کا انتظام شروع کر دیا۔

شرحبیل بن حسنہ عراق میں خالد بن ولید کے ساتھ تھے اور اس زمانے میں قیدی اور مال غنیمت لے کر مدینہ آئے ہوئے تھے۔ ابو بکرؓ نے انہیں ولید بن عقبہ کی جگہ شام جانے کا حکم دیا۔ ولید بن عقبہ بھی ان ہزیمت خوردہ لوگوں میں شامل تھے جو خالد بن سعید کے ہمراہ شام سے فرار ہو کر ذوالرودہ میں مقیم تھے۔ شرحبیل نے ابن سعید اور ابن عقبہ کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں لے کر عکرمہ کے پاس روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ابو بکرؓ نے ایک اور بھاری لشکر جمع کیا جس میں اکثریت مکہ والوں کی تھی۔ اس لشکر کا سردار انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو بنایا اور انہیں شام روانہ ہونے کا حکم دیا۔ یزید کے پیچھے انہوں نے خالد بن سعید کے بقیہ لشکر پر ان کے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو امیر بنا کر اسے بھی شام بھیجا۔ اسی پر بس نہ کیا بلکہ ابو عبیدہ بن جراح کو بھی حمص کا والی بنا کر ایک بھاری لشکر کے ہمراہ شام کی طرف کوچ کا حکم دیا۔

یہ تمام لشکر جرف میں جا کر خیمہ زن ہوتے تھے۔ جب کبھی کسی لشکر کی روانگی کا وقت آتا تو ابو بکرؓ خود شہر سے باہر تشریف لے جاتے اور سالار لشکر کو یہ نصائح فرما کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے:

”یاد رکھو ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جس نے اس مقصد کو پالیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو شخص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ خود اس کا کفیل ہو جاتا ہے۔ تمہیں کوشش اور جدوجہد سے کام لینا چاہیے کیونکہ جدوجہد کے بغیر کوئی کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھو جس شخص میں ایمان نہیں وہ مسلمان کہلانے کا بھی مستحق نہیں۔ جو کام ثواب کی خاطر نہ کیا جائے اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ملتا۔ جس کام میں نیک نیتی شامل نہیں وہ کام ہی نہیں۔ کتاب اللہ میں اللہ کی خاطر

عراق میں اسلامی فوجوں کی کامیابی کے بعد ابو بکرؓ نے شام کی جانب تیزی سے فوجیں بھیجنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ اگر ابو بکرؓ خالد بن سعید کی شکست سے بددل ہو کر شام پر توجہ مبذول کرنا چھوڑ دیتے اور وہاں سے اپنی فوج واپس بلا لیتے تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکلتا۔ اس طرح نہ صرف عراق کی تمام فتوحات اکارت چلی جاتیں بلکہ الثارومی، سرزمین عرب میں یلغار شروع کر دیتے اور اسلام ایران و روم کی عظیم الشان طاقتوں کے درمیان پس کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا۔ لیکن ابو بکرؓ کے عہد مبارک میں یہ کس طرح ہو سکتا تھا؟

ابو بکرؓ کے احکام کے مطابق امراء عسا کرنے شام پہنچنا شروع کیا، البتہ عمرو بن عاص اپنے لشکر کے ہمراہ عربہ میں مقیم رہے۔ ابو عبیدہ سرزمین بلقاء کو عبور کر کے جابیہ پہنچ گئے۔ راستے میں انہیں شامی عربوں کی جانب سے کچھ مزاحمت پیش آئی لیکن انہیں شکست دے دی گئی۔ شرجیل اردن پہنچے اور یزید بن ابی سفیان نے بلقاء میں پڑاؤ ڈالا۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ دشن کے مقام پر انہیں رومیوں اور بدوؤں کی ایک فوج کا سامنا کرنا پڑا لیکن لڑائی کے بعد رومیوں کو شکست فاش اٹھانی پڑی۔

اس جگہ پہنچ کر روایات میں باہم اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کو فلسطین کے جنوب میں قابل ذکر مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بے روک ٹوک منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ لیکن بعض روایات اس کے خلاف ہیں۔ ان روایات کا تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک اسلامی لشکر عکرمہ کے پاس نہ پہنچ گئے اس وقت تک رومیوں نے ان کا باضابطہ مقابلہ نہ کیا اور نہ باقاعدہ فوجیں ان کے مقابلے کے لیے ہی لائے بلکہ یہ کام بادیہ نشین لوگوں کے سپرد رہا جنہوں نے مختلف مقامات پر مسلمانوں کی مزاحمت کی لیکن معمولی لڑائیوں کے بعد پسپا ہوتے گئے۔ فلسطین کی جنوبی جانب رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو معرکہ ہوئے وہ بعد میں عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں پیش آئے۔

لیکن روایات کا اختلاف اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کے مختلف لشکر عکرمہ کے لشکر کے قرب وجوار میں پہنچ جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے دمشق کے راستے میں پڑاؤ

ان لشکروں کو روانہ کر کے ابو بکرؓ نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں کامل امید تھی کہ اللہ ان فوجوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو رومیوں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ ان میں ایک ہزار سے زیادہ مہاجر اور انصار صحابہ شامل تھے جنہوں نے ہر موقع پر انتہائی وفاداری کا ثبوت دیا تھا اور ابتدائے اسلام میں رسول اللہؐ کے دوش بدوش لڑائیوں میں حصہ لیا تھا۔ ان میں وہ اہل بدر بھی شامل تھے جن کے متعلق آپؐ نے اپنے رب کے حضور یہ التجا کی تھی:

”اے اللہ! اگر آج تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو آئندہ پھر کبھی زمین پر تیری پرستش نہ کی جائے گی۔“

یہی وہ لوگ تھے جن کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے اور جن کے متعلق یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں:

کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين۔
(کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے اذن سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔)

جس لشکر کے ہمراہ خالد بن ولیدؓ نے عراق پر چڑھائی کی تھی اور جس کے ذریعے سے انہوں نے سلطنت ایران کو پارہ پارہ کر دیا تھا اس میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی جنہوں نے جنگ یمامہ میں شرکت کی تھی۔ زیادہ تر تعداد بحرین اور عمان کے ان لوگوں کی تھی جو بدستور اسلام پر قائم تھے اور جنہوں نے مرتدین کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ کیا ان لوگوں کو بہادری شجاعت اور اخلاص و محبت میں بدر، احد اور حنین کی جنگوں میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کے برابر قرار دیا جاسکتا ہے جنہوں نے ہر موقع پر رسول اللہؐ کی مدد اور حفاظت کی؟ اسی طرح کیا ان لوگوں کو مکہ، مدینہ اور طائف کے ان عظیم شہسواروں کے ہم پلہ قرار دیا جاسکتا ہے جن کا کام ہی ہر وقت ستیزہ کاری میں مصروف رہنا اور اپنی تلواروں کے جوہر عالم پر آشکارا کرتے رہنا تھا؟ اس لیے اگر خالد بن ولیدؓ جنوبی عرب کے کمزور اور بے حقیقت باشندوں کے ذریعے سے حکومت ایران پر غالب آسکتے تھے تو کیا عکرمہ، ابو عبیدہ، عمرو بن عاصؓ اور یزید بن ابی سفیانؓ مکہ اور مدینہ کے مشہور بہادروں کے ذریعے سے رومی سلطنت کا قلع قمع نہ کر سکتے تھے؟

بالمقابل فیکا بن فسطوس کا لشکر تھا جس کی تعداد ساٹھ ہزار تھی۔ یزید بن ابی سفیان سے لڑائی کے لیے چرچہ بن تدار کو بھیجا گیا تھا۔ ہر قل خود حمص میں مقیم تھا اور تمام حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ پل پل کی خبریں اسے مل رہی تھیں اور اس کی تمام تر کوشش سلطنت کو عربوں کے قبضے میں جانے سے بچانے پر صرف ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی تذارق کو اس عظیم مہم پر مامور کیا تھا۔ تذارق ہی نے اس سے قبل ایرانیوں کے لشکر جرار کو شکست دی تھی۔ اسی تذارق کے ذریعے سے عربوں کو نیست و نابود کرنے اور انہیں ایسا سبق دینے کا تہیہ کیا جا رہا تھا جسے وہ عمر بھر فراموش نہ کر سکیں۔

رومیوں کی عظیم الشان افواج کو دیکھ کر مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے عمرو بن عاص کے پاس قاصد بھیج کر ان کی رائے طلب کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری رائے میں اس نازک ترین موقع پر دشمن سے علیحدہ علیحدہ جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے کسی طرح بھی سودمند نہ ہوگا اس لیے تمام اسلامی فوجوں کو یکجا ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یکجا ہو گئے تو دشمن کثرت تعداد کے باوجود ہمارے مقابلے پر نہ ٹھہر سکے گا لیکن اگر ہم اپنی موجودہ صورت پر قائم رہے تو ہماری کوئی بھی فوج دشمن کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے گی اور بہت جلد شکست کھا جائے گی۔

دربار خلافت سے بھی وہی مشورہ موصول ہوا۔ جو عمرو بن عاص نے دیا تھا۔ ابو بکرؓ نے اپنے سپہ سالاروں کو لکھا:

”اٹھو ہو کر ایک لشکر کی شکل اختیار کر لو اور متحد ہو کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو۔ تم اللہ کے مددگار ہو۔ جو شخص اللہ کا مددگار ہوگا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا لیکن جو اس کا انکار کرے گا اور ناشکری کا ثبوت دے گا اللہ بھی اسے چھوڑ دے گا..... گناہوں سے یکسر اجتناب کرو۔ اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔“

چاروں اسلامی لشکروں نے ان مشوروں کے تحت یکجا ہو کر دمشق کے راستے میں یرموک کے بائیں کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ تذارق نے یہ دیکھا تو اپنی پوری طاقت در کے دائیں کنارے پر لا کر جمع کر دی۔

ڈالا۔ شرجیل نے طبریہ اور دریائے اردن کی بالائی جانب غور کے قریب ایک سطح مرتفع میں قیام کیا۔ یزید نے بلقاء میں بصرہ کا محاصرہ کر لیا اور عمرو بن عاص نے عربہ میں جبرون کو فتح کرنے کی مساعی شروع کر دیں۔

یرموک۔ رومی فوجوں کی چڑھائی:

ابتداء میں رومیوں نے مسلمانوں کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح محمد تبوک تک آ کر واپس چلے گئے تھے۔ اسی طرح اب بھی تھوڑی بہت ترکتازیوں کے بعد عرب آخر واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ جب خالد بن سعید نے رومیوں کے مقابلے میں شکست کھائی اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی تو رومیوں کے اس یقین میں اور بھی پختگی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے ان خبروں کو بھی زیادہ اہمیت نہ دی کہ عکرمہ کی مدد کے لیے مسلمانوں کی فوجیں دم بہ دم شام کی سرحد کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ان فوجوں کا حشر بھی خالد بن سعید کے لشکر جیسا ہوگا۔ لیکن جب اسلامی فوجیں مجتمع ہونے لگیں جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے تو رومی خواب غفلت سے جاگے اور انہیں حالات کی نزاکت کا احساس ہوا۔ ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر انہوں نے پوری قوت سے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا تو عراق کے حالات یہاں بھی پیش آئیں گے اور سارا شام مسلمانوں کے قبضے میں چلا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر قل نے ہر اسلامی لشکر کے مقابلے کے لیے زبردست فوجیں روانہ کیں تاکہ ان پر علیحدہ علیحدہ حملہ کر کے ان کی قوت و طاقت کو نابود کیا جاسکے اور انہیں ہمیشہ کے لیے سرزمین شام سے نکال دیا جائے۔

مختلف روایات سے پتا چلتا ہے کہ اس موقع پر مسلمان فوجوں کی کل تعداد تیس ہزار کے لگ بھگ تھی لیکن ان کے مقابلے میں رومی افواج دو لاکھ چالیس ہزار افراد پر مشتمل تھیں۔ عکرمہ کے لشکر کی تعداد چھ ہزار تھی اور ابو عبیدہ، یزید اور عمرو بن عاص کے لشکروں میں سے ہر ایک کی تعداد سات اور آٹھ ہزار کے درمیان تھی۔

رومی افواج میں سب سے بڑا لشکر ہر قل کے بھائی تذارق (تیودوریک) کا تھا جو نوے ہزار سپاہ پر مشتمل تھا۔ یہ لشکر عمرو بن عاص کے بالمقابل صف آرا تھا۔ ابو عبیدہ کے

ان سے کسی طرح بھی عہدہ برآ نہ ہو سکیں گے۔ انہوں نے اس معاملے پر خوب غور و فکر کیا۔ عمرؓ غلیٰ اور مدینہ میں مقیم دیگر اہل الرائے اصحاب سے مشورہ لیا۔ اسی غور و فکر کے دوران میں ان پر اصل حقیقت واضح طور پر منکشف ہو گئی۔

مسلمانوں نے کبھی کثرت تعداد کے بل بوتے پر دشمن کو نیچا نہ دکھایا تھا۔ اعلیٰ قیادت اور ایمانی قوت، یہ دو سبب تھے جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی سے ہم کنار کیا۔ جہاں تک ایمانی قوت کا سوال تھا وہ شامی لشکروں میں کسی طرح بھی کم نہ تھی کیونکہ ان میں سابقون الاولون اور رسول اللہؐ کے جلیل القدر صحابہ شامل تھے اور وہ اہل بدر تھے جن کے ہاتھوں فتح مکہ عمل میں آئی اور مرتدین کا خوفناک فتنہ انجام کو پہنچا۔ اس لیے خرابی لازماً قیادت میں تھی۔ رومیوں سے مقابلے کے لیے ایسے قائد کی ضرورت تھی جو نڈر اور بے باک ہو، نرمی سے نا آشنا ہو، لڑائی میں کسی بھی موقع پر اس کا قدم پیچھے ہٹنے والا نہ ہو، موت کا خوف اس کے پاس بھی نہ پھٹکتا ہو۔ ادھر جب ابو بکرؓ اپنے قائدین پر نظر ڈالتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ ابو عبیدہ باوجود کامیاب جرنیل ہونے کے نرم دل ہیں، عمرو بن عاص انتہائی عقل مند ہونے کے باوجود میدان جنگ کے شہسوار نہیں۔ عکرمہ میدان جنگ کے شہسوار تو ہیں لیکن ان میں پیش آمدہ امور کا صحیح اندازہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ ان تمام سالاروں کو اب تک بڑی بڑی جنگوں سے واسطہ نہ پڑا تھا مزید برآں ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی برتری تسلیم کرنے اور ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔

یہ حقیقت ابو بکرؓ پر منکشف ہوتے ہی معاً ان کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو ان تمام صفات سے کاملاً بہرہ ور تھا جو ایک عظیم سپہ سالار میں ہونی چاہئیں اور وہ شخص تھا خالد بن ولید۔ یہ خیال آتے ہی ابو بکرؓ نے انہیں شام بھیجنے کا ارادہ کر لیا اور ساتھیوں سے فرمایا:

”واللہ! میں خالدؓ کے ذریعے سے رومیوں کے دلوں میں کوئی بھی

شیطانی وسوسہ نہ رہنے دوں گا۔“

خالدؓ کی روانگی شام:

کسی بھی شخص نے ابو بکرؓ کی رائے سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہ سمجھی کیونکہ

دریائے یرموک حوران کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور مختلف پہاڑیوں کے درمیان بڑی تیزی سے گزرتا ہوا خور اردن اور بحر مردار میں جا گرتا ہے۔ دریائے یرموک اور دریائے اردن کے مقام اتصال سے تیس چالیس میل اوپر دریائے یرموک ایک طویل و عریض میدان کے گرد چکر کاٹتا ہے جسے تین اطراف سے اونچی اونچی پہاڑیاں گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ میدان اس قدر وسیع ہے کہ اس میں ایک عظیم الشان فوج آسانی سے خیمہ زن ہو سکتی ہے۔ رومیوں نے یہ جگہ پسند کی اور وہاں ڈیرے ڈال دیئے۔ لیکن اس کے انتخاب میں رومیوں سے سخت غلطی ہوئی۔ یہ میدان وسیع تو بے شک تھا لیکن تین طرفوں سے پہاڑیوں میں محصور ہونے کے باعث باہر نکلنے کا صرف ایک راستہ تھا جس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور رومی بالکل گھیرے میں آ گئے۔ عمرو بن عاص نے یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے:

”مسلمانو! تمہیں خوش خبری ہو۔ رومی گھیرے میں آ چکے ہیں اور محصور فوج محاصرہ کرنے والی فوج کے چنگل سے شاذ و نادر ہی بچتی ہے۔“

اب صورتحال یہ تھی کہ نہ رومی اپنی طاقت و قوت اور تعداد کے بل بوتے پر مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے اور نہ مسلمان اس قدرتی امداد کے باوجود رومیوں پر غلبہ حاصل کر سکتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے باہر نکلنے کے راستے پر قبضہ کیے بیٹھے تھے۔ جب رومی اس راستے سے باہر آنے کی کوشش کرتے تو مسلمان انہیں مار مار کر پیچھے ہٹا دیتے اور جب مسلمان رومیوں پر حملہ کرتے تو یہ خیال کر کے بہت جلد واپس اپنی جگہوں پر آ جاتے مبادا رومی ان کی قلت تعداد کے باعث ان کا محاصرہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیں۔ اس طرح دو مہینے گزر گئے اور کوئی فریق دوسرے پر غلبہ حاصل نہ کر سکا۔ آخر مسلمانوں نے ابو بکرؓ کو یہ تمام حالات لکھے اور ان سے مدد بھیجنے کی درخواست کی کہ لمبا عرصہ گزر جانے پر لشکر بد دل نہ ہو جائے اور جوش و خروش ختم ہو کر طاقت و قوت میں کمزوری کا باعث نہ بنے۔

ابو بکرؓ شامی لشکروں کے امراء سے زیادہ بے چین تھے۔ ان کے گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ ابو عبیدہؓ اور ان کے ساتھی یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ ان اہل بدر کے متعلق، جنہوں نے قلت تعداد کے باوجود اہل مکہ کے کثیر العدد لشکر کو شکست فاش دی تھی ابو بکرؓ کو یہ خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ رومیوں کے مقابلے میں اس قدر عاجز آ جائیں گے کہ

حرکت (خفیہ حج) تم سے صادر ہوئی ہے آئندہ کبھی سرزد نہ ہو۔ اس طرح وہ انہیں تنبیہ کرتے چاہتے تھے کہ ان کا اولین فرض خلیفہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہے اور انہیں کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو خلیفہ کی مرضی یا احکام کے خلاف ہو۔

گمان غالب ہے چونکہ ابوبکرؓ کو خالدؓ کی طرف سے ناراضگی کا اندیشہ تھا اس لیے انہوں نے خط میں جہاں ان کی بہادری اور ان کے کارناموں کی تعریف کی وہاں انہیں عجب و تکبر اور فخر و غرور سے بچنے کی تلقین بھی کر دی اور واشگاف الفاظ میں یہ حقیقت ظاہر کر دی کہ فضل و کرم کرنے والا صرف اللہ ہے، کسی بندے کی مجال نہیں کہ وہ اپنی طاقت و قوت کے بل بوتے پر فتوحات حاصل کر سکے۔

لیکن ابوبکرؓ نے خالدؓ کے دل میں پیدا شدہ شکوک و شبہات کو بھی صاف کر دینا چاہا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ نصف فوج ثنی بن حارثہ کے زیر سرکردگی عراق میں چھوڑ دیں اور بقیہ نصف فوج لے کر خود شام روانہ ہو جائیں۔ خط کے آخر میں لکھا:

”جب اللہ تمہیں شام میں فتح نصیب کرے تو اس فوج کو ہمراہ لے کر

عراق چلے جانا اور وہاں اپنا پہلا عہدہ دوبارہ سنبھال لینا۔“

اس طرح ابوبکرؓ نے خالدؓ پر واضح کر دیا کہ انہیں عراق میں عمرؓ یا کسی اور شخص کے آنے کی پروا نہ کرنی چاہیے کیونکہ ان کے قائم مقام ثنی بن حارثہ ہوں گے اور شام کی فتح کے بعد انہیں عراق میں ان کا پہلا عہدہ دوبارہ تفویض کر دیا جائے گا۔

خالدؓ کو اس بارے میں کوئی شک نہ تھا کہ اللہ انہیں شام میں فتوحات جلیلہ سے نوازے گا۔ اگرچہ انہیں وہاں کی تمام خبریں مل رہی تھیں لیکن وہ مطمئن تھے۔ ان کا دل اس یقین سے بھر پور تھا کہ وہ سیف اللہ ہیں اور اللہ کی تلوار بندوں کے ہاتھوں کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انہوں نے ابوبکرؓ کے حکم کے مطابق شام روانہ ہونے کی تیاریاں شروع کر دیں۔

چونکہ خالدؓ کو شام میں پیش آنے والے حالات کا بہ خوبی اندازہ تھا اس لیے انہوں نے تمام صحابہ کو ساتھ لے جانا چاہا۔ ابوبکرؓ نے انہیں آدھی فوج ثنی کے پاس چھوڑ جانے کی ہدایت کی تھی۔ اس لیے انہوں نے فوج کی تقسیم اس طرح کی کہ تمام صحابہ تو اپنی فوج میں

شام کے معاملات اب اس نہج کو پہنچ چکے تھے کہ مزید التوا مسلمان افواج کے لیے سخت نقصان کا موجب ہوتا۔ سب لوگ خالد بن ولید کو شام بھیجنے پر رضامند ہو گئے یہ وہ زمانہ تھا جب خالد خفیفہ حج کر کے عراق واپس پہنچ چکے تھے۔ ابو بکرؓ نے خالدؓ کو یہ خط ارسال فرمایا:

”تم یہاں سے روانہ ہو کر یرموک میں مسلمانوں کی افواج سے مل جاؤ کیونکہ وہاں وہ دشمن کے زرعے میں گھر گئے ہیں۔ یہ حرکت (خفیفہ حج) جو تم نے کی ہے آئندہ کبھی سرزد نہ ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ تمہارے سامنے دشمن کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور تم مسلمانوں کو دشمن کے زرعے سے صاف بچا لاتے ہو۔ اے ابوسلیمان! میں تمہیں تمہارے خلوص اور خوش قسمتی پر مبارک باد دیتا ہوں۔ اس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ تمہارے دل میں غرور نہ پیدا ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کا انجام نقصان اور رسوائی ہے۔ اپنے کسی فعل پر نازاں نہ ہونا۔ فضل و کرم کرنے والا صرف اللہ ہے اور وہی اعمال کا صلہ دیتا ہے۔“

خالدؓ اس وقت عراق سے جانا نہ چاہتے تھے۔ وہ عراق میں اس وقت تک مقیم رہنے کے خواہاں تھے جب تک ایرانیوں کا دارالحکومت ان کے ہاتھ پر فتح اور کسریٰ شاہ ایران کا تخت و تاج پاش پاش نہ ہو جاتا۔ ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی دشوار امر نہ تھا کیونکہ ایرانی عساکر خالدؓ کے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے ہر میدان سے بھاگ رہے تھے۔ ان کی قوت و طاقت ختم ہو چکی تھی اور ایک ہلے میں ان کی سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جاسکتا تھا۔ فتح مدائن کا فخر معمولی فخر نہ تھا۔ یہ وہ عظیم الشان اعزاز تھا۔ جس کے حصول کی تمنا قیصر و روم جیسے بادشاہ کے دل کو بھی بے چین کیے رکھتی تھی۔

ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں جب خالدؓ کے پاس عراق کو چھوڑ کر شام جانے کا حکم پہنچا ہوگا تو ان کے دل میں ضرور انقباس پیدا ہوا ہوگا۔

ابو بکرؓ بھی جانتے تھے کہ خالدؓ کے دل میں ضرور یہ خیالات گردش کریں گے اور ان کا اثر ان کے کاموں پر پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنے خط میں یہ فقرہ لکھ دیا تھا کہ جو

صورت یہ بھی تھی کہ خالد بن ولید عراق سے عرب پہنچتے اور وہاں سے شام جانے والا عام راستہ اختیار کرتے جس سے قبل ازیں عکرمہؓ ابو عبیدہؓ اور دوسرے اسلامی سپہ سالار گزر کر شام پہنچے تھے۔ لیکن اس طرح بے حد دیر ہو جاتی اور جس مقصد کے لیے انہیں شام جانے کا حکم دیا گیا تھا وہ فوت ہو جاتا۔ اب خالدؓ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ شام جانے کے لیے ایسا کون سا راستہ اختیار کیا جائے جس میں نہ تو دشمن سے مدد بھیڑ کا خطرہ ہو اور نہ ساتھیوں تک پہنچنے میں دیر لگے۔ بہ ظاہر کوئی ایسی تدبیر نظر نہ آتی تھی اور یہی دکھائی دیتا تھا کہ یا تو خوف ناک صحرا سے گزر کر اور صحرا کے دشمن قبائل سے دو دو ہاتھ کر کے ساتھیوں تک رسائی حاصل کرنی ہوگی یا ایک طویل راستہ اختیار کر کے شام پہنچنا ہوگا۔

آخر یہاں بھی اللہ کی نصرت آڑے آئی۔ قدرت کی جانب سے ایک عجیب و غریب راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی۔ ان کے ساتھیوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اس راستے سے گزرنا کیونکر ممکن ہوگا لیکن خالدؓ کا ارادہ اٹل تھا اور ساتھیوں کو مجبوراً انہیں کی بات ماننی پڑی۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خالدؓ نے وہ صحرائی راستہ اختیار کرنا مناسب نہ سمجھا جو عین التمر سے شروع ہو کر شمالی شام پہنچتا تھا۔ اس راستے کی مسافت اگرچہ دوسرے راستوں کی نسبت کم تھی لیکن درمیان میں چونکہ رومیوں کے حامی قبائل آباد تھے اور قیصر کی فوجیں بھی اس جگہ ڈیرے ڈالے پڑی تھیں اس لیے تصادم کے خطرے سے بچنے کے لیے خالدؓ نے یہ راستہ ترک کر دیا اور وہ راستہ اختیار کیا جو اس سے قبل عیاض بن غنم کی امداد کے لیے حیرہ سے دومۃ الجندل جانے کے لیے اختیار کیا تھا۔

وہ لشکر لے کر پہلے دومۃ الجندل پہنچے اور دومۃ سے یرموک پہنچنے کے لیے وادی سرحان کا راستہ اختیار کیا۔ درمیان میں قراقر کی بستی پڑتی تھی جہاں بنو کلب کے بعض قبائل آباد تھے۔ انہوں نے بستی پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اگر وہ وادی سرحان کے معروف راستے ہی پر سفر کرتے رہتے تو چند روز میں بصری پہنچ جاتے اور وہاں ابو عبیدہؓ کا لشکر ساتھ لے کر یرموک میں اسلامی افواج سے مل جاتے لیکن ان کا خیال تھا کہ بصری پہنچنے سے پہلے ہی رومی ان کا راستہ روکنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح انہیں یرموک پہنچنے میں دیر ہو

رکھے اور مثنیٰ کے لیے صحابہ کرام کی تعداد کے برابر ایسے لوگ چھوڑ دیئے جنہیں رسول اللہؐ کی مصاحبت نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد باقی فوج کا جائزہ لے کر ایسے لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا جو وفود کی صورت میں آپؐ کے پاس آئے تھے اور ان لوگوں کی تعداد کے مساوی ایسے لوگوں کو مثنیٰ کے لیے چھوڑ دیا جو اپنے اپنے قبیلوں میں مقیم رہے تھے اور رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو لوگ بچ گئے انہیں نصف نصف تقسیم کر لیا۔ مثنیٰ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور انہوں نے خالدؓ سے کہا:

”واللہ! میں تو آپ کو ابو بکرؓ کے حکم سے سر مو انحراف نہ کرنے دوں گا۔ ان کے حکم کے مطابق آدھے صحابہ میرے پاس رہنے چاہئیں اور آدھے آپ کے پاس۔ آپ کیوں مجھے ان سے محروم کرتے ہیں حالانکہ میری فتوحات کا انحصار ہی صحابہ پر ہے؟“

جب خالدؓ نے مثنیٰ کا اصرار دیکھا تو ان کی منت سماجت کر کے جلیل القدر اور بہادر صحابہ کو اپنے ساتھ رکھنے پر رضامند کر لیا۔

چونکہ خالدؓ کو ڈر تھا کہ ان کے جانے کے بعد کہیں مسلمانوں پر کوئی مصیبت نہ آ پڑے اس لیے انہوں نے کمزور مردوں اور عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ایرانی مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو بھی ان کی عورتوں اور بچوں کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ ان تمام امور سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ لشکر کے ہمراہ شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ مثنیٰ بھی ایک دستہ فوج کے ہمراہ صحرا تک انہیں رخصت کرنے گئے۔

عراق سے شام جانے کے لیے قریب ترین راستہ ایک لقمہ و دق صحرا سے ہو کر گزرتا تھا۔ لیکن اول تو یہ صحرا بڑا خوفناک اور سخت دشوار گزار تھا، اسے عبور کرنا بڑے دل گردے کا کام تھا اور ہوشیار سے ہوشیار رہ کر بھی اس میں راستہ بھولنے کا خوف لاحق رہتا تھا۔ دوسرے اگر بہ ہزار دقت و دشواری اسے عبور کر بھی لیا جاتا تو بھی بقیہ راستہ آسانی سے کاٹنا ناممکن تھا کیونکہ شام کی سرحد پر بسنے والے تمام عربی قبائل رومیوں کے مددگار تھے۔ قیصر کا ایک لشکر بھی وہاں مقیم تھا جو بہت آسانی سے اسلامی لشکر کا راستہ قطع کر سکتا تھا۔ ایک

اور وہ بھی بے خوف و خطر نہیں۔ پوری پانچ راتوں کا سفر ہے۔ راستے سے بھٹکنے کے خوف کے علاوہ پانی کا بھی کہیں نام و نشان نہیں۔“
خالدؓ نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور فرمایا:

”خواہ کچھ ہو جائے، مجھے تو اسی راستے سے جانا ہے۔ تم بتاؤ اس راستے سے چلنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے جائیں؟“
رافع نے کہا:

”اگر آپ ضرور اسی راستے سے جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو حکم دیجئے کہ وہ بہت سا پانی ساتھ لے لیں اور جس جس سے ہو سکے اپنی اونٹنی کو پانی پلا کر اس کا ہونٹ باندھ دے۔ کیونکہ یہ سفر بے انتہا خطرات کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ بیس اونٹنیاں بڑی موٹی تازی اور عمر رسیدہ مجھے مہیا کی جائیں۔“

خالدؓ نے رافع کی اس خواہش کے مطابق اونٹنیاں مہیا کر دیں۔ رافع نے پہلے انہیں خوب پیسا سا رکھا۔ جب پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئیں تو انہیں خوب پانی پلایا۔ جب وہ خوب سیر ہو گئیں تو ان کے ہونٹ چھید کر باندھ دیئے تاکہ جگالی وغیرہ نہ کر سکیں۔ اس کے بعد خالدؓ سے کہا کہ اب فوج کو کوچ کا حکم دیجئے۔ خالدؓ شکر اور ساز و سامان لے کر اس کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ جہاں کہیں پڑاؤ کرتے ان میں سے چار اونٹنیوں کے پیٹ چاک کرتے۔ جو پانی ان کے معدوں سے نکلتا وہ گھوڑوں کو پلا دیتے اور جو پانی ساتھ لائے تھے وہ خود پیتے۔

جب صحراء میں سفر کا آخری دن آیا تو خالدؓ نے رافع سے جسے آشوب چشم کی شکایت تھی، کہا کہ پانی ختم ہو چکا ہے، اب کیا کرنا چاہیے۔ رافع نے جواب دیا:

”گھبرا ئے نہیں۔ ہم انشاء اللہ جلد پانی تک پہنچ جائیں گے۔“

تھوڑی دیر آگے چل کر جب فوج دو ٹیلوں کے پاس پہنچی تو رافع نے لوگوں سے

کہا:

”دیکھو! عوج کی کوئی جھاڑی آدمی کے سرین کی مانند نظر آتی ہے؟“

جائے گی۔ اس اندیشے کے پیش نظر انہوں نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم رومیوں کے عقب میں پہنچ جائیں اور کسی رومی لشکر سے مقابلہ بھی نہ کرنا پڑے کیونکہ اگر راستے میں رومیوں سے ٹکھٹھو گئی تو ہم دیر سے یرموک پہنچیں گے۔ سب نے بالاتفاق جواب دیا کہ ایسا راستہ ہے تو ضرور لیکن اس سے لشکر کسی طرح نہیں گزر سکتا، صرف اکیلا آدمی گزر سکتا ہے۔ اس لیے آپ وہ راستہ اختیار کر کے مسلمانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ لیکن خالدؓ وہی راستہ اختیار کرنے کا عزم کر چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا:

”تم نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پیش کیا ہے، اب تمہارا قدم پیچھے ہٹنے اور یقین کم ہونے نہ پائے۔ یاد رکھو تائید الہی کا مدار نیت ہی پر ہوتا ہے اور اجر نیکی ہی کے مطابق ملتا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ کی نصرت سے بہرہ ور ہوتے ہوئے مشکلات سے ڈر جائے اور ہمت ہار دے۔“

جب ساتھیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کا خوف و ہراس جاتا رہا اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے ان کے آگے سر تسلیم ختم کر دیا:

”اللہ نے آپ کی ذات میں ہر قسم کی خیر و برکت جمع کر دی ہے۔ اس لیے آپ بے کھٹکے اپنے ارادوں کو لباس عمل پہنائیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔“

انہوں نے مجوزہ راستے پر سفر کرنے کے لیے رہبر طلب فرمایا۔ لوگوں نے رافع بن عمیرۃ الطائیؓ کا نام لیا۔ انہوں نے اسے بلا کر کہا:

”ہم اس راستے سے سفر کرنا چاہتے ہیں، تم ہماری رہبری کے فرائض انجام دو۔“

اس نے جواب دیا:

”آپ گھوڑوں اور اتنے سیار و سامان کے ساتھ اس راستے سے نہیں گزر سکتے۔ وہ راستہ ایسا ہے کہ اس سے صرف ایک سوار گزر سکتا ہے

پر جمع ہو گئیں۔

یہ ہے وہ روایت جو خالدؓ کے سفر شام سے متعلق بالعموم کتب تاریخ میں پائی جاتی ہے۔ باذی النظر میں یہ روایت ان افسانوں سے زیادہ مختلف نہیں جو عموماً بڑے بڑے لوگوں کے متعلق گھڑ کر مشہور کر دیئے جاتے ہیں۔ رافع بن عمیرہ کی رہبری میں صحرا کو عبور کرنے کا واقعہ بظاہر بہت عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تصدیق سے انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ خالدؓ کی ساری زندگی ہی عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کیا عیاض بن غنم کی امداد کے لیے عین التمر - دومۃ الجندل پہنچنے کا واقعہ عجیب و غریب نہیں؟ کیا خالدؓ کے خفیہ حج کرنے کا واقعہ اعدائے دلوں کی عقلوں کو حیرت میں نہیں ڈال دیتا؟ اور کیا مسلمہ کی سرکوبی اور عراق کی عظیم الشان فتوحات لوگوں کو ششدر کرنے کے لیے کافی نہیں؟ خالدؓ مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ ایسے طریقے استعمال کرتے تھے جن کی بنا پر کم سے کم وقت میں بہتر سے بہتر طریقہ پر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاسکیں۔ اس موقع پر بھی خالدؓ نے حسب معمول یہ طریقہ اپنایا اور اس خوفناک و دشوار گزار صحرا سے گزر کر شام پہنچے تاکہ راستے میں دشمنوں سے ٹکرائے۔ یہ طریقہ نہ ہو سکے اور وہ بہ آسانی اسلامی افواج تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ وہ اپنے مقصد تک پہنچا۔ اب ہوئے اور دشمن انہیں راستے میں نہ روک سکا۔

بعض مورخین نے اس روایت کو تو اپنی کتابوں میں درج کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ احتیاط بھی کیا ہے کہ روایت میں کوئی حصہ ایسا نہ آنے پائے جو عقل کے خلاف ہو۔ اسی لیے مورخین نے اس لشکر کی تعداد کے متعلق بھی اختلاف موجود ہے جو خالدؓ کے ساتھ عراق سے آیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی تعداد نو ہزار تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ چھ ہزار تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ آٹھ سو اور پانچ سو کے درمیان تھی۔ جو لوگ لشکر کی تعداد نو ہزار بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ کے حکم کے ماتحت خالدؓ عراق سے آدھی فوج لے کر چلے تھے۔ اس وقت عراق میں مسلمانوں کی فوج اٹھارہ ہزار کے لگ بھگ تھی۔ جو لوگ فوج کی تعداد ایک ہزار سے کم بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خالدؓ شام محض اس لیے بھیجا گیا تھا کہ عرب اور عجم میں ان کی بہادری، شجاعت اور قیادت کی دھوم مچی ہوئی تھی اور بڑے بڑے سپہ سالار اور پرہیزگار شہنشاہ ان کے نام سے کانپتے تھے۔ اس لیے ان کا وہاں بھیجا جانا محض دشمن پر رعب ڈالنے

انہوں نے کہا ہمیں تو ایسی کوئی جھاڑی نظر نہیں آتی۔ اس پر رافع نے گھبرا کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اگر خیریت چاہتے ہو تو جس طرح ہو سکے اسے ڈھونڈ نکالو۔ آخر بڑی تلاش سے وہ جھاڑی ملی مگر کسی نے اسے کاٹ دیا تھا اور صرف تناباتی رہ گیا تھا۔ جھاڑی ملنے پر مسلمانوں نے زور سے تکبیر کہی۔ رافع نے کہا:

”اب بس جھاڑی کی جڑ کے قریب مٹی کھودو۔“

مٹی کھودنے پر وہاں ایک چشمہ نکل آیا جس سے سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ جب مسلمانوں کو اپنی سلامتی کا طرف سے اطمینان ہو گیا تو رافع نے کہا:

”میں اس چشمے پر صرف ایک مرتبہ بچپن کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ آیا تھا۔“

اب خالدؓ شام کی سرحد میں داخل ہو گئے تھے۔ آگے چل کر راستے میں انہیں کوئی وقت و پریشانی لاحق نہ ہوئی اور وہ جلد جلد سفر سکرے ہوئے سوئی پہنچ گئے۔ وہ صبح سے ذرا پہلے وہاں پہنچے تھے اور پہنچتے ہی بستی پر حملہ کر دیا۔ وہاں کے باشندوں کو مسلمانوں کی آمد کا سان گمان بھی نہ تھا۔ وہ گھبرا گئے اور مقابلے کی تاب نہ لا کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ آگے چل کر اہل تدمر سے مقابلہ پیش آیا۔ وہ بھی تھوڑی سی دواومت کے بعد زیر ہو گئے۔ دمشق قریب ہی تھا۔ لیکن خالدؓ نے اس پر حملہ نہ کرنا چاہا، ورنہ اس طرح وہ راستے ہی میں رومیوں سے الجھ جاتے اور اپنے پروگرام کے مطابق مسلمانوں کا مدد کے لیے یرموک نہ پہنچ سکتے۔ اس لیے انہوں نے عام راستہ چھوڑ کر حواریں کا راستہ اٹھا کر کیا اور قسطنطنیہ پہنچے۔ وہاں کے باشندوں نے جو قبیلہ قضاہ سے تعلق رکھتے تھے۔ صلح کر لی۔ اس سے اذرعہات کی جانب مڑے۔ مرج راہط پر پہنچ کر غسانیوں سے ان کی مدد بھیڑ ہوئی۔ خالدؓ نے انہیں شکست دے کر وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ مرج راہط سے چل کر وہ بصری پہنچے۔ یہاں ابو عبیدہ بن جراح، شریک بن حصیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان فوجیں لیے پڑے تھے۔ خالدؓ نے انہیں ساتھ لے کر شہر پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کر لیا۔ یہاں سے یہ تمام قائدین فوجوں کے ہمراہ عمرو بن عاص کے پاس پہنچے جو فلسطین میں غور کے نزدیک عربات میں مقیم تھے۔ خالدؓ ساتھیوں کے قریب ہی خیمہ زن ہوئے اور اس طرح تمام اسلامی فوجیں یرموک کے مقام

سے زیادہ جنگی مہارت بھی حاصل تھی اور وہ لڑائی کے طور طریقوں کو عربوں سے زیادہ جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کامل دو ماہ تک فریقین کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے ڈیرے ڈالے پڑے رہے۔ رومیوں کو ظاہری قوت و طاقت کے لحاظ سے تو بے شک عربوں پر برتری حاصل تھی لیکن باطنی قوت میں مسلمان ان سے کئی گنا بڑھے ہوئے تھے۔ رومی افواج شام میں مقیم بدوؤں اور ہرقل کے ان لشکروں پر مشتمل تھیں جنہوں نے اس سے قبل ایرانیوں سے جنگ کی تھی۔ اول تو ان دونوں گروہوں میں کوئی قدر مشترک نہ تھی، دوسرے ان کے سامنے کوئی بلند نصب العین نہ تھا جس کی خاطر وہ جنگ کے لیے نکلے تھے۔ لیکن ان کے مقابل مسلمانوں کی فوجیں تمام تر عربوں پر مشتمل تھیں، دوسرے انہیں کامل یقین تھا کہ رومیوں سے لڑائی جہاد فی سبیل اللہ کے زمرے میں شامل ہے۔ جو شخص اس لڑائی میں مارا جائے گا اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، آخرت میں اسے جنت الفردوس ملے گی اور وہ اللہ کی رضا و خوشنودی سے کاملاً بہرہ ور ہوگا مگر جو شہادت حاصل نہ کر سکے گا اللہ کے دربار میں اسے بھی مجاہدین کا درجہ نصیب ہوگا اور وہ بھی شہداء کی طرح اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ اس دنیا میں اسے مال غنیمت سے جو حصہ ملے گا وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ گویا ایک طرف اپنی زبردست جمعیت کا زعم تھا اور دوسری طرف ایمانی قوت کا رفرما تھی۔ ایک طرف ظاہری ساز و سامان پر بھروسہ تھا اور دوسری طرف روحانیت جلوہ گر تھی۔

دن اور ہفتے گزرتے چلے گئے لیکن فریقین کی فوجیں اپنی اپنی جگہ برقرار رہیں اور ان میں حرکت کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ خالد بن ولید کے لیے یہ صورت حال قطعاً ناقابل برداشت تھی۔ آج تک مد مقابل کو دیکھ کر ان سے صبر نہ ہو سکا تھا۔ لیکن موقع ایسا تھا کہ خالد اکیلے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اس وقت مسلمان افواج چار حصوں میں بٹی ہوئی تھیں۔ ہر حصہ فوج علیحدہ علیحدہ قائد کے ماتحت تھا۔ حد یہ کہ اذان بھی ہر لشکر میں علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی۔ خالد عراق سے صرف ساتھیوں کی امداد کے لیے آئے تھے، انہیں ان پر امیر بنا کر نہ بھیجا گیا تھا۔ ان کے لیے ناممکن تھا کہ وہ قلیل التعداد فوج کے ساتھ اکیلے ہی دشمنوں کے لشکر جزار پر حملہ کر دیتے۔ رومیوں نے اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حملے کرنے شروع کر دیئے۔ لیکن ان کے حملے بھی زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ مسلمان ان کے

کے لیے تھا ورنہ جو فوجیں رومیوں کے بالمقابل صف آرا تھیں وہ تعداد میں ہرگز کم نہ تھیں، علاوہ بریں مدینہ سے ان کے لیے برابر کمک پہنچ رہی تھیں۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ خالد عراق سے تو یقیناً آدھی فوج لے کر روانہ ہوئے تھے لیکن قراقرم پہنچنے پر جب تنگ و تنار ایک جنگل سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھ صرف چند سو سپاہی رکھے اور باقی لشکر کو وادی سرخان کے عام راستے سے شام پہنچنے کی ہدایت کی۔ انہیں چند سو ساتھیوں کے ساتھ وہ بصری پہنچے۔ ہماری رائے میں یہی روایت زیادہ قابل قبول ہے کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، خالد راستے میں رومیوں کے تصادم سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آسان راہ یہی تھی کہ وہ اپنے لشکر کا بڑا حصہ چھوڑ دیتے اور بہت تھوڑے آدمی لے کر کوچ کرتے کیونکہ ایک معمولی دستے کے لیے تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ اگر وہ دشمن کو دیکھ بھی لے تو چابک دستی کی بدولت راہ کاٹ کر پھرتی سے نکل جائے لیکن کئی ہزار پر مشتمل ایک بھاری لشکر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دشمن کی آنکھ بچا کر ایک طرف کو ہٹ جائے۔

بہر حال اس بارے میں خواہ روایات کچھ ہی کیوں نہ ہوں، یہ بات یقینی ہے کہ خالدؓ بہ خیریت یرموک پہنچ کر اسلامی لشکروں سے مل گئے اور ان کے ساتھ رومیوں سے جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ ہرقل نے باہان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ وہ بڑے کروفر سے آیا اور واقعہ میں مقیم رومی فوج سے جا ملا۔ باہان وہی شخص تھا جس نے خالدؓ بن سعید کو شکست دی تھی۔ رومیوں کو باہان کے پہنچنے کی بے حد خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو خالدؓ بن ولید کے پہنچنے سے بے اندازہ مسرت۔ اب دونوں فوجیں کیل کانٹے سے لیس ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑی تھیں اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے اور مد مقابل کو زیر کرنے کے لیے ہمہ تن تیار تھیں۔

مسلمانوں کے لیے یہ موقع بے حد نازک تھا۔ ایک تو رومیوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم تھی۔ دوسرے ساز و سامان اور جنگی تیاری کے لحاظ سے بھی مسلمانوں اور رومیوں کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ رومی پوری جج دھج اور کامل جنگی تیاری سے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ پھر بھی اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ رومیوں کو

سوچنے لگے۔

ہر امیر نے مختلف تجاویز پیش کیں لیکن لشکر کی صف بندی کے متعلق کسی نے کوئی رائے نہ دی کیونکہ ہر امیر اپنے لشکر کی صف بندی کا خود ذمہ دار تھا۔ جب خالدؓ کی باری آئی تو وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

”آج کا دن اللہ کے اہم دنوں میں سے ہے۔ آج کسی کے لیے فخر و مباہات اور خود رائی و خود ستائی مناسب نہیں۔ تمہارا جہاد خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور تمہیں اپنے اعمال کو خدا کی خوشنودی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ یاد رکھو آج کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ ایک ایسی قوم سے جو ہر طرح منظم و مرتب ہے، تمہارا علیحدہ علیحدہ لڑنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ جو تم سے دور ہیں (ابوبکرؓ) انہیں تمہارے حال کا علم ہوتا تو وہ کبھی تمہیں اس طرح لڑنے کی اجازت نہ دیتے۔ بے شک تمہیں ان کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں ملا لیکن تم اس معاملے کو اس طرح انجام دو گویا یہ تمہارے خلیفہ اور ان کے خیر خواہوں کا حکم ہے۔“

خالدؓ کی یہ تقریر سن کر کچھ دیر تک امراء عساکر پر مکمل خاموشی طاری رہی اور ہر شخص سر جھکائے اس معاملے کے متعلق سوچتا رہا۔ آخر انہیں یقین ہو گیا کہ جو کچھ خالدؓ نے کہا وہ بالکل سچ ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تین مہینے ہونے کو آئے وہ رومیوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، الٹا مسلمانوں کی حالت..... سے فائدہ اٹھا کر رومیوں نے اپنے آپ کو مضبوط اور طاقت ور بنالیا۔

آخر انہوں نے کہا:

”آپ ہی بتائیے! اس موقع پر کیا تدبیر اختیار کی جائے؟“

خالدؓ نے جواب دیا:

”ابوبکرؓ نے ہمیں اس خیال سے یہاں بھیجا تھا کہ ہم یہ مہم بہ آسانی سر کر لیں گے۔ اگر انہیں موجودہ حالات کا علم ہوتا تو وہ ضرور تمہیں

حملوں کو پسپا کر کے اپنے اپنے کیمپوں میں واپس آ جاتے۔

خالدؓ کے لیے یہ ایام بڑے صبر آزمائے تھے۔ ابوبکرؓ نے انہیں شامی افواج کی قیادت سپرد نہ کی تھی۔ خالدؓ خود بھی ایسی درخواست نہ کر سکتے تھے کیونکہ اس طرح دوسرے امراء کے دلوں میں حسد پیدا ہو جاتا۔ لیکن یرموک کے کنارے جو واقعات پیش آ رہے تھے وہ مسلمانوں کی ہمتیں پست کر دینے کے لیے کافی تھے۔ رومی برابر صفیں منظم کرنے میں مصروف تھے اور ان کے کیمپ سے آنے والی خفیہ خبروں سے پتا چلتا تھا کہ وہ مسلمانوں پر بھرپور حملہ کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہیں۔ خالدؓ کے علاوہ دیگر تمام امراء کو رومیوں کی تیاریوں اور ان کے خوفناک ارادوں کا علم تھا۔ اس صورت میں خالدؓ کے لیے یہی راستہ تھا کہ وہ ان امراء کو ایک متحدہ قیادت قبول کرنے کا مشورہ دیتے لیکن اپنی ذات کے سوا انہیں اور کسی پر بھروسہ نہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی بھی شخص کو تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنانے کی تجویز پیش کی تو دوسرے لوگ ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب کریں تو کیا کریں؟

باہان کے آنے کے بعد رومیوں کی جنگی تیاریاں تیز تر ہو گئیں۔ وہ متعدد بار پادریوں کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ یہ پادری اشتعال انگیز تقریروں سے رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے اور عیسائیت کی سلامتی کا واسطہ دے کر انہیں جنگ پر ابھارتے تھے۔ واشگاف الفاظ میں رومیوں کو بتاتے تھے کہ اگر اس موقع پر انہوں نے جم کر مسلمانوں کا مقابلہ نہ کیا اور انہیں ختم کرنے کی تدابیر نہ کیں تو عیسائیت کا خاتمہ ہے اس لیے انہیں عیسائیت کی بقاء کی خاطر ہر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے اور کسی طور مسلمانوں کو زندہ نہ چھوڑنا چاہیے۔

ان آتشیں تقریروں کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ رومی لشکر میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا اور ہر رومی عیسائیت کی بقا کی خاطر جان دینے کو تیار ہو گیا۔ آخر ایک دن مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ رومی کیل کانٹے سے لیس اگلے روز ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باہان نے اس طرح ان کی صف بندی کی ہے جس کی نظیر آج تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ سن کر مسلمان امراء کو فکر پیدا ہوا اور وہ اکٹھے ہو کر رومیوں سے مقابلہ کرنے کی تدابیر

پر مشتمل تھا) اور فرمایا:

”تمہارے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ کثرت تعداد پر نازاں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہی تدبیر مناسب ہے کہ ہم اپنی فوج کے بہت سے دستے بنالیں تاکہ دشمن کو ہماری تعداد اصل سے بہت زیادہ نظر آئے۔“

قلب میں انہوں نے اٹھارہ دستے رکھے اور ابو عبیدہ کو ان کا سردار بنایا۔ ان دستوں میں عکرمہ بن ابو جہل اور قعقاع بن عمرو بھی شامل تھے۔ میمنہ پردس دستے متعین کیے اور ان کا سردار عمرو بن عاص کو بنایا۔

ان دستوں میں شرییل بن حسنہ بھی تھے۔ میسرہ پردس دستے متعین کیے اور ان کا سردار یزید بن ابی سفیان کو مقرر کیا۔ ہر دستے کا علیحدہ سردار بھی تھا جو میمنہ، میسرہ اور قلب کے سرداروں سے احکام حاصل کرتا تھا۔ ان دستوں کے سردار وہ لوگ تھے جو بہادری، جواں مردی اور شجاعت میں اپنی نظیر آپ تھے، مثلاً قعقاع بن عمرو، عکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ وغیرہ۔

خالدؓ نے اس ترتیب کے علاوہ لشکر کا ایک ہر اول دستہ بھی بنایا تھا۔ جس پر غیاث بن اشیم مقرر تھے۔ قاضی کی خدمت ابو الدرداء کے سپرد ہوئی۔ لشکر کے قاری مقداد تھے جو لشکر کو سورہ انفال پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ سامان کے افسر عبداللہ بن مسعود تھے۔ واعظ ابو سفیان تھے۔ وہ لشکر میں گشت کرتے رہتے اور ہر دستے کے سامنے ٹھہر کر کہتے:

”اللہ اللہ! تم حامیان عرب ہو اور دین اسلام کے مددگار۔ تمہارے مد مقابل حامیان روم اور شرک کے مددگار ہیں۔ اے اللہ آج کی جنگ صرف تیرے نام کے لیے ہے۔ اے اللہ! اپنے بندوں پر اپنی مدد نازل فرما۔“

خالدؓ نے ایک شخص کو کہتے سنا:

”اوہو، رومی کتنے زیادہ ہیں اور مسلمان کتنے کم!“
یہ سن کر خالدؓ کو سخت طیش آیا اور وہ چلا کر بولے:

اکٹھا رکھتے۔ جن حالات میں سے تم گزر رہے ہو وہ پہلے واقعات کے مقابلے میں بہت سخت اور مشرکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم علیحدہ علیحدہ ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو الگ شہر کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ لیکن اگر تم اس موقع پر کسی ایک شخص کو امیر تسلیم کر کے اس کی اطاعت اختیار کر لو تو اس سے نہ تمہارے مراتب میں کوئی فرق پڑے گا اور نہ اللہ اور امیر المؤمنین کے نزدیک تمہارا درجہ کم ہوگا۔ ذرا دیکھو تو سہی دشمن نے کتنی زبردست تیاری کر رکھی ہے۔ یاد رکھو اگر آج ہم نے انہیں ان کی خندقوں میں دھکیل دیا تو ہم ہمیشہ انہیں دھکیلتے ہی رہیں گے، لیکن اگر انہوں نے ہمیں شکست دے دی تو ہم پھر کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ میری تجویز اس بارے میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو باری بار امارت کا موقع ملنا چاہیے۔ اگر آج ایک امیر ہے تو کل دوسرا، پرسوں تیسرا، ترسوں چوتھا یہاں تک کہ ہر شخص کو امیر بننے کا موقع مل جائے۔ آج کے لیے تم مجھے امیر بنادو۔“

جنگ کا آغاز:

خالدؓ کی رائے نہایت معقول تھی۔ تمام امراء اس پر متفق ہو گئے اور پہلے روز کے لیے انہوں نے خالدؓ کو امیر مقرر کر دیا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ رومیوں کی یورش آج بھی عام دنوں کی طرح ہوگی اور لڑائی بہر حال طول کھینچے گی۔ اس لیے باری باری ہر ایک کو امیر بننے کا موقع مل جائے گا۔

خالدؓ نے اس ایک مہینے کے دوران میں رومیوں کی ترتیب اور صف بندی کا بہ غور مطالعہ کر لیا تھا۔ انہوں نے ان کے مقابلے کے لیے ایک ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہا جو نہ صرف رومیوں پر رعب ڈالنے والا ہو بلکہ اس کے ذریعے سے فتح بھی حاصل ہو سکے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو اڑیس دستوں میں تقسیم کیا (ہر ایک دستہ کم و بیش ایک ہزار سپاہیوں

ان الفاظ نے ان کے عزم و حوصلہ میں بے پناہ زور پیدا کر دیا اور وہ انتظار کرنے لگے کہ کب حملے کا حکم ملتا ہے اور وہ میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔

جس طرح مسلمانوں کو رومیوں کی تیاری کی اطلاع مل گئی تھی اسی طرح رومیوں کو بھی مسلمانوں کی نقل و حرکت کا حال معلوم ہو گیا۔ غالباً اس علاقے کے رہنے والے کچھ بدو دونوں لشکروں کے درمیان جاسوسی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ خالدؓ کو منجملہ دیگر اطلاعات کے یہ اطلاع بھی ملی کہ ان کے آنے کی وجہ سے رومیوں کے بعض سرداروں کے دلوں میں سخت گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ ان گھبرائے ہوئے بے چین سرداروں میں ”چرچہ“ بھی شامل تھا۔ یہ شخص یا تو عربی النسل تھا یا تھا تو رومی لیکن سالہا سال سے شام میں رہنے کے باعث عربی بہت اچھی طرح جانتا تھا اور اسے مسلمانوں کی بہت سی باتوں کا بخوبی علم تھا۔ جب اس کے جاسوسوں نے اسے خالدؓ کی بے نظیر اور عظیم الشان فتوحات کی اطلاع دی تو بے اختیار اس کے دل میں خالدؓ سے ملنے اور ان سے گفتگو کی خواہش پیدا ہوئی۔ خالدؓ کو بھی اس کی اس خواہش کا علم ہو گیا۔ جب باہان نے رومی دستوں کو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو چرچہ ہراول دستے پر متعین تھا۔ اس نے موقع غنیمت جان کر خالدؓ کو پکارا۔ خالدؓ فوج سے نکل کر آئے اور دونوں لشکروں کے درمیان اسے ملے دونوں میں باتیں ہونے لگیں۔ رومیوں نے یہ سمجھا کہ چرچہ کو مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور شور سے حملہ کیا اور انہیں اپنی جگہ سے پیچھے ہٹا دیا۔

عکرمہ خالدؓ کے خیمے کے سامنے اپنا دستہ لیے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان رومیوں کے حملے کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹنے لگے تو غیرت و حمیت ان کی رگ رگ میں سرایت کر گئی اور انہوں نے چلا کر رومیوں سے کہا:

”میں رسول اللہ جیسے مقدس انسان سے ہر میدان میں لڑتا رہا ہوں،

کیا آج کی لڑائی میں تم سے ڈر کر بھاگ جاؤں گا؟ واللہ! ایسا کبھی

نہیں ہو سکتا۔“

یہ کہہ کر وہ ساتھیوں کی طرف مڑے اور کہا:

”آؤ، موت کے لیے کون بیعت کرتا ہے؟“

”اوہو، رومی کتنے کم ہیں اور مسلمان کتنے زیادہ! یاد رکھو جو جیس اللہ کی مدد کی بدولت زیادہ ہوتی ہیں اور ناکامی و بزدلی کی وجہ سے کم ہوتی ہیں۔ فتح و شکست کا انحصار آدمیوں کی کثرت و قلت پر نہیں ہوتا۔“
پھر فرمایا:

”کاش (میرے گھوڑے) اشقر کا پاؤں اچھا ہوتا پھر چاہے دشمن تعداد میں ہم سے کتنا گنا زیادہ کیوں نہ ہوتے مجھے ان کی مطلق پروا نہ ہوتی۔“

خالدؓ کے یہ الفاظ سارے لشکر میں پھیل گئے۔ ہر شخص کے سینے میں غیرت و حمیت کے جذبات بھڑکنے لگے اور ہر دل میں شہادت کی تمنا لہریں لینے لگی۔ ہر زبان پر یہ الفاظ جاری تھے:

”جو جیس اللہ کی مدد کی بدولت زیادہ ہوتی ہیں اور ناکامی و بزدلی کی وجہ سے کم ہوتی ہیں۔“

ہر شخص کے سامنے پچھلی جنگوں کے منظر آ گئے۔ جن میں کفار بے پناہ طاقت سے مسلمانوں کے مقابلے میں آئے لیکن ایمانی قوت کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکی اور ہر بار انہیں انتہائی ذلت و رسوائی سے پسپا ہونا پڑا۔

مسلمانوں میں اس وقت اتنا جوش و خروش پیدا ہو چکا تھا کہ شام آنے کے بعد سے اب تک پیدا نہ ہوا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ خالدؓ نے آج فتح حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جب خالدؓ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو کوئی طاقت انہیں باز نہیں رکھ سکتی۔ ادھر انہوں نے رومیوں کو پوری طاقت و قوت سے میدان جنگ میں صفیں باندھتے ہوئے دیکھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت کو کلیہً ختم کر دینے کے ارادے سے میدان میں آئے تھے..... اس وقت انہیں خالدؓ کے یہ الفاظ یاد آئے:

”آج کا دن اللہ کے اہم دنوں میں سے ہے۔ اللہ نے جنت کے دروازے مومنوں کے لیے کھول دیئے ہیں۔ آج جو شخص موت قبول کرتا ہے اسے ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی جائے گی۔“

لیے کسی راستے کی تلاش میں تھے لیکن اس وقت ان کے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی۔ واقوصہ کی گھائی ان کے پیچھے تھی اور مسلمان ان کے آگے۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔

خالدؓ نے اندازہ کر لیا کہ رومی سواروں کا فرار ان کے ساتھیوں کے لیے مزید کمزوری کا باعث ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آدمیوں کو ایک طرف ہٹ جانے کا حکم دیا۔ جب ان سواروں نے راستہ کھلا دیکھا تو بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس راستے سے نکلتے چلے گئے اور سرزمین شام میں منتشر ہو گئے۔ جب میدان رومی سواروں سے خالی ہو گیا تو خالدؓ اپنے سوار اور پیدل دستے لے کر رومیوں کے پیدل دستوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کا صفایا کرنا شروع کیا۔ رومی اپنی خندق میں گھس گئے۔ خالدؓ وہاں بھی پہنچ گئے تو انہوں نے واقوصہ کی گھائی کا رخ کیا۔ اکثر رومیوں نے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں۔ وہ دھڑا دھڑا اس گھائی میں گرنے لگے۔ اگر ایک گرتا تھا تو دس کو ساتھ لے کر گرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کوئی دیوار مع بنیاد زمین بوس ہو گئی ہے۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کھڑکونہ دیکھ سکے۔ جو رومی بھاگ بھاگ کر ادھر آتے انہیں خبر نہ ہوتی کہ آگے والوں پر کیا گزری، وہ بھی اس کھڈ میں گر جاتے۔ طبری کے بیان کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار رومی واقوصہ کی کھائی کی نذر ہوئے۔ ان میں سے اسی ہزار نے اپنے آپ کو بیڑیوں سے باندھ رکھا تھا۔ یہ تعداد ان سواروں اور پیدلوں کے علاوہ ہے جو میدان جنگ میں کام آئے۔ یہ لڑائی دن اور رات کے اکثر حصے میں جاری رہی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی خالدؓ رومی لشکر کے سپہ سالار اعظم کے خیمے تک پہنچ چکے تھے۔

ہر قل کا بھائی تذارق بھی اسی معرکے میں قتل ہوا۔ فیقار اور اس کے ساتھی، جن کا شمار رومیوں کے سرکردہ اور معزز اشخاص میں ہوتا تھا، جنگ میں مارے جانے سے بچ گئے تھے لیکن وہ اس عبرت ناک شکست کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے ٹوپوں سے منہ چھپا لیے اور میدان کے ایک جانب بیٹھ کر کہا کہ اگر ہم مسرت کا دن دیکھنے اور عیسائیت کی حمایت کرنے کے قابل نہیں تو ذلت و بدبختی کا یہ دن بھی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ لوگ اسی حال میں قتل کر دیئے گئے اور موت انہیں عار سے بچانے کا موجب ہوئی۔ باہان نے بھاگ کر جان بچائی اور بعد کی جنگوں میں

یہ سن کر ضرار بن ازور، حارث بن ہشام، ان کے لڑکے عمرو بن عکرمہ اور چار سو دور سرے بہادر معزز مسلمانوں اور شہسواروں نے عکرمہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی اور عکرمہ انہیں لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومیوں کے پاؤں اس ناگہانی حملے کی وجہ سے لڑ کھڑا گئے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ عین اسی وقت چرچہ نے خالدؓ سے گفتگو کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیا اور اپنا دستہ لے کر مسلمانوں سے مل گیا۔ یہ امر رومیوں میں مزید بدحواسی اور ابتری پیدا کرنے کا موجب ہوا۔

فتح یرموک:

جب خالدؓ نے رومی لشکر کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو انہوں نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے اور رومیوں پر زبردست حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عکرمہ کے دستے کا زور کیا کم تھا جواب خالدؓ کے لشکر نے قیامت ڈھانی شروع کی۔ رومیوں کے لیے اب کوئی جائے فرار نہ تھی۔ پیچھے واقوصہ کی ہولناک گھاٹی اور گہرے کھڈے ان کا راستہ روکے ہوئے تھے اور سامنے سے مسلمانوں کا لشکر انہیں بے دریغ قتل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ خالدؓ تلوار ہاتھ میں لیے سب سے آگے آگے تھے۔ اس موقع پر مسلمان عورتیں بھی اپنے مردوں سے کم نہ رہیں اور انہوں نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے۔ چنانچہ ابوسفیان کی بیٹی جویریہ نے جو نمونہ اس موقع پر دکھایا اس نے اس واقعے کی یاد تازہ کر دی جو غزوہ احد کے موقع پر اس کی والدہ ہند کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوا تھا۔

رومی بھی اپنی مدافعت میں جان توڑ کر لڑے۔ جو مسلمان ان کے قابو میں آ گیا زندہ نہ بچ سکا۔ رومیوں کی شجاعت اور جواں مردی کی وجہ سے خاصی دیر تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ شام ہو گئی مگر لڑائی جاری رہی۔ عکرمہ اور ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹا۔ یہ لوگ معرکے کے آغاز سے انجام تک انتہائی جواں مردی سے دشمن کے سامنے ڈٹے رہے اور بڑھ چڑھ کر حملے کرتے رہے۔ سورج غروب ہونے پر رومیوں میں ضعف کے آثار پیدا ہونے لگے۔ ان کے سواروں کے چہروں سے شدید تھکاوٹ کے آثار ہویدا تھے اور وہ بھاگنے کے

دمشق کا محاصرہ، اس کی فتح اور بعد کے واقعات طبری اور ابن کے خوشہ چینوں کے بیان کے مطابق حضرت عمرؓ کی خلافت کے ایام میں پیش آئے۔ جنگ یرموک کے دوران میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے جن کا ذکر ہم نے درمیان میں کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کیونکہ گو تمام مورخین نے ان کا ذکر کیا ہے پھر بھی ترتیب میں اختلاف پایا جاتا ہے اور ہم نے اس سے پہلے صرف انہی واقعات کا تذکرہ کیا ہے جو طبری اور اس کے خوشہ چین مورخین نے بالاتفاق اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ ان واقعات میں سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ عین اس وقت، جب گھمسان کی جنگ جاری تھی، مدینہ سے ایک قاصد حمیہ بن زینم میدان جنگ میں پہنچا۔ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور مدینہ کے حالات پوچھنے شروع کیے۔ اس نے موقع کی نزاکت کو دیکھ کر کہا کہ مدینہ میں ہر طرح خیریت ہے اور تمہاری امداد کے لیے فوجیں آ رہی ہیں۔ لوگ اسے خالدؓ کے پاس لے آئے۔ اس نے انہیں علیحدگی میں لے جا کر ابو بکرؓ کی وفات کی خبر سنائی اور ایک خط بھی دیا۔ یہ خط عمرؓ کی طرف سے تھا اور اس میں انہوں نے خالدؓ کو امارت سے معزول کر کے ان کی جگہ ابو عبیدہؓ کو قیادت سنبھالنے کا حکم دیا تھا۔ خالدؓ نے یہ خط پڑھا اور اسے ترکش میں ڈال لیا مبادا یہ خبر لشکر میں پھیل کر لوگوں کی پست ہمتی کا سبب بن جائے۔ جب جنگ ختم ہو چکی اور خالدؓ نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے رومیوں پر فتح حاصل کر لی تو لشکر کی قیادت سے علیحدہ ہو گئے اور خلیفہ ثانی کے احکام کے مطابق امارت ابو عبیدہؓ کو سونپ دی۔

جہاں تک خالدؓ کی معزولی کا تعلق ہے کسی بھی مورخ کو اس سے اختلاف نہیں۔ البتہ اختلاف ہے تو اس بات میں کہ آیا یہ خط خالدؓ کے نام تھا یا ابو عبیدہؓ کے نام۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ خالدؓ کی معزولی کا حکم خود ان کے پاس نہیں بلکہ ابو عبیدہؓ کے پاس آیا تھا لیکن ابو عبیدہؓ نے اسے مخفی رکھا اور دمشق کے محاصرے تک اس کی اطلاع خالدؓ کو نہ دی۔ مگر بعض دوسرے مورخین کا کہنا ہے کہ ابو عبیدہؓ نے یہ حکم اس وقت تک مخفی رکھا جب تک دمشق مسلمانوں کے ہاتھوں فتح نہ ہو گیا۔ شہر پر کامل تسلط کے بعد ابو عبیدہؓ نے یہ خط خالدؓ کو دکھا کر

دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے پر آیا لیکن اس کا حشر ہمیشہ یرموک سے کم نہ ہوا۔
 رومیوں کو کامل شکست ہو چکی تھی۔ مسلمان ان کی لشکرگاہ میں داخل ہوئے۔ خالدؓ
 نے ہر قل کے بھائی تذارق کے خیمے میں رات گزاری۔ صبح کو جب انہوں نے میدان میں
 نگاہ دوڑائی تو حد نظر تک کسی رومی کا نشان دکھائی نہ دیتا تھا۔ جو میدان ایک روز قبل رومی
 افواج قاہرہ سے بھر پور تھا، جہاں بڑے قیمتی جنگی گھوڑے جولانیاں دکھاتے تھے، جہاں ہر
 طرف عالی شان اور بلند و بالا خیموں کی قطاریں نظر آتی تھیں۔ وہاں اب ہو کا عالم طاری
 تھا، نہ کسی رومی کا نام و نشان نظر آتا تھا نہ کسی گھوڑے کا۔ عالی شان اور بلند و بالا خیمے موجود
 تھے لیکن مالکوں سے خالی تھے اور ان کی جگہ مسلمان ان میں آرام کر رہے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ
 کر خالدؓ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور انہوں نے اللہ کے اس عظیم الشان احسان کا
 شکر ادا کرنے کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھالیے۔

جنگ یرموک میں مسلمان شہداء کی تعداد بھی کم نہ تھی۔ اس لڑائی میں تین ہزار
 مسلمان شہید ہوئے تھے جن میں جلیل القدر صحابہ اور بڑے بڑے بہادروں اور شہسواروں
 کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ معرکے کے دوران میں عکرمہ بن ابو جہل اور ان کے بیٹے عمرو
 بن عکرمہ کے جسم تلواروں اور نیزوں سے چھلنی ہو چکے تھے۔ فتح کے بعد انہیں عراق تذارق
 کے خیمے میں خالدؓ کے پاس لایا گیا۔ خالدؓ نے عکرمہ کا سراپنی ران پر اور عمرو بن عکرمہ کا سر
 اپنی پنڈلی پر رکھ لیا اور ان کے چہروں سے مٹی پونچھنے اور حلق میں پانی پکانے لگے۔ اسی عالم
 میں انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ابوسفیان کی آنکھ میں ایک تیر لگ گیا جسے ابو حشمہ نے
 نکالا۔

اس جنگ کا انجام رومیوں کے لیے بہت حسرت ناک تھا۔ ان کی تمام امیدیں
 خاک میں مل گئی تھیں۔ تمام منصوبے ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ ہر قل ان دنوں حمص میں مقیم تھا
 جو نہی اس نے اپنے لشکر کی عبرت ناک شکست کی خبر سنی وہ ایک شخص کو اپنا قائم مقام بنا کر خود
 وہاں سے بھاگ گیا۔ ادھر مسلمانوں نے جنگ یرموک سے فراغت حاصل کرتے ہی اردن
 کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور تھوڑے ہی عرصے میں اسے رومیوں سے پاک کر لیا۔
 اس کے بعد انہوں نے دمشق کا رخ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔

سفیان، ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور شرجیل بن حسنہ تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے ان چاروں اشخاص کے لیے وہ علاقے بھی مخصوص فرمادیئے تھے جہاں کا انہیں والی بننا تھا۔ تصادم سے بچنے کے لیے انہیں یہ ہدایت بھی دی تھی کہ اگر کسی امیر کے مقرر کردہ علاقے میں کفار سے جنگ چھڑ جائے اور کوئی دوسرا امیر بھی اس وقت اس علاقے میں موجود ہو یا اسے مدد کے لیے طلب کیا گیا ہو تو لشکر کی قیادت عامہ اس امیر کے سپرد ہوگی جس کے علاقے میں جنگ ہو رہی ہو۔ اس کے بالمقابل ایک اور روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کو ان تمام افواج کا سپہ سالار اور یزید بن ابی سفیان کو امارت میں ان کا نائب بنایا تھا۔ ان لشکروں کی روانگی کے انتظامات کی تکمیل اس وقت ہوئی جب ذوالکلاح حمیری اور یمن کے دوسرے تمام افراد اپنے قبائی مذجج، طئی اور اسد وغیرہ کو لے کر مدینہ میں حاضر ہو گئے۔ تیاری مکمل ہونے پر ابو بکرؓ نے سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان کو ان کے لشکر کے ہمراہ شام روانہ فرمایا اور ان کے پیچھے پیچھے زمعہ بن اسود کو ایک فوج دے کر بھیجا۔

باقی لشکر ابھی مدینہ ہی میں تھے۔ جب گلیاں باہر سے آنے والی مجاہدین سے بھر گئیں تو ابو بکرؓ انہیں لے کر مدینہ سے باہر نکلے اور ثنیۃ الوداع پہنچ کر انہیں رخصت کیا۔ خالد بن سعید بن عاص بھی ان لشکروں کے ساتھ شام روانہ ہوئے لیکن انہوں نے اپنے چچیرے بھائی یزید بن ابی سفیان کے بجائے ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر میں شامل ہونا پسند کیا کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے تھے اور انہیں رسول اللہؐ کی زبان مبارک سے ”امین الامت“ کا لقب مل چکا تھا۔ ان لشکروں کی روانگی کے بعد مدینہ میں یمن اور عرب کے دوسرے علاقوں سے مزید لشکر پہنچنے شروع ہوئے۔ انہیں بھی ابو بکرؓ نے شام کی جانب روانہ فرما دیا اور اجازت دے دی کہ وہ اگلے لشکروں میں سے جس لشکر کے ساتھ چاہیں مل جائیں۔ ہر قل ان دنوں فلسطین میں تھا۔ جب اسے مسلمانوں کی تیاریوں کی خبریں ملیں تو

۱۔ بلاذری کی روایت ہے کہ جب ابو بکرؓ نے ابو عبیدہ کو علم دے کر شام بھیجنا چاہا تو انہوں نے معذرت چاہی۔ بعد میں عمرؓ بن خطاب نے انہیں اپنے زمانہ خلافت میں سارے شام کا والی بنا کر بھیجا۔

امارت خود سنبھالی۔

طبری نے شامی افواج کو سپہ سالاری سے خالدؓ کی معزولی کے جو واقعات بیان کیے ہیں انہیں پڑھ کر قارئین کو عجیب پریشانی لاحق ہوتی ہے کیونکہ خالدؓ صرف اس فوج کے امیر تھے جو عراق سے ان کے ساتھ آئی تھی، شام میں مقیم دوسری اسلامی افواج میں سے کسی کی امارت سے انہیں واسطہ نہ تھا۔ اسی طرح ابو عبیدہؓ بھی عمرو بن عاصؓ، یزید بن ابی سفیانؓ اور شرحبیل بن حسنہؓ کی طرح صرف اپنی فوج کے سردار تھے۔ جنگ یرموک کے دن خالدؓ کو کلکل فوجوں کا سپہ سالار تمام سرداروں کی رضا مندی سے بنایا گیا تھا اور اگر پہلے ہی روز مسلمانوں کو فتح حاصل نہ ہو جاتی تو دوسرے روز کوئی دوسرا سپہ سالار بنتا۔ یہ واقعات ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں طبری کے علاوہ دوسرے مورخین کی کتابیں بھی دیکھنی چاہئیں کہ آخر وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔

فتح شام کے متعلق دوسری روایات:

اصل میں شام کی فتوحات کے بارے میں ازدی، واقدی اور بلاذری کا طبری سے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ان اصحاب کی بیان کردہ روایات کے مطابق جنگ یرموک شام کی پہلی جنگ نہ تھی۔ بلکہ اجنادین اور دمشق کی جنگیں اس سے پہلے ہو چکی تھیں۔ ان روایات کے مطابق ابو بکرؓ نے جگہائے مرتدین ختم ہوتے ہی شام کی فتح کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس وقت سرحد پر کوئی مسلمان فوج نہ تھی۔ ایک روز انہوں نے مدینہ کے اہل الرائے حضرت کو طلب فرمایا اور ان کے سامنے شام کی چڑھائی کے متعلق اپنی تجاویز رکھیں جن کا ذکر ہم پچھلے باب میں کر چکے ہیں۔ جب انہوں نے تمام لوگوں کو اپنا ہم نوا پایا تو یمن اور جنوبی عرب کے دوسرے علاقوں کے لوگوں کو پیغام بھیجے کہ وہ شام پہنچ کر اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کریں۔ اس اثنا میں وہ مدینہ، مکہ، طائف اور حجاز کے مسلمانوں کو بھی اسی غرض کے لیے تیار کرتے رہے۔ فوجوں کے اکٹھا ہو جانے پر انہوں نے چار آدمیوں کو علم عنایت فرمائے اور انہیں فوجوں کا سردار بنا کر شام کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ چار اشخاص یزید بن ابی

اکٹھے ہو رہے تھے۔ اہل مکہ کی بھی ایک کثیر تعداد مدینہ پہنچ چکی تھی ابو بکرؓ نے ان تمام لوگوں کا سردار عمرو بن عاص کو بنایا اور انہیں شام روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ عمرو بن عاص نے پوچھا: ”کیا شام میں لڑنے والی فوجوں کی قیادت بھی میرے پاس رہے گی؟“

ابو بکرؓ نے جواب دیا:

”تم صرف ان لوگوں کے سردار ہو جو یہاں سے تمہارے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں لیکن شام پہنچ کر اگر اسلامی لشکروں کو مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑا تو تمہارے امیر ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے۔“

روانگی کا وقت آیا تو عمروؓ بن عاص نے عمرؓ سے درخواست کی کہ وہ ابو بکرؓ سے سفارش کر کے انہیں شام میں لڑنے والی اسلامی افواج کا سپہ سالار مقرر کرادیں لیکن عمرؓ نے صاف جواب دے دیا اور کہا:

”میں تمہیں دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ میں ہرگز ابو بکرؓ سے یہ سفارش نہ کروں گا۔ کیونکہ میرے نزدیک درجے کے لحاظ سے ابو عبیدہ تم سے افضل ہیں۔“

عمروؓ بن عاص نے کہا:

”میرے امیر بن جانے سے ابو عبیدہ کے درجے اور فضیلت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔“

لیکن عمرؓ پر عمرو بن عاص کی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے جواب دیا:

”عمرو! تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اپنے لیے امارت کے خواہش مند ہو اور

اس سے تمہاری غرض اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہیں ایک دنیوی رتبہ

اور قدر و منزلت حاصل ہو جائے۔ تمہیں اللہ سے ڈرنا اور اس کی

خوشنودی کے سوا اور کسی چیز کا طالب نہ ہونا چاہیے۔ تم لشکر لے کر

شام روانہ ہو جاؤ۔ اگر اس مرتبہ تم امیر نہیں بن سکتے تو مایوسی کی کوئی

وجہ نہیں۔ امارت کے موقع آگے چل کر بہت آئیں گے۔“

اس نے علاقوں کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے جوشیلی تقریریں کر کے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ ان نے کہا ”یہ بھوکے ننگے غیر مہذب لوگ صحرائے عرب سے نکل کر تم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تم انہیں ایسا نہ توڑ جواب دو کہ پھر یہ کبھی تمہاری طرف دیکھنے کی بھی جرات نہ کر سکیں۔ سامان حرب اور فوجوں کے ذریعے سے تمہاری پوری مدد کی جائے گی۔ جو امراء تم پر مقرر کیے گئے ہیں تم دل و جان سے ان کی اطاعت کرو، فتح تمہاری ہی ہوگی۔“

فلسطین کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف آمادہ پیکار کر کے ہرقل دمشق آیا۔ وہاں سے حمص اور انطاکیہ پہنچا اور فلسطین کی طرح ان علاقوں میں بھی اس نے جوشیلی تقریریں کر کے وہاں کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ خود انطاکیہ کو ہیڈ کوارٹر بنا کر مسلمانوں سے مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔

اسی اثناء میں ابو عبیدہ وادی قریٰ اور حجر سے گزر کر سرزمین شام میں داخل ہو چکے تھے۔ ماب میں ایک رومی لشکر سے ان کی مدد بھیڑ ہوئی۔ رومی لشکر مسلمانوں کے مقابلے کی تاب نہ لا سکا اور اسے جلد ہی شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا۔ جابیہ پہنچنے پر ابو عبیدہ کو معلوم ہوا کہ ہرقل نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایسا عظیم الشان لشکر تیار کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس پر انہوں نے ابو بکرؓ کو تمام حالات لکھ کر مشورہ طلب کیا اور امداد کی درخواست بھی کی۔ ادھر یزید بن ابی سفیان نے بھی ابو بکرؓ کو ایک خط لکھا لیکن اس میں رومیوں کی زبردست جنگی تیاریوں سے خوف کھانے کے بجائے اس امر کا اظہار کیا گیا تھا کہ ہرقل کا فلسطین سے انطاکیہ پہنچ جانا خود اس کے خوف و ہراس پر دلالت کرتا ہے۔ ابو بکرؓ یزید کے خط سے بہت خوشی ہوئی اور انہیں جواب میں لکھا کہ تم اسی طرح ہمت بلند رکھو، اللہ یقیناً تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن ابو عبیدہ کو جو جواب بھیجا اس میں اس امر پر تاسف کا اظہار کیا گیا تھا کہ وہ رومیوں کی قوت و شوکت سے مرعوب ہو گئے۔ پھر بھی دونوں خطوں میں انہوں نے مزید کمک بھیجنے کا وعدہ کیا۔

ابو بکرؓ نے اہل مکہ کو خطوط لکھ کر ان سے بھی موجودہ حالات کے متعلق مشورہ طلب فرمایا تھا۔ اس اثناء میں عرب قبائل جہاد کے شوق میں چاروں طرف سے آ کر مدینہ میں

ہے تم ان کی مخالفت نہ کرنا اور بہ دل و جان ان کے تمام احکام کی اطاعت کرنا۔ میں نے انہیں تمہارا امیر مقرر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دینی لحاظ سے تمہارا مرتبہ خالدؓ سے بلند تر ہے لیکن جو جنگی مہارت خالدؓ کو حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں۔ اللہ ہمیں اور تمہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔“

ادھر خالدؓ بن ولید نے بھی ابو عبیدہؓ کو یہ خط لکھا:

”میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور تمہیں خوف کے دن امن عطا فرمائے اور اس دنیا میں دشمنوں کے ہاتھوں شکست کھانے سے محفوظ رکھے۔ میرے پاس خلیفہ رسول اللہؐ کا خط آیا ہے جس میں مجھے شام جانے اور وہاں اسلامی لشکروں کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واللہ، نہ میں نے شامی افواج کی سپہ سالاری کی خواہش کی، نہ میرے خیال میں یہ بات آسکتی تھی کہ مجھے شامی افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا جائے گا، نہ میں نے کبھی خلیفہ رسول اللہؐ یا کسی اور شخص کو اشارۃ و کنایۃ کوئی خط ہی لکھا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو مرتبہ اس وقت آپ کا ہے آئندہ بھی اسی طرح برقرار رہے گا۔ نہ آپ کے کسی حکم سے روگردانی کی جائے گی، نہ آپ کی کسی رائے کی مخالفت کی جائے گی اور نہ کوئی کام آپ کے مشورے کے بغیر کیا جائے گا کیونکہ آپ مسلمانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی فضیلت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اور نہ آپ کی رائے سے پہلو تہی کی جاسکتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے احسان کی دولت سے مالا مال کر دے اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ۔“

خالد سوئی سے لوئی پہنچے، وہاں سے قسم آئے جہاں انہوں نے بنو مشجعہ سے صلح

اس قسم کی باتیں کر کے عمرؓ نے عمرو بن عاص کو راضی کر لیا اور وہ ابو بکرؓ سے قیمتی نصائح حاصل کرنے کے بعد فوج لے کر شام روانہ ہو گئے۔

اگرچہ ابو بکرؓ کی طرف سے ابو عبیدہ کو پیش قدمی کی ہدایات مل رہی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود پیش قدمی کی رفتار بہت سست تھی۔ مدینہ سے بھیجی ہوئی امداد اور عمرو بن عاص کے شام پہنچنے پر بھی اس سست روی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ ابو عبیدہ برابر ابو بکرؓ کو لکھتے رہے:

”رومی اور ان کے حاشیہ نشین قبائل مسلمانوں سے لڑنے کے لیے

بھاری تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں اس لیے مجھے رائے دیجئے کہ اس

موقع پر کیا کرنا چاہیے؟“

ابو عبیدہ کے پے در پے خطوط سے ابو بکرؓ تنگ آ گئے، اور انہوں نے خالد بن ولید کو

شام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس وقت عراق میں تھے۔ ابو بکرؓ نے انہیں لکھا:

”جو نہی میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے عراق سے شام روانہ ہو جاؤ۔ شنیٰ

کی فوج کو عراق ہی میں چھوڑ دو اور اپنے ساتھیوں میں سے بہترین

آدمی چن کر ساتھ لے لو۔ شام پہنچ کر ابو عبیدہ بن جراح سے ملو۔ اس

وقت شام کی افواج ابو عبیدہ کے زیر سرکردگی ہیں لیکن آئندہ ان

فوجوں کے سپہ سالار تم ہو گے۔ والسلام علیک۔“

جن مورخین نے واقعات اس ترتیب سے بیان کیے ہیں وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں

کہ جب ابو بکرؓ کا خط خالدؓ کو ملا تو وہ حیرہ میں تھے اور انبار و عین التمر کی فتوحات ابھی تک وقوع

میں نہ آئی تھیں۔ خط ملنے پر انہوں نے تیاری کی اور شام روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں مقام

راستے میں پڑتے تھے، انہیں فتح کیا اور قراقر پہنچے۔ قراقر سے وہ صحرا کو قطع کر کے سوئی پہنچے

جہاں سے سرزمین شام شروع ہو جاتی تھی۔

ابو بکرؓ نے خالدؓ کے ساتھ ہی ابو عبیدہؓ کو بھی ایک خط ارسال کیا تھا جس میں لکھا تھا:

”میں نے خالدؓ بن ولید کو رومیوں سے جنگ کرنے کا کام سپرد کیا

لکھا تھا کہ وہ اپنی اپنی فوجیں لے کر اجنادین پہنچ جائیں چنانچہ یہ تینوں قائدین حکم کی تعمیل میں اپنی فوجوں کے ہمراہ اجنادین پہنچ گئے۔ خالدؓ نے تمام افواج کی کمان سنبھالی اور لشکر کو مرتب کرنا شروع کر دیا۔ پیدل فوج پر ابو عبیدہ کو مقرر کیا، میمنہ پر معاذ جبل کو، میسرہ پر سعید بن عامر بن حزمی کو اور سواروں پر سعید بن زید بن عمرو کو مقرر کیا اور خود مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے صفوں کے درمیان گشت کرنے لگے۔

رومیوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ خالدؓ نے اپنے آدمیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ نماز ظہر تک جنگ شروع نہ کی جائے لیکن جب سعید بن زید نے دیکھا کہ رومیوں کے حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کو جانی نقصان ہو رہا ہے تو انہوں نے خالدؓ سے رومیوں پر جوابی حملہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ خالدؓ نے سب سے پہلے گھڑ سوار دستے کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد باقی فوج کو بھی لے کر دشمن پر پل پڑے۔ رومیوں کو شکست فاش ہوئی، مسلمانوں نے ان کے بے شمار آدمی قتل کر ڈالے اور بے حساب مال غنیمت حاصل کیا۔

معرکہ اجنادین میں فتح یاب ہو کر خالدؓ واپس دمشق آ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ خالدؓ اس گرجے میں اترے جو باب شرقی سے متصل تھا۔ ابو عبیدہ نے باب جابیہ کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ عمرو بن العاص باب توما کے سامنے فروکش ہوئے۔ شرجیل باب فراولیس اور یزید باب صغیر کے سامنے خیمہ زن ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں نے پوری طرح شہر کا محاصرہ کر لیا۔

اہل دمشق نے ہر قل کو لکھا کہ وہ اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ مسلمانوں نے سختی سے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے اس لیے جلد از جلد ان کی مدد کے لیے فوج روانہ کی جائے۔ چنانچہ ہر قل نے ایک فوج روانہ کی۔ مرج الصفر میں خالدؓ کی فوج سے اس فوج کا مقابلہ ہوا جس میں رومی فوج کو شکست فاش اٹھانی اور فرار ہوتے ہی بن پڑی۔ خالدؓ دوبارہ دمشق آ گئے اور محاصرہ شروع کر دیا۔

اہل دمشق سے جب تک بن پڑا انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ شہر کی دیواروں کو مضبوط بنایا اور ان کے اوپر سے مسلمانوں پر تیر برسوں کے شروع کیے۔ شہر کے

کی۔ یہاں سے وہ غور اور ذات انصاف کی طرف مڑے اور راستے میں مقیم قبائل کو مرعوب کرتے ہوئے غوطہ دمشق پہنچ گئے۔ راستے میں تدمر کی تسخیر بھی عمل میں آئی۔

غوطہ سے ثنیہ العقاب کے راستے انہوں نے دمشق کا قصد کیا۔ اس ثنیہ (گھاٹی) کو ثنیہ العقاب کا نام خالدؓ کے حملے کے بعد دیا گیا کیونکہ یہاں انہوں نے رسول اللہؐ کا جھنڈا ”عقاب“ لہرایا تھا۔ دمشق کے مشرقی دروازے سے ایک میل کے فاصلے پر وہ ایک گرجے میں اترے جسے بعد میں ”دیر خالد“ کا نام دے دیا گیا۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ ابو عبیدہؓ ان سے یہیں ملے تھے اور دمشق کا محاصرہ اصل میں اس روز شروع ہوا تھا۔

بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ خالدؓ نے دمشق کے سامنے زیادہ دن تک قیام نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر قناتہ بصریٰ پہنچے جہاں مسلمانوں کی افواج مجتمع تھیں۔ اس اثناء میں مسلمانوں کو خبریں پہنچنی شروع ہوئیں کہ ہرقل نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اجنادین میں ایک عظیم الشان لشکر جمع کیا ہے۔ یہ خبریں سن کر پہلی روایت کے مطابق مسلمان دمشق کا محاصرہ چھوڑ کر اور دوسری روایت کے مطابق بصریٰ کا محاصرہ ختم کر کے رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اجنادین کی جانب روانہ ہوئے اور ابو بکرؓ کی وفات سے چوبیس روز پہلے اجنادین میں مسلمانوں اور رومیوں کی پہلی ٹڈ بھڑ ہوئی۔

خالدؓ نے تینوں امراء یعنی زید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمرو بن عاص کو

۱۔ بلاذری میں مذکور ہے کہ آپ تدمر سے حوارین اور مرج الرہط ہوتے ہوئے غوطہ دمشق پہنچے تھے۔

۲۔ ازدی کی روایت اس بارے میں یہ ہے کہ خالدؓ دمشق سے گزرے تو ضرور تھے لیکن انہوں نے اور ابو عبیدہؓ نے غوطہ اور اس کے نواحی علاقوں میں اچانک دھاوے بولنے کے سوا کوئی باضابطہ حملہ نہ کیا۔ اسی دوران میں انہیں خبر ملی کہ حمص کا حاکم رومیوں کی ایک عظیم الشان جمعیت کے ہمراہ اس ارادے سے باہر نکلا ہے کہ بصریٰ کے مقام پر شرحبیل بن حسنہ کا راستہ کاٹ دے تاکہ وہ ساتھیوں سے نہ مل سکیں۔ پھر خبر ملی کہ رومیوں کی عظیم الشان افواج اجنادین میں جمع ہوئی ہیں اور تمام اہل شہر اور شام میں مقیم عرب قبائل رومیوں سے مل کر مسلمانوں کے مقابلے کی زبردست تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ خبر سن کر خالدؓ اور ابو عبیدہؓ دمشق سے نکلے اور اجنادین کا قصد کیا۔ ابو عبیدہؓ فوج کے پیچھے حصے میں تھے۔ اہل دمشق نے موقع پا کر ان کا راستہ کاٹ دیا اور ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ خالدؓ کو معلوم ہوا تو وہ فوج لے کر پہلے اور ابو عبیدہؓ کو اہل دمشق کے چنگل سے چھڑایا۔ اہل دمشق خالدؓ کے حملے کی تاب نہ لا کر فرار ہو گئے اور قلعے میں پہنچ کر پناہ لی۔ خالدؓ ابو عبیدہؓ کو ساتھ لے کر اجنادین روانہ ہو گئے۔

عبیدہ کو بھی بھیج دی۔ لیکن ابو عبیدہ نے یہ حکم اس وقت تک خالدؓ سے چھپائے رکھا جب تک دمشق مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ گیا۔ البتہ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ فتح دمشق سے پہلے ہی ابو عبیدہؓ نے یہ اطلاع خالدؓ کو دے دی تھی لیکن ان کی تیوری پر ذرا بھی بل نہ پڑے اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے خلیفہ ثانی کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔

یہ ہیں وہ روایات جو از دی، بلاذری اور واقدی نے شامی فتوحات کے متعلق بیان کیں اور جو ہم نے بالا اختصار نقل کر دی ہیں۔ انہیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی واقعات کی ترتیب کے لحاظ سے یہ روایات جہاں طبری سے مختلف ہیں وہاں خالد بن ولید کی امارت اور ان کی معزولی کے سوال پر بھی دونوں میں بین اختلاف موجود ہے۔

پھر بھی دو باتیں ایسی ہیں جن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں اول یہ کہ ابو بکرؓ ہی نے عراق کی طرح شام کی فتح کا بیڑا اٹھایا تھا اور اس غرض کے لیے فوجیں اور ہر قسم کی امداد روانہ کی تھی۔ یہ امر قابل ہے کہ عراق اور شام کی ان ابتدائی فتوحات ہی سے، جو ابو بکرؓ کے عہد میں ہوئیں، اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ دوم یہ کہ خالد بن ولید نے شام میں بھی وہی کارہائے نمایاں انجام دیئے جن کا مظاہرہ وہ عراق میں کر چکے تھے۔ وہ ہر مقام پر مظفر و منصور ہوئے اور قیادت سے معزولی کے باعث نہ ان کے رتبے میں کوئی کمی واقع ہو سکی اور نہ ان کی جنگی صلاحیتوں میں۔ یہ ان کی جنگی صلاحیتیں ہی تو تھیں جنہیں رسول اللہؐ نے قدرو منزلت کی نگاہ سے دیکھ کر انہیں سیف اللہ کا خطاب مرحمت فرمایا تھا اور جن کا اعتراف ابو بکرؓ نے ان الفاظ سے فرمایا تھا:

”میں اس تلوار کو کسی طرح میان میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے

کافروں پر مسلط کیا ہو۔“

ان مختلف روایات کی موجودگی میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ یرموک کی جنگ ابو بکرؓ کے عہد میں واقع ہوئی یا حضرت عمرؓ کے عہد میں۔ اگر اس امر کو دیکھا جائے کہ واقو صہ کی گھاٹی، جس کے قریب یہ جنگ لڑی گئی، صحرائے شام، عرب کی سرحد اور وادی سرحان کے راستے کے قریب واقع ہے تو طبری کی رائے کی تائید کرنی پڑتی ہے کہ یہ جنگ

دروازوں پر مضبوط دستے متعین کیے کہ مسلمانوں کو شہر میں داخل ہونے سے روکیں۔ لیکن کوئی بھی چیز مسلمانوں کو محاصرے کی سختی سے باز نہ رکھی سکی۔ ناچار امراء دمشق نے ایک بار پھر ہر قل کو لکھا کہ اگر اس نے اس نازک موقع پر ان کی مدد نہ کی تو دشمن سے مصالحت کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہ رہے گا۔ ہر قل نے جواب میں لکھا کہ جرات و ہمت سے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور کسی بھی قیمت پر اسے شہر پر قبضہ نہ کرنے دو، تمہاری مدد کے لیے میں قاصد کے پیچھے پیچھے فوجیں روانہ کر رہا ہوں۔ اہل دمشق نے بے صبری سے ان فوجوں کا انتظار شروع کیا لیکن آخر ان کی امیدیں حسرتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہر قل کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ اہل دمشق کی ہمتوں نے جواب دے دیا اور انہیں مسلمانوں کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور ان سے صلح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔

اس صلح کے متعلق مختلف روایات تاریخوں میں بیان ہوئی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اہل دمشق سے صلح ابو عبیدہ نے باب جابیہ کے قریب کی تھی۔ صلح نامہ پر کرنے کے بعد جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ خالدؓ باب شرقی سے بہ زور اندر گھس آئے ہیں اور اپنے سپاہیوں کی مدد سے شہر پر قبضہ کر رہے ہیں، جب دونوں سردار آپس میں ملے تو ابو عبیدہؓ نے کہا کہ شہر والوں نے صلح کر لی ہے اور اب مسلمانوں کو شہر والوں کے مال و جان پر کسی قسم کا اختیار نہیں لیکن خالدؓ نے کہا کہ انہوں نے اپنے زور بازو سے شہر کو فتح کیا ہے اس لیے شہر والوں سے مفتوحین جیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آخر تھوڑی دیر کی بحث و تمحیص کے بعد دونوں کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ صلح برقرار رکھی جائے اور شہر والوں سے مفتوحین کا سلوک نہ کیا جائے۔ اس کے برعکس بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ خالدؓ نے اہل دمشق سے باب شرقی کے قریب صلح کا معاہدہ کیا تھا اور ابو عبیدہؓ باب جابیہ سے بہ زور شہر میں داخل ہوئے تھے۔ پھر بھی تمام روایتوں میں اس امر پر اتفاق ہے کہ آخر صلح کی شرائط ہی برقرار رکھی گئیں اور شہر والوں سے مفتوحین کا سا سلوک نہ کیا گیا۔

روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابھی دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ ابو بکرؓ کی وفات ہو گئی اور ان کی جگہ عمرؓ خلیفہ بنے۔ انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی پہلا کلام یہ کیا کہ خالدؓ گوان کے عہدے سے معزول کر کے ان کی جگہ ابو عبیدہؓ کو سالار لشکر مقرر کر دیا اور اس کی اطلاع ابو

بلاذری اور ان کے خوشہ چیں ذکر کرتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے انہیں شام میں مقیم تمام اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا اور ثبوت میں وہ دو خط پیش کرتے ہیں جو اس معاملے کے متعلق حضرت ابو بکرؓ نے خالد بن ولید اور عبیدہ بن جراح کو بھیجے تھے۔ بہت کچھ غور و فکر کے بعد ہم نے بلاذری کی روایت کو زیادہ قرین قیاس اور درست خیال کیا ہے کیونکہ یہ امر بعید از عقل ہے کہ ایک ہی سلطنت کی مختلف فوجیں ایک جگہ ڈیرہ ڈالے پڑی رہیں اور وہ ایک قیادت کے تحت منظم ہونے کے بجائے علیحدہ علیحدہ قیادتوں اور امارتوں میں بٹی رہیں۔

طبری خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں، ابو بکرؓ نے تمام اسلامی لشکروں کو حکم بھیجا تھا کہ وہ آپس میں ضم ہو کر ایک لشکر کی صورت اختیار کر لیں اور متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اس حکم کا نفاذ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک تمام اسلامی لشکر ایک قیادت کے ماتحت منظم نہ ہو جاتے۔ ابو بکرؓ نے یہ حکم خالد بن ولید کو شام بھیجنے سے پہلے دیا تھا اس لیے لازم تھا کہ اسلامی لشکروں کی قیادت ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان یا اور کسی قائد کے سپرد ہوتی۔ اکثر مورخین کا خیال یہی ہے کہ ان لشکروں کے سپہ سالار ابو عبیدہ تھے گو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ابو بکرؓ کی خدمت میں خط لکھ کر یہ ذمہ داری اٹھانے سے معذرت چاہی تھی۔ جب ان باتوں کے تسلیم کرنے سے ہم انکار نہیں کر سکتے تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ابو بکرؓ نے خالد بن ولید کو کل شامی افواج کا سپہ سالار مقرر کر کے شام بھیجا تھا اور یہی بات بلاذری نے بیان کی ہے۔

اگر خالدؓ تمام افواج کے سپہ سالار نہ ہوتے تو عمرؓ خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلے انہیں اپنے عہدے سے معزول کرنے کا حکم نہ بھیجتے کیونکہ طبری اور دوسرے مورخین کی بیان کردہ روایات سے ثابت ہے کہ خالدؓ اپنے معزول ہونے کے بعد بھی، ان فوجوں کی قیادت کرتے رہے جو ان کے ساتھ تھیں اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک حضرت عمرؓ نے انہیں قنسرین کی امارت اور فوج کی سپہ سالاری سے معزول نہ کر دیا۔ یہ واقعہ ۷ھ میں

ابوبکرؓ کے عہد میں ہوئی کیونکہ ابتدائی جنگیں سرحد کے قریب ہی لڑی جاتی ہیں۔ لیکن ایک اور نقطہ نگاہ سے بلاذری کی اس روایت کو بھی مسترد نہیں کیا جاسکتا کہ یہ جنگ عمرؓ کے عہد میں واقع ہوئی۔ اس نے بیان کیا ہے کہ جب ابتدائی جنگیں شروع ہوئیں تو رومیوں نے دمشق کی جانب ہٹنا شروع کیا۔ دمشق کا شہر نہ صرف خود بہت مستحکم تھا بلکہ اس کے ارد گرد بھی ایسی بستیاں آباد تھیں جہاں سے مسلمانوں کے حملے کا دفاع بہت اچھی طرح کیا جاسکتا تھا۔ رومیوں کا ارادہ تھا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہفتے مسلمانوں کو ایسی جگہ لے آئیں گے جہاں سے ان کے لیے واپس ہونا بے حد مشکل ہوگا، اس وقت وہ یک بارگی ان پر حملہ کر کے انہیں شکست دے دیں گے، پھر کبھی مسلمانوں کو شامی علاقے پر حملہ کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مسلمان دمشق تک پہنچ گئے لیکن رومیوں کی توقعات کے برعکس شہر کا محاصرہ ہوتا چلا گیا اور آخر ہار کر رومیوں کو صلح کرنی پڑی اور شہر پر مسلمانوں کا تسلط ہو گیا۔

واقعات کی اصل ترتیب کا فیصلہ تو واقعی مشکل ہے لیکن جہاں تک حضرت خالدؓ کے سپہ سالاری سے معزول کیے جانے کا تعلق ہے اس کا فیصلہ آسان ہے۔ طبری، بلاذری اور دوسرے تمام مورخین کا اس امر پر تو کلی اتفاق ہے کہ ابوبکرؓ نے خالدؓ بن ولید کو عراق سے شام اس غرض کے لیے بھیجا تھا کہ وہ رومیوں کے دلوں سے تمام شیطانی وسوسے دور کر دیں اور اس جمود کو، جو ایک لمبے عرصے سے شام میں مقیم اسلامی فوجوں پر چھا چکا تھا، توڑ دیں۔ اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ آیا خالدؓ وہاں تمام اسلامی فوجوں کے سپہ سالار بن کر گئے تھے یا صرف اس فوج کے امیر بن کر جو آپ کے ساتھ عراق سے شام پہنچی تھی۔ اگر یہ اختلاف دور ہو جائے تو معزولی کا سارا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔

طبری بیان کرتے ہیں کہ خالدؓ صرف اس فوج کے امیر بن کر شام گئے تھے جو عراق سے ان کے ساتھ آئی تھی۔ تمام اسلامی فوجوں کی قیادت صرف جنگ یرموک کے دن ان کے ہاتھ میں آئی تھی اور وہ بھی دیگر امراء کے مشورے اور رضا مندی کے بعد۔ لیکن

پندرہواں باب

ثنیٰ عراق میں

عراق میں ثنیٰ کے لیے مشکلات:

ثنیٰ بن حارثہ: خالد بن ولید کو صحرائے شام کی سرحد پر چھوڑ کر حیرہ واپس آ گئے تھے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنی فوج کے ذریعے سے مفتوحہ شہروں کے دفاع کا بندوبست کرنا شروع کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو نہی ایرانیوں کو خالد بن ولید کے شام جانے کا حال معلوم ہو گا وہ اپنے چھنے ہوئے شہروں کو واپس لینے اور سرزمین عراق سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے پوری جدوجہد شروع کر دیں گے۔

اس وقت حالات واقعی نازک صورت اختیار کر گئے تھے۔ خالد نے عراق میں رہنے والے بدوؤں سے جس سختی کا سلوک کیا تھا اس کے باعث وہ مسلمانوں کے دشمن بن چکے تھے اور ان سے بدلہ لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ ادھر ایرانیوں کو یقین تھا کہ عراق میں اسلامی سلطنت کا قیام ان کے لیے پیغام موت سے کم نہیں اس لیے وہ بھی اس فکر میں تھے کہ کب موقع ہاتھ آئے اور وہ مسلمانوں کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ایک بارگی حملہ کر کے انہیں حدود عراق سے پیچھے دھکیل دیں۔ خالد بھی سمجھتے تھے کہ ان کے عراق سے چلے جانے کے بعد ایرانی ضرور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اسی لیے شام جانے سے پیشتر انہوں نے تمام مسلمان عورتوں، بچوں اور کمزور مردوں کو مدینہ بھجوا دیا تھا۔ ثنیٰ کے سامنے یہ تمام باتیں روز روشن کی طرح عیاں تھیں اور وہ عجیب منحصر میں گرفتار تھے۔ ثنیٰ ہی تھے جنہیں ابو بکرؓ نے سب سے پہلے عراق پر چڑھائی کا کام سپرد کیا تھا اور انہیں کی مدد کے لیے خالد بن ولید اور دوسرے اسلامی لشکر عراق بھیجے گئے تھے۔ اس

امیر کی خلافت کے پانچویں سال پیش آیا۔ اس صورت میں پہلی معزولی قیادت عامہ سے
 ہزار پاتی ہے اور دوسری معزولی، جو پہلی معزولی سے چار سال بعد وقوع میں آئی، صرف اس
 مارت سے تھی جو انفرادی طور پر انہیں ایک حصہ فوج پر حاصل تھی۔

یہ ہے ہماری رائے جس پر ہم مضبوطی سے قائم ہیں۔ اس رائے کو تسلیم کرنے
 سے ان مختلف شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے جو اس ذیل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر خالدؓ صرف
 اس فوج کے امیر ہوتے جو عراق سے ان کے ساتھ آئی تھی تو عمرؓ کو ان کی معزولی کا حکم بھیجنے کی
 ضرورت نہ ہوتی اور طبری کی روایت کے مطابق جنگ یرموک کے بعد اور بلاذری کی
 روایت کے مطابق دمشق کی فتح کے بعد ابو عبیدہ دوبارہ تمام اسلامی فوجوں کی قیادت سنبھال
 لیتے۔



”ثنیٰ کی جانب سے شہریان کے نام۔ تمہارا حال دو صورتوں سے خالی نہیں۔ یا تو تم سرکش ہو۔ یہ چیز تمہارے لیے بری ہے۔ ہمارے لیے اچھی۔ یا تم جھوٹے ہو اور یہ تمہیں پتا ہی ہے کہ اللہ کے نزدیک اور اس کے بندوں کی نظروں میں عقوبت اور فضیحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ جھوٹے بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ تمہارے خط سے ہمیں علم ہو گیا ہے کہ اب تم اس حد تک مجبور ہو گئے ہو کہ مرغیاں اور سور چرانے والوں کے سوا تمہیں اور لوگ ہمارے مقابلے میں بھیجنے کے لیے ملتے ہی نہیں۔ پس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارا مکر و فریب خود تم پر ہی لوٹا دیا اور تم مرغیاں چرانے والوں سے مدد لینے پر مجبور ہو گئے۔“

جب اہل ایران کو ثنیٰ کے اس خط کا علم ہوا اور یہ بھی پتا چلا کہ وہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے خود سرحد ایران کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہیں ہرگز توقع نہ تھی کہ خالدؓ کے چلے جانے کے بعد بھی مسلمانوں میں اس قدر قوت باقی رہی ہوگی کہ وہ اس بے باکی سے ان کے بادشاہ کو جواب دیں گے۔ بعض لوگوں کو اپنے بادشاہ کا انداز تحریر بھی بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے اس سے کہا:

”آپ نے خط لکھ کر مسلمانوں کو اور دلیر بنا دیا ہے۔ براہ مہربانی آئندہ جب آپ کسی کو خط لکھیں تو پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں۔“

ثنیٰ مدائن سے پچاس میل دور بابل کے کھنڈروں میں ایک اونچی جگہ خیمہ زن ہو کر ہرمز کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ آخر ہرمز بھی آ پہنچا۔ اسے کامل اطمینان تھا کہ مسلمان اس کے چنگل سے کسی طرح بھی نہ نکل سکیں گے اور وہ انہیں تباہ کر کے ہی دم لے گا۔ اس کا مہیب ہاتھی دائیں بائیں زور زور سے سونڈ ہلا رہا تھا۔ مسلمانوں کو آج تک کبھی ہاتھی سے پالانہ پڑا تھا۔ یہ خوف ناک جانور دیکھ کر ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ ثنیٰ کو بھی یقین ہو گیا کہ جب تک ہاتھی میدان جنگ میں موجود رہے گا مسلمان اطمینان سے ایرانیوں کا

صورت میں شنی کے لیے یہ بات قطعاً ناقابل برداشت تھی کہ انہیں اسی سرزمین میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے۔ جہاں سب سے پہلے انہی کے فاتحانہ قدم پڑے تھے۔

ان تمام امور کے علاوہ ایک اور بات بھی مسلمانوں کے لیے حد درجہ پریشان کن تھی اور وہ یہ کہ سالہا سال کی نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑوں کے بعد اہل ایران نے بالاتفاق شہر ایران ابن اردشیر بن سابور کو اپنا شہنشاہ تسلیم کر لیا تھا اور ساری رعایا نے بہ دل و جان اس کی اطاعت کرنے کا عہد کیا تھا۔ نئے بادشاہ کو کچھ دن تو سلطنت کا اندرونی نظم و نسق درست کرنے میں لگے۔ جب اس طرف سے فراغت نصیب ہو گئی تو نسب سے پہلے اس نے عراق کی طرف توجہ کی خالد عراق کی آدھی فوج لے کر شام جا چکے تھے۔ شہر ایران کو اس سے بہتر موقع مسلمانوں کو عراق سے نکالنے کا نظر نہ آیا۔ اس نے فوراً ہر مز کو دس ہزار کی جمعیت کے ساتھ شنی کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ہر مز ایک مہیب ہاتھی پر سوار ہو کر اس عزم کے ساتھ روانہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کو عراق کے چپے چپے سے نکال کر انہیں عرب کی حدود میں پہنچا کر ہی دم لے گا۔

جب شنی کو ان تیاریوں اور ہر مز اور اس کے لشکر کی نقل و حرکت کی اطلاعات ملیں تو انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہر مز مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں سے گزرتا ہوا حیرہ پہنچے جہاں وہ اس وقت مقیم تھے بلکہ اپنا لشکر لے کر خود اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے دونوں بھائیوں، معنی اور مسعود کو بالترتیب میمنہ اور میسرہ پر مقرر کیا اور حیرہ سے روانہ ہو کر بابل کے کھنڈروں تک آ پہنچے۔ ابھی ان کا سفر جاری تھا کہ انہیں شہر ایران شہنشاہ ایران کا خط ملا جس میں لکھا تھا:

”میں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایرانیوں کا ایک لشکر بھیجا ہے۔

ہیں تو وہ مرغیوں اور سوروں کے چرانے والے لیکن تمہارا بھر کس

اچھی طرح نکال دیں گے۔“

شنی نے شہنشاہ ایران کے قاصد کے ہاتھ سے خط لیا، پڑھا اور اسی وقت یہ جواب

لکھ کر اس کے حوالے کر دیا:

دی تھی اور وہ تخت پر قبضہ کرنے کی خاطر ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ موجودہ حالات ثنی کے لیے انتہائی سازگار تھے۔ انہوں نے ان سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہا اور یہ سوچ کر کہ نہ معلوم آئندہ حالات کیا رخ اختیار کریں، مدائن کی جانب کوچ کر دیا اور ایرانیوں سے لڑتے بھڑتے شہر کے دروازوں تک جا پہنچے۔ ان کی عین خواہش مدائن کو فتح کرنے کی تھی۔ لیکن اس کے لیے زبردست جمعیت کی ضرورت تھی جو ان کے پاس موجود نہ تھی۔ ابو بکرؓ بھی ان کی مدد کے لیے کوئی لشکر روانہ نہ کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت تمام فوجیں شام میں رومیوں سے برسر پیکار تھیں۔

بہت کچھ سوچ بچار کے بعد انہوں نے ابو بکرؓ کو ایک خط لکھا جس میں فتوحات کی خوش خبری دینے کے بعد ان مرتد قبائل سے مدد لینے کی اجازت طلب کی جو توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور جن کے متعلق ابو بکرؓ نے حکم دے دیا تھا کہ انہیں کسی اسلامی فوج میں شامل نہ کیا جائے۔ ثنی جانتے تھے کہ ابو بکرؓ ان کی درخواست آسانی سے قبول نہ کریں گے لیکن دوسری طرف انہیں یہ بھی علم تھا کہ سابق مرتد قبائل اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں اور اسلامی افواج میں شامل ہونے کے لیے بے چین ہیں۔

خط لکھے ہوئے عرصہ ہو گیا لیکن ثنی کو جواب موصول نہ ہوا۔ اس پر انہوں نے خود مدینہ جا کر ابو بکرؓ سے بالمشافہ گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ لشکر کو زیریں عراق میں سرحد کے قریب لے آئے اور بشر بن فصاحیہ کو عراق میں اپنا قائم مقام بنا کر خود مدینہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ابو بکرؓ کو مرض الموت میں مبتلا پایا۔ پھر بھی ابو بکرؓ نے گرم جوشی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ بڑی توجہ سے ان کی باتیں سنیں اور عمرؓ کو بلایا جنہیں وہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کر چکے تھے۔ عمرؓ آئے تو انہوں نے فرمایا:

”عمرؓ! میں جو کہتا ہوں اسے سنو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ مجھے امید نہیں کہ میں آج شام تک زندہ رہ سکوں گا۔ میرے مرنے کے بعد تم کل کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے ثنی کے ساتھ لوگوں کو لڑائی پر روانہ کر دینا۔ تمہیں کوئی مصیبت دینی کام اور حکم الہی سے غافل نہ کر پائے۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے رسول اللہؐ کی وفات کے بعد کیا

مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ خود چند لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے، تلواریں سونت کر ہاتھی پر پل پڑے اور اسے مار کر ہی دم لیا۔ مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی بے چینی دور ہو گئی اور انہوں نے نئے جوش اور نئے ولولے سے ایرانیوں پر حملہ کر دیا اور اس وقت تک بس نہ کیا جب تک انہیں شکست فاش نہ دے لی۔ ایرانی لشکر نے بدحواس ہو کر بھاگنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں مدائن کے دروازوں تک پہنچا کر ہی دم لیا۔

ایران میں دوبارہ خلفشار:

ہرمز کی شکست کی خبر شہر ایران پر بجلی بن کر گری۔ اسے اسی وقت بخار چڑھ آیا اور اسی حالت میں اس نے جان دے دی۔ سرداران ایران نے اس کی جگہ کسریٰ کی بیٹی کو تخت پر بٹھانا چاہا تا کہ ایک بار پھر وہ اپنی طاقت و قوت کو مجتمع کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن ابھی اسے سریر آرائے سلطنت ہوئے چند روز ہوئے تھے کہ اسے معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ سابور بن شہریران تخت پر بیٹھا۔ اس نے فرخ زاد کو اپنا وزیر بنایا اور اس سے کسریٰ کی بیٹی آذر میدخت کی شادی کرنی چاہی لیکن آذر میدخت شاہی خاندان کے باہر شادی کرنے پر رضامند نہ تھی۔ اس نے سابور سے کہا ”اے ابن عم! کیا تم میرے غلام سے میری شادی کرو گے؟ میں یہ بات کسی طرح منظور نہیں کر سکتی۔“ لیکن سابور نے اس کی ایک نہ سنی اور بڑی تلخ کلامی سے پیش آیا۔ اس پر آذر میدخت نے ایک مشہور عجمی بہادر سیاؤخش رازی کو ساتھ ملایا۔ شادی کی رات کو جب فرخ زاد جملہ عروسی میں داخل ہوا: سیاؤخش نے اس پر اچانک حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد وہ آذر میدخت اور اس کے اعوان و انصار کو ساتھ لے کر سابور کے محل پر آیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ پہرے داروں نے مزاحمت کی لیکن یہ لوگ انہیں قتل کر کے محل میں گھس گئے اور سابور کو مار ڈالا۔ آذر میدخت تخت شاہی پر متمکن ہو گئی۔

ان واقعات کی اطلاع ثنی کو ملی تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایرانیوں کا اتحاد ان کے لیے سخت خطرے کا باعث تھا لیکن اب اللہ نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال

سولہواں باب

جمع قرآن

غزوہ یمامہ کے اثرات:

جمع قرآن کریم کی تاریخ بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غزوہ یمامہ کا ذکر دوبارہ کریں کیونکہ اسی جنگ کے نتیجے میں اس عظیم الشان کام کو لباس عمل پہنانے کا خیاں بعض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا۔ ابتداءً ہم نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جنگوں اور فتوحات کے واقعات کے تسلسل میں فرق نہ آئے۔

جنگہائے مرتدین میں غزوہ یمامہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ جنگ نہ صرف بڑی ہولناک تھی بلکہ اثرات کے لحاظ سے بھی دور رس نتائج کی حامل تھی۔ مسلمانوں کے حبیب کے قتل سے سارے عرب کے مدعیان نبوت پر ضرب کاری لگی، بحرین میں مرتدوں کے استیصال سے بنو حنیفہ کو دوبارہ اسلام لانے کی توفیق ملی اور اسی امر نے ثنی بن حارث شیبانی کو عراق کی طرف پیش قدمی کرنے کی جرات دلائی۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر شکست دینے کے لیے خالد بن ولید نے پوری قوت صرف کر دی تھی۔ ادھر مسلمانوں نے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا ادھر مسلمانوں کا بھی کچھ کم نقصان نہ ہوا تھا۔ ان کے بارہ آدمیوں نے جام شہادت نوش کیا تھا جن میں کبار صحابہ اور حافظ قرآن کی ایک کثیر تعداد شامل تھی۔

جہاں یہ فتح مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے دل خوش کن تھی کہ اس کے ذریعے

کیا تھا حالانکہ اس وقت مسلمان ایک بڑے ابتلاء میں تھے۔ اگر میں اس وقت اللہ اور اس کے رسولؐ کے احکام کی بجا آوری میں دیر کرتا اور کمزوری دکھاتا تو نہ صرف مدینہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نذر ہو جاتا بلکہ اسلام کا بھی خاتمہ ہو جاتا۔ جب اہل شام پر فتح حاصل ہو جائے تو اہل عراق کو عراق واپس بھیج دینا کیونکہ وہ عراق ہی کے کاموں کو خوب انجام دے سکتے ہیں اور عراق ہی میں ان کا دل کھلا ہوا ہے۔“

ابو بکرؓ کی وصیت کے مطابق عمرؓ نے پہلا کام یہ کیا کہ ثنی کے ساتھ ایک فوج عراق بھیجی انہیں سابق مرتدین کو اسلامی افواج میں شامل ہونے کی اجازت بھی مل گئی تھی کیونکہ سب اسلام طاقت پکڑ چکا تھا اور ان کی طرف سے کسی قسم کے فتنہ و فساد کا اندیشہ باقی نہ رہا تھا۔



جائے گی اور اس طرح قرآن کریم کا بیشتر حصہ ضائع ہو جائے گا۔
میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں تاکہ وہ مٹنے
سے محفوظ رہے۔“

ابوبکرؓ نے اب تک اس معاملے کے متعلق کچھ نہ سوچا تھا۔ اس لیے جونہی انہوں
نے عمرؓ کی زبان سے یہ باتیں سنیں، فرمایا:

”میں وہ کام کیونکر کر سکتا ہوں جسے رسول اللہؐ نے نہیں کیا۔“

اس پر دونوں بزرگوں کے درمیان طویل گفتگو ہوئی جس کی تفصیل مورخین نے
بیان نہیں کی مگر آخر ابو بکرؓ عمرؓ کی رائے سے متفق ہو گئے اور انہوں نے زیدؓ بن ثابت کو طلب
فرمایا۔

اس کے متعلق صحیح بخاری میں زیدؓ بن ثابت کی ایک روایت درج ہے۔ جس میں
وہ فرماتے ہیں:

”جنگ یمامہ کے بعد ایک دن ابو بکرؓ نے مجھے طلب فرمایا۔ جب میں
ان کے پاس پہنچا تو عمرؓ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر
فرمایا۔ عمرؓ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنگ یمامہ میں متعدد
حفاظ شہید ہو گئے ہیں۔ اگر جنگوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور کسی
وقت خدا نہ خواستہ تمام حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو
جائے گا اس لیے میری رائے میں آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں
کہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے۔ زیدؓ بن ثابت کہتے ہیں
ابو بکرؓ نے فرمایا ”میں نے یہ سن کر عمرؓ سے کہا میں وہ کام کیونکر کر سکتا
ہوں جسے رسول اللہؐ نے نہیں کیا لیکن عمرؓ نے کہا اس کام میں امت کی
بھلائی ہے اس لیے اسے ضرور کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی بات پر
اتنا اصرار کیا کہ آخر اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا اور میں نے بھی عمرؓ
کی رائے سے اتفاق کر لیا۔“ زیدؓ بن ثابت کہتے ہیں کہ اس وقت عمرؓ
سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ ابو بکرؓ نے مجھ سے کہا تم جوان اور

سے عرب میں ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا وہاں یہ امر سخت غم و اندوہ کا موجب تھا کہ اس جنگ میں کبار صحابہ اور حافظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی اور اس طرح انہیں ایسے عظیم نقصان سے دو چار ہونا پڑا تھا جس کی تلافی کی کوئی صورت انہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ عمر بن خطاب کو تو خصوصیت سے سخت رنج پہنچا تھا کیونکہ ان کے بھائی زید اس معرکے میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے رنج و الم کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے بیٹے عبداللہ اس جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دے کر واپس مدینہ آئے تو ان سے کہا:

”جب تمہارے چچا زید شہید ہو گئے تو تم کیوں چلے آئے۔ تم نے اپنا منہ مجھ سے کیوں نہ چھپا لیا؟“

عبداللہ نے صرف یہ جواب دیا:

”انہوں نے حصول شہادت کی تمنا کی، انہیں مل گئی۔ میں نے بھی اس غرض کے لیے پوری جدوجہد کی لیکن افسوس میں اسے حاصل نہ کر سکا۔“

حضرت عمرؓ کا مشورہ:

لیکن اپنے بھائی اور دیرینہ رفقاء کی شہادت کا الم ناک حادثہ عمرؓ کو اس کام کے متعلق غور و فکر کرنے سے نہ روک سکا جو بلاشبہ اسلامی تاریخ کے عظیم الشان کارناموں میں سے ہے۔ غزوہ یمامہ میں حافظوں کی ایک کثیر تعداد شہید ہو چکی تھی اور ابھی جنگوں کا سلسلہ جاری تھا جو کسی طرح ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ یہ دیکھ کر عمرؓ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور آئندہ جنگوں میں حفاظ کثرت سے شہید ہونے لگے تو قرآن بالکل مٹ جائے گا اس لیے اسے ایک جگہ جمع کر لیا جائے تاکہ اس کے مٹ جانے کا خطرہ جاتا رہے۔ اس معاملے پر انہوں نے کئی دن تک خوب غور و فکر کیا اور اس کے بعد ایک دن مسجد میں ابو بکرؓ کے سامنے اسے پیش کرتے ہوئے کہا:

”یمامہ کی جنگ میں حفاظ کی بھاری تعداد نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ دوسری جنگوں میں بھی حفاظ کی اکثریت شہید ہو

کیا گیا تھا وہ ابو بکرؓ کے پاس محفوظ رہے۔ ان کی وفات کے بعد
ام المؤمنین حفصہ کے پاس آ گئے۔“

یہ ہے زید بن ثابت کی وہ حدیث جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں درج کی ہے۔
تمام روایات اس کی صحت پر متفق ہیں۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ زید نے جو قرآن جمع کیا تھا اس
میں سورتوں کی کوئی خاص ترتیب مقرر نہ تھی اور یہ بالترتیب ابو بکرؓ اور ام المؤمنین حفصہؓ کے
پاس منتقل ہوتا رہا۔

دیگر روایات:

ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ قرآن کریم کو سب سے پہلے جمع کرنے کا
شرف عمرؓ کو حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک آیت کے متعلق دریافت فرمایا تو لوگوں نے جواب
دیا کہ یہ آیت فلاں صحابی کو یاد تھی لیکن وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ یہ سن کر انہوں نے
انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فوراً قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ مگر یہ روایت
اس سلسلے میں بیان کی ہوئی دیگر تمام روایات کے متناقض ہے۔ عمرؓ نے قرآن کریم کو جمع
کرنے کا مشورہ تو بے شک سب سے پہلے دیا لیکن اسے جمع کرنے کا فخر ابو بکرؓ کے سوا اور کسی
کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ علیؓ کی مندرجہ ذیل روایت بھی ہماری رائے کی تائید کرتی ہے جس
میں وہ فرماتے ہیں:

”اللہ ابو بکرؓ پر رحمت نازل فرمائے۔ قرآن کریم جمع کرنے کے کام
میں وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اجر کے مستحق ہیں کیونکہ انہیں
نے سب سے پہلے اسے جمع کیا۔“

جن لوگوں کی رائے میں قرآن کریم جمع کرنے کا کام عمرؓ کے ذریعے سے انجام
پذیر ہوا تھا ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے یہ کام شروع کرنا چاہا تو پہلے ایک خطبہ دیا جس
میں صحابہ کو ہدایت کی کہ جس جس شخص نے قرآن کریم کا کوئی حصہ رسول اللہؐ سے براہ
راست حاصل کیا ہو وہ اسے ہمارے پاس لائے۔ صحابہ کی عادت تھی کہ وہ رسول اللہؐ سے جو

عقل مند انسان ہو۔ ہم تمہاری صداقت اور راست گفتاری میں کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے۔ رسول اللہؐ کے زمانے میں وحی لکھنے کا شرف بھی تمہیں حاصل ہوتا رہا ہے اس لیے قرآن کریم کو تلاش کر کے اسے ایک جگہ جمع کر دو۔ واللہ! اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانے کا حکم دیا جاتا تو یہ کام میرے قرآن جمع کرنے سے زیادہ سہل ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دونوں وہ کام کس طرح کر سکتے ہیں جسے رسول اللہؐ نے نہیں کیا۔ لیکن عمرؓ کی طرح ابو بکرؓ نے بھی یہی کہا کہ اس میں امت کی بھلائی ہے۔ وہ برابر میری باتوں کا جواب دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ابو بکرؓ اور عمرؓ کی طرح میرا بھی سینہ کھول دیا چنانچہ میں نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی اور قرآن کریم کو تلاش کرنے اور چمڑے، لکڑی، پتھر کے ٹکڑوں اور آدمیوں کے سینوں سے جمع کرنا شروع کیا۔ سورہ توبہ کی دو آیتیں مجھے خزیمہ انصاری سے ملیں۔ ان کے سوا اور کسی کے پاس وہ آیتیں نہ مل سکیں۔ آتیں یہ تھیں: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَان تَوَلَّوْا فَعَلَّ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جب ہم نے قرآن کریم کے اوراق لکھ لیے تو معلوم ہوا کہ ان میں سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں۔ جسے میں رسول اللہؐ کی زبان مبارک سے سنا کرتا تھا۔ آخر وہ آیت بھی خزیمہ انصاری سے ملی جن کی اکیلی شہادت کو رسول اللہؐ نے دو آدمیوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ آیت یہ تھی: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ۔ یہ آیت مل جانے پر میں نے اسے سورہ مذکورہ بالا میں شامل کر لیا۔ جن اوراق میں قرآن کریم جمع

پیش کی ہے کہ ”رسول اللہؐ فوت ہو گئے اور قرآن کسی ایک جگہ جمع نہ تھا۔“ مستشرقین کا ایک مخصوص گروہ بھی اسی امر کو قابل ترجیح قرار دیتا ہے مشہور انگریز مورخ سر ولیم میور تو اپنی کتاب کے مقدمے میں زید بن ثابت کا یہ قول بڑے زور سے اپنی تائید میں پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”قرآن کریم کے اجزاء نہایت سادہ طور پر ایک دوسرے سے ملا دیئے گئے ہیں، اس میں کسی قسم کا تکلف نہیں برتا گیا اور فنی مہارت اور چابک دستی کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اس امر سے جمع کرنے والے شخص کے ایمان و اخلاص اور اس سچی عقیدت کا پتا چلتا ہے جو اسے اس کتاب سے تھی۔ ان آیات مقدسہ سے مرتب کی گہری عقیدت اور احترام ہی کا نتیجہ تھا کہ اس نے انہیں باقاعدہ ترتیب دینے کی کوشش نہ کی بلکہ جو آیات اسے ملتی گئیں، انہیں وہ ایک جگہ جمع کرتا گیا۔“ جو مستشرقین اس رائے کے موید ہیں وہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت اور ان کے معاونین نے قرآن جمع کرتے وقت اس کی نزولی ترتیب ملحوظ خاطر نہیں رکھی اور مکہ میں اترنے والی آیات کو مدینہ میں نازل ہونے والی آیات سے پہلے درج کرنے کا کوئی التزام نہیں کیا بلکہ بلا لحاظ اس بات کے کہ موقع اور محل متقاضی ہے یا نہیں، مکی سورتوں کے درمیان مدنی آیات کو داخل کر دیا۔ مستشرقین کی رائے میں اگر زید بن ثابت تاریخی ترتیب مد نظر رکھتے تو یہ چیز علمی تحقیق کے سلسلے میں بہت مفید ثابت ہوتی اور رسول عربی کے حالات کی چھان بین کرنے اور آپ کی سیرت کو پرکھنے میں اس سے بے حد مدد ملتی۔“

مستشرقین یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن جمع کرنے والوں نے آیات کو ان کے موضوعات کے اعتبار سے بھی ترتیب نہیں دیا۔ اس کے نتیجے میں ایک ہی سورت میں قصص اور تاریخ کے متعلق بھی باتیں ملتی ہیں

کچھ سنتے اسے چڑوں، تختیوں اور ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب عمر کے پاس لے آئے۔ وہ کسی شخص سے اس وقت تک قبول نہ کرتے تھے جب تک وہ اپنے ثبوت میں دو گواہ نہ پیش کر دیتا تھا جو آ کر یہ گواہی دیتے تھے کہ واقعی یہ آیات رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی تھیں۔ عمر اس کام کو ابھی ختم نہ کرنے پائے تھے کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کے بعد عثمان نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیا۔ انہوں نے زید بن ثابت کو بلا کر قرآن کریم جمع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا اور ہدایت کی اگر طرز تحریر میں کہیں اختلاف واقع ہو تو اسے مضر کی زبان میں لکھ لیا کرو۔ کیونکہ قرآن کریم مضر ہی کے ایک شخص (رسول اللہ) پر نازل ہوا تھا۔

قرآن جمع ہونے کا زمانہ:

قبل اس کے کہ میں تاریخ جمع قرآن پر روشنی ڈالوں ابو بکر کے اس قول کی تشریح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں وہ کام کیونکر کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ نے نہیں کیا۔ رسول اللہ پر وحی کا نزول، نبوت تفویض ہونے کے وقت سے مدینہ میں وفات کے وقت تک، مسلسل تیس سال تک ہوتا رہا۔ بعض اوقات چند آیات نازل ہوتی تھیں، بعض اوقات پوری سورت نازل ہو جاتی تھی۔ سب سے پہلی وحی جو آپ پر نازل ہوئی۔ وہ سورہ قلم کی یہ آیات تھیں: اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ خلق الانسان من علق، اقرأ و ربك اکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس سورت کی بقیہ آیات، جنہیں ہم آج کل قرآن کریم میں مندرجہ بالا آیات کے ساتھ شامل پاتے ہیں۔ نہ صرف بعد میں نازل ہوئیں بلکہ ان کا نزول وحی کے بیشتر حصے کے نزول کے بعد ہوا۔ کیا ابو بکر کے مندرجہ بالا قول کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ رسول اللہ کی وفات تک قرآن کریم پر اگندہ حالت میں تھا۔ نہ اس کی آیات میں کوئی ترتیب تھی نہ سورتوں میں۔ سب متفرق حالت میں تھیں اور جو ترتیب آج کل نظر آتی ہے وہ اس زمانے میں مفقود تھی؟

بعض مورخین کا خیال یہی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت قرآن کریم واقعی منتشر اور پراگندہ حالت میں تھا۔ اپنی تائید میں انہوں نے زید بن ثابت کی یہ حدیث بھی

زین بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سارا قرآن رسول اللہ کے سامنے پڑھا۔

مسلم اور بخاری میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ ”رسول اللہ کی زندگی میں جملہ اشخاص نے قرآن کریم جمع (حفظ) کیا تھا اور چاروں انصار میں سے تھے یعنی ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید۔“

انس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کے عہد مبارک میں ان چاروں صحابہ کے سوا اور کسی صحابی نے قرآن کریم حفظ نہ کیا تھا۔ اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے قرطبی لکھتے ہیں:

”یہ امر متعدد شہادتوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں عثمانؓ، علیؓ، تمیم الداری، عبادہ بن صامت اور عبد اللہ بن عمرو بن عاص نے بھی قرآن کریم حفظ کیا تھا۔ ان روایات کی موجودگی میں انس بن مالک کی روایت قرآن کریم انصار کے چار آدمیوں کے سوا اور کسی نے حفظ نہیں کیا“ کا مطلب یہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان چار آدمیوں کی جماعت کے سوا اور کسی بھی شخص نے براہ راست رسول اللہ سے سن کر قرآن حفظ نہ کیا۔ صحابہ مختلف اوقات میں رسول اللہ سے قرآن سن کر حفظ کر لیا کرتے تھے اور دوسروں کو سکھاتے تھے۔ پھر بھی تمام صحابہ کے لیے ناممکن تھا کہ انہوں نے قرآن کریم کی تمام آیات رسول اللہ کی زبان مبارک سے سنی ہوں۔ اس طرح اکثر صحابہ نے قرآن کریم کا کچھ حصہ رسول اللہ سے اور کچھ حصہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے حاصل کیا تھا۔ متعدد روایات سے پتا چلتا ہے کہ چاروں اصحاب کو براہ راست رسول اللہ سے سن کر قرآن کریم حفظ کرنے کا شرف اس لیے حاصل ہوا کہ یہ بہت مخلص اور سابقون الاولون مسلمانوں میں سے تھے اور آپ ان سے بہت لطف و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔

اور ایمان و عبادات کے متعلق بھی..... تشریحی احکام بھی ملتے ہیں اور انسانی فطرت سے تعلق رکھنے والے قوانین بھی۔ مزید برآں مختلف موضوعات کے متعلق ایک قسم کی روایات کو بجائے ایک جگہ اکٹھا کرنے کے مختلف سورتوں میں پھیلا دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک چیز کو تلاش کرنے کے لیے سارے قرآن کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے تو کہیں جا کر گوہر مراد حاصل ہوتا ہے۔ مستشرقین کی رائے میں جامعین قرآن نے موضوعات کا خیال نہ رکھ کر اور بالخصوص ترتیب نزولی سے غفلت برت کر زبردست کوتاہی کا ثبوت دیا ہے اور اس طرح دنیا کو ایک علمی انکشاف سے محروم کر دیا ہے۔

مستشرقین کی ان تمام آراء کی بنیاد ابو بکرؓ کے اس قول پر ہے کہ میں وہ کام کیونکر کر سکتا ہوں جو رسول اللہؐ نے نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے ابو بکرؓ کا یہ قول سمجھنے میں سخت غلطی کھائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ آیات قرآنیہ ابتدائے نزول ہی سے پراگندگی کی حالت میں تھیں حالانکہ خلیفہ اول اور خلیفہ سوم کے زمانوں میں انہیں یکجا کر دیا گیا۔ لیکن یہ خیال قطعاً درست نہیں۔ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ تمام آیات رسول اللہؐ کی زندگی میں آپ کے حکم سے سورتوں میں مرتب ہو چکی تھیں۔ اس دعوے کے ثبوت میں چند احادیث درج کی جاتی ہیں۔

”مالک کہتے ہیں کہ ”قرآن مجید اسی طرح تالیف کیا گیا جس طرح صحابہ اسے رسول اللہؐ سے پڑھتے ہوئے سنتے تھے۔“
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں:

”میں نے رسول اللہؐ کی زبان مبارک سے ستر سے زیادہ سورتیں سن کر یاد کیں اور ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کی آیت تک سورہ بقرہ تلاوت کی۔“

لوگ بھی قرآن کریم لکھتے تھے جنہیں رسول اللہ ﷺ مختلف قبائل کی طرف قرآن سکھنے اور دینی تعلیم دینے کے لیے روانہ فرماتے تھے۔ یہ لوگ علیحدہ علیحدہ آیات نہ لکھتے تھے بلکہ پوری کی پوری سورتیں لکھتے تھے اور رسول اللہ ﷺ یہ سورتیں انہیں لکھواتے تھے۔

قرآن کریم سے بھی ہماری تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایہا المزمّل قم للیل الاقلیلًا نصفہ او انقص منه قليلًا اوزد علیہ ورتل القرآن آن ترتیلا (اے اوڑھنے والے! رات کو قیام کر، تھوڑے حصے کے لیے یعنی اس کا آدھا یا اس سے کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھالے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باتر تیب پڑھ۔) سورہ منزل کی آیات رسول اللہ ﷺ کی بعثت کی ابتداء میں نازل ہوئیں تھیں۔ اللہ کا اپنے نبی سے یہ مطالبہ کہ وہ رات کو اٹھ کر قرآن باتر تیب پڑھے ظاہر کرتا ہے کہ آیات قرآنیہ کسی بھی وقت بے ترتیب اور پراگندگی کی حالت میں نہ رہیں بلکہ جو نبی رسول اللہ ﷺ پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی آپ اسے اس کی جگہ رکھنے کا حکم دے دیتے تھے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب یہ آیت واتقوا یومًا ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، نازل ہوئی تو جبریل نے رسول اللہ ﷺ سے کہا۔ ”اے محمد! اسے سورہ بقرہ کی دو سو اسی ویں آیت کے شروع میں رکھیں۔“

قرآن کریم بار بار اپنی تعریف ”کتاب“ کے الفاظ سے کرتا ہے۔ سورہ بقرہ، فاتحہ کے بعد، قرآن کی سب سے پہلے سورت ہے۔ اس کا آغاز ہی اللہ اس آیت سے کرتا ہے، الم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ (یہ قرآن ایک کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا موجب ہے) اسی طرح اور بھی کئی جگہ قرآن کے لیے کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کتاب اس چیز کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو اور اس سے پہلے ہم متعدد احادیث کی رو سے ثابت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں

۱۔ ترتیل کے معنی صرف ٹھہر ٹھہر کر اتارنے اور بیان کرنے ہی کے نہیں بلکہ اس کے معنی میں تالیف اور ترتیب بھی شامل ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں ہے رتل القرآن احسن تالیفہ وابانہ و تمہل فیہ یعنی ترتیب کو نہایت عمدہ کیا اور اسے کھول کر اور ٹھہر ٹھہر کر بیان کیا۔ (مترجم)

یہ روایت بھی کثرت سے کتب احادیث میں مروی ہے کہ رسول اللہؐ ہر سال جبریل کے سامنے قرآن کریم کا ایک دور کیا کرتے تھے لیکن وفات والے سال آپ نے ایک کی بجائے دو دور کیے۔

سیرت نبوی میں بھی جو واقعات درج ہیں وہ ان متذکرہ بالا روایات کی پوری تائید کرتے ہیں۔ منجملہ دیگر واقعات کے عمرؓ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہے جو رسول اللہؐ کی بعثت کے دس سال بعد وقوع پذیر ہوا۔ جب دین اسلام نے مکہ میں فروغ حاصل کرنا شروع کیا اور اہل مکہ میں باہم تفریق پیدا ہونے لگی تو عمرؓ کو جو اس وقت حالت کفر میں تھے، سخت طیش آیا اور انہوں نے رسول اللہؐ کو قتل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ قتل کے ارادے سے آپ کی جانب جا ہی رہے تھے کہ راستے میں نعیم بن عبد اللہ سے ٹکرائے ہوئے۔ انہوں نے عمرؓ کو ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا کہ اس ہیئت میں کہاں جا رہے ہو۔ جب انہیں عمرؓ کے مقصد کا علم ہوا تو انہوں نے کہا۔ ”محمدؐ کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔“ یہ سن کر عمرؓ رسول اللہؐ کی طرف جانے کی بجائے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ باہر سے انہوں نے سنا کہ خواب ان دونوں کو قرآن سنارہے ہیں۔ انہوں نے گھر میں داخل ہو کر بہن اور بہنوئی دونوں کو زکوٰۃ کو بکرنا شروع کیا لیکن آخر انہیں اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور انہوں نے بہن سے کہا کہ جو کتاب تم پڑھ رہی تھیں مجھے بھی دکھاؤ۔ چنانچہ بہن چند اوراق اٹھالائیں۔ ان پر سورہ طہ لکھی ہوئی تھی۔ جب عمرؓ نے یہ صحیفہ پڑھا تو قرآنی اعجاز اور اس کے جلال کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت رسول اللہؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔

وہ اوراق، جن پر سورہ طہ لکھی ہوئی تھی، منجملہ ان کثیر صحیفوں کے تھے جو مسلمانوں کے درمیان متداول تھے اور جن پر سورہ طہ کے علاوہ قرآن کریم کی اور بھی کئی سورتیں لکھی ہوئی تھیں۔ عمرؓ کے اسلام لانے کے بعد رسول اللہؐ تیرہ برس زندہ رہے۔ آپ نے صحابہ کو ہدایت کر رکھی تھی کہ ”مجھ سے سوا قرآن کے اور کچھ نہ لکھا جائے اور اگر کسی نے قرآن کے سوال کوئی حدیث لکھ لی۔ تو وہ جیسے مبادیے۔“ یہ امر لازم تھا کہ صحابہ نماز میں تلاوت کرنے اور احکام دین سیکھنے کے لیے قرآن کریم کا جس قدر حصہ لکھ سکتے تھے لکھتے تھے۔ اسی طرح وہ

جب ابوبکرؓ کی بیعت ہو چکی تو علیؓ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ لوگوں نے یہ بات ابوبکرؓ سے جا کر کہی۔ انہوں نے علیؓ کو کہلا بھیجا ”کیا آپ میری بیعت کرنا پسند نہیں کرتے کہ اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے ہیں؟“ علیؓ نے جواب میں کہلا بھیجا۔ ”واللہ! یہ بات نہیں بلکہ مجھے ڈر ہے کہ مبادا لوگ کتاب اللہ میں زیادتی کر دیں اس لیے میں نے قسم کھالی ہے کہ اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلوں گا جب تک قرآن جمع نہ کر لوں۔“^۱

رسول اللہؐ کی وفات کے بعد قرآن کریم جمع کرنے میں علیؓ اکیلے نہ تھے بلکہ کئی اور صحابہ بھی اس کام میں ان کے شریک تھے۔ ابوبکرؓ نے جمع قرآن کے سلسلے میں علیؓ اور دوسرے صحابہ کے کام کو سراہا اور اس عظیم کام سے کسی ایک شخص کو روکنے کا خیال بھی ان کے دل میں پیدا نہ ہوا۔ وہ مطمئن تھے کہ اللہ ہی نے قرآن کریم نازل کیا ہے اور وہی اس کا محافظ ہے۔ کسی مسلمان کے دل میں اس بات کا خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ اپنی طرف سے قرآن کریم میں کمی بیشی کرے اور اگر کوئی ایسا کرے گا بھی، جس کا خدشہ علیؓ بن ابی طالب نے ظاہر کیا ہے تو اللہ خود ہی اپنی کتاب کی حفاظت فرمائے گا اور اسے اپنے ارادے میں قطعاً ناکام و نامراد رکھے گا۔ اسی لیے جب عمرؓ نے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم جمع کرنے کا کام شروع کرائیں تو ابوبکرؓ کو تردد ہوا کیونکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرتے تھے جو رسول اللہؐ نے نہ کیا ہو اور کسی ایسے کام سے پہلو تہی اختیار نہ کرتے تھے جو

۱۔ علیؓ کا یہ قول ”مجھے ڈر ہے کہ مبادا لوگ کتاب اللہ میں زیادتی کر دیں۔“ صرف سیوطی نے کتاب الاقان میں درج کیا ہے۔ دیگر مؤرخین نے علیؓ کا صرف یہ قول لکھا ہے ”میں نے قسم کھالی ہے کہ ایک اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلوں گا جب تک قرآن جمع نہ کر لوں۔“ ابن ابی داؤد نے کتاب المصاحف میں یہ روایت درج کی ہے کہ ابوبکرؓ نے بیعت کے چند روز بعد علیؓ کو کہلا بھیجا ”اے ابوالحسن! کیا آپ میری امارت سے ناراض ہیں؟“ انہوں نے جواباً کہلا بھیجا ”واللہ! نہیں، میں نے قسم کھالی ہے کہ سوا جمعہ کے گھر سے باہر نہ نکلوں گا۔“ پھر خود ابوبکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کر کے واپس چلے آئے۔ ابن ابی داؤد روایت کے آخر میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ دوسرے مؤرخین نے علیؓ کی جانب یہ قول منسوب کیا ہے ”میں اس وقت تک باہر نہ نکلوں گا جب تک قرآن جمع نہ کر لوں۔“ یہاں جمع کرنے سے مراد حفظ کرنا ہے کیونکہ اس وقت جو شخص قرآن کریم حفظ کر لیتا تھا اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس نے قرآن جمع کر لیا ہے۔

قرآن لکھا جاتا تھا۔ زید بن ثابت کا یہ قول ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ رسول اللہ وفات پا گئے اور قرآن کریم کسی ایک جگہ جمع نہ تھا لیکن ایک اور موقع پر انہوں نے فرمایا۔ ”ہم رسول اللہ کے پاس ہوتے تھے اور قرآن کو کپڑے کے ٹکڑوں پر تالیف کرتے تھے۔“ مطلب یہ کہ وہ رسول اللہ کی ہدایات اور اشارات کے مطابق متفرق آیات اپنے اپنے موقع پر لکھ لیا کرتے تھے چنانچہ تالیف کا لفظ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ علاوہ بریں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی پوری پوری سورتیں مثلاً بقرہ، آل عمران، نساء، اعراف، جن، نجم، رحمن اور قمر وغیرہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں سے پتا چلتا ہے کہ آیات کی ترتیب رسول اللہ کے عہد میں آپ کی ہدایات کے مطابق مکمل ہو گئی تھی اور قاریوں، حافظوں اور دوسرے مسلمانوں نے اسے اپنے اپنے سینوں میں مکمل طور پر محفوظ کر لیا تھا۔

صحابہ نہ صرف قرآن کو رسول اللہ کی زندگی ہی میں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا بلکہ چار اصحاب نے تو اسے باقاعدہ لکھ بھی لیا تھا۔ اس امر پر مورخین کا اتفاق ہے کہ جہاں تک آیات کی ترتیب کا سوال ہے، رسول اللہ کی وفات سے قبل لکھے ہوئے مصحفوں اور آپ کی وفات کے بعد مرتب کیے ہوئے مصحفوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ آیات کی ترتیب رسول اللہ نے اپنی زندگی میں خود فرمادی تھی، البتہ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کام رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔

جب یہ امر ثابت شدہ ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ کی زندگی ہی میں جمع ہو گیا تھا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکرؓ کے اس قول کا کیا مطلب لیا جائے گا جو انہوں نے جمع قرآن کی تجویز پیش کیے جانے پر عمرؓ سے کہا تھا یعنی میں وہ کام کیونکر کر سکتا ہوں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔“ اور وہ کیا دلیلیں تھیں جنہوں نے آخر ابو بکرؓ اور زید بن ثابت کے دلوں کو کھول دیا اور وہ دونوں عمرؓ کی تجویز کے مطابق قرآن کریم جمع کرنے پر متفق ہو گئے۔

یہ تھیں وہ وجوہ جن کے پیش نظر عمرؓ نے ابوبکرؓ سے جمع قرآن پر اصرار کیا۔ چونکہ عمرؓ کے دلائل بہت ٹھوس اور وزنی تھے اور اس میں سراسر اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھلائی مضمر تھی اس لیے ابوبکرؓ نے عمرؓ کی بات مان لی اور زید بن ثابت کو قرآن کریم جمع کرنے کا حکم دے دیا۔

چنانچہ ابو عبد اللہ زنجانی اپنی کتاب تاریخ القرآن میں لکھتے ہیں۔ ”شواہد سے پتا چلتا ہے عمرؓ کا موقف صرف یہ تھا کہ قرآن کریم کو، جو اب تک ہڈیوں، لکڑیوں اور کھالوں پر لکھا ہوا بکھرا پڑا تھا، باقاعدہ اوراق پر لکھ کر ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے لیکن صحابہ میں چونکہ حد درجہ احتیاط تھی اور وہ ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہتے تھے جسے رسول اللہؐ نے نہ کیا ہو اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ کام بدعت میں شمار نہ ہو۔“

حضرت عثمانؓ کے عہد میں جمع قرآن:

یہ بیان کرنے سے پہلے کہ جمع قرآن کے سلسلے میں کیا کام ہوا، یہ ذکر کر دینا ضروری ہے کہ عثمانؓ کے عہد میں جو واقعات پیش آئے انہوں نے ثابت کر دیا کہ عمرؓ نے جمع قرآن کے سلسلے میں جو رائے دی تھی وہ انتہائی صائب تھی اور انہوں نے اپنی دور رس نگاہوں سے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ اگر قرآن کریم ایک جگہ جمع نہ کیا گیا تو آئندہ مسلمانوں کو کس قدر عظیم خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا عمرؓ اور عثمانؓ کے عہد میں فتوحات کا سلسلہ بے حد وسیع ہو گیا تھا۔ مفتوحہ علاقوں میں نو مسلموں کو قرآن کریم پڑھانے اور سکھانے کا کام صحابہ کرام کے سپرد تھا لیکن اسلامی سلطنت کی حدود چونکہ بے حد وسیع ہو چکی تھیں اس لیے لوگوں کی قرأتوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا پھر یہ اختلاف آہستہ آہستہ وسعت اختیار کرنے لگا اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہماری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے۔ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ لوگوں نے قرأت کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر شروع کر دی اور اس طرح ایک زبردست فتنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حذیفہ بن یمان نے، جو اس زمانے میں آرمینیا اور آذربائیجان میں مصروف پیکار تھے، تکفیر و تفسیق کا بڑھتا ہوا طوفان دیکھ کر سخت خطرہ محسوس کیا۔ وہ فوراً مدینہ پہنچے اور عثمانؓ سے عرض کیا۔ ”امیر

آپ نے انجام دیا ہو۔ رسول اللہؐ نے قرآن کریم لکھنے کا کام عامۃ المسلمین کے سپرد کر رکھا تھا، بعض لوگوں کو خود رسول اللہؐ قرآن کریم لکھوا دیتے تھے۔ دوسرے لوگ ان کاتبین سے نقل یا سن کر سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ ابوبکرؓ چاہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بھی وہی طریقہ جاری رہے جو رسول اللہؐ کے عہد میں جاری تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ کر قرآن کریم لکھ لیں یا حفظ کر لیں۔ دربار خلافت سے بالخصوص اس کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا جائے۔

یہ تھی ابوبکرؓ اور زید بن ثابتؓ کی دلیل۔ لیکن جب عمرؓ نے اس بارے میں اصرار کرنا شروع کیا اور اس کے حق میں دلائل بھی دیئے تو ابوبکرؓ کو اپنی رائے تبدیل کرنی پڑی اور عمرؓ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے قرآن کریم جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ افسوس ہے کہ تاریخ سے اس گفتگو کی تفصیلات کا علم نہ ہو سکا جو اس باب میں ابوبکرؓ اور عمرؓ کے درمیان ہوئی، اگر تفصیلات بھی کتب تاریخ میں محفوظ ہوتیں تو اس سے معاملے کے کئی اور بھی پہلو نظروں کے سامنے آ جاتے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع قرآن کریم کے سلسلے میں وہ کون سا کام تھا جو رسول اللہؐ نے نہ کیا اور ابوبکرؓ اور زید بن ثابتؓ کو اسے کرتے ہوئے تردد ہوا کیونکہ جب آپؐ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپؐ اسے فوراً لکھوا کر ہدایت کر دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں جگہ لکھ لی جائے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو درست ہے آپؐ اتری ہوئی آیات کے بارے میں کاتبان وحی کو ان کا محل اور موقع بتا دیا کرتے تھے لیکن یہ تمام آیات متفرق جگہ لکھی ہوئی تھیں۔ چونکہ رسول اللہؐ پر وحی کا نزول تو اتر سے ہو رہا تھا اس لیے آپؐ اپنی زندگی میں اسے ایک جگہ جمع نہ کر سکے۔ لیکن آپؐ کی وفات کے بعد جب وحی کا نزول بند ہو گیا اور کتاب اللہ کامل ہو گئی تو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ جو کام رسول اللہؐ اپنی زندگی میں انجام نہ دے سکے اسے ضائع ہونے اور تحریف و تبدل کے خدشے کے پیش نظر آپؐ کے بعد فی الفور مکمل کر لیا جائے۔

ابن مسعود کی ناراضگی:

عمرؓ سے گفتگو کرنے کے بعد جب ابو بکرؓ کو انشراح صدر ہو گیا تو انہوں نے زید بن ثابت کو قرآن کریم جمع کرنے کا مہتمم بالشان کا سپرد کیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کو ابو بکرؓ کا یہ فعل ناگوار گزرا اور انہوں نے کہا:

”مسلمانو! مجھے تو قرآن کریم لکھنے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ایسے شخص کے سپرد یہ کام کر دیا گیا ہے جو میرے اسلام لانے کے وقت ایک کافر کے صلب میں تھا۔“

ان کی مراد زید بن ثابت سے تھی جو عبد اللہ بن مسعود کے اسلام لانے کے وقت پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب عثمان نے اپنے عہد میں زید بن ثابت کو قرآن کریم لکھنے کا کام سپرد کیا تھا اور چند صحابہ کو بھی اس کام میں ان کے ساتھ شامل کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے عبد اللہ بن مسعود نے دونوں مرتبہ ناراضگی کا اظہار کیا ہو چنانچہ قرطبی لکھتے ہیں۔

”ابو بکرؓ انباری کہتے ہیں، ابو بکرؓ اور عثمانؓ کی جانب سے زید کو جمع قرآن کا کام سپرد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان دونوں حضرات کو ابن مسعود سے کوئی پر خاش تھی۔ عبد اللہ یقیناً زید سے زیادہ فاضل سابقون الاولون میں شامل اور دیگر خدمات دینیہ میں ان سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے لیکن ان تمام خوبیوں اور فضیلتوں کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ جہاں تک حفظ قرآن مجید کا تعلق ہے ابن مسعود زید بن ثابت کے ہم پلہ نہ تھے۔“

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن مسعودؓ کی ناراضگی ابو بکرؓ اور عثمانؓ دونوں کے

عہد میں ظاہر ہوئی۔

ابن مسعود کی ناراضگی یہاں تک بڑھ چکی تھی کہ وہ صرف یہ کہنے پر اکتفا نہ کرتے تھے ”میں نے رسول اللہؐ کی زبان مبارک سے ستر سے زیادہ سورتیں سن کر یاد کیں لیکن زید

المومنین! امت کی خبر لیجئے، وہ ہلاک ہونے کو ہے۔ عثمانؓ نے پوچھا ”کیا ہوا؟“ حذیفہ نے سارا ماجرا عرض کر کے بتایا ”ہماری فوج میں عراق، شام اور حجاز کے لوگ شامل ہیں، ان کے درمیان قرأتوں میں سخت اختلاف واقع ہو گیا ہے اور نوبت ایک دوسرے کی تکفیر تک پہنچ گئی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی کتاب اللہ میں اسی طرح اختلاف نہ کرنے لگیں جس طرح یہود و نصاریٰ نے اپنی کتابوں میں کیا تھا۔“ حذیفہ کی باتیں سن کر عثمانؓ نے بھی خطرے کی اہمیت محسوس کی اور لوگوں کو جمع کر کے یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ لوگوں نے کہا ”آپ ہی بتائیے اس خطرے سے نبٹنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں۔“ انہوں نے فرمایا۔ ”میری رائے تو یہ ہے کہ لوگوں کو ایک قرأت پر اکٹھا کر دیا جائے کیونکہ اگر آج مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تو آئندہ پیدا ہونے والا اختلاف موجودہ رونما ہونے والے اختلاف سے بہت زیادہ سخت ہوگا۔“

تمام صاحب الرائے حضرات نے عثمانؓ کی تجویز کی تائید کی۔ اس پر انہوں نے ام المومنین حفصہؓ کو کہلا بھیجا کہ مصحف ابو بکرؓ کچھ روز کے لیے ہمیں دے دیجئے ہم اس سے نقلیں کرا کے مختلف علاقوں میں بھجوا دیں گے اور آپ کا مصحف آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ ام المومنین نے وہ مصحف عثمانؓ کو بھجوا دیا اور انہوں نے اس کی نقلیں کرا کے اطراف مملکت میں پھیلا دیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے باقی نسخوں اور تحریرات کو تلف کرنے کا حکم دے دیا۔

عثمانؓ کے عہد کا یہ اختلاف عمرؓ کی دور بینی اور بالغ نظری کا زبردست ثبوت ہے۔ عثمانؓ نے مصحف ابو بکرؓ کی نقلیں اطراف مملکت میں پھیلا کر اور باقی تمام مضمون کو تلف کرنے کا حکم دے کر مسلمانوں کے درمیان قرأت کا اختلاف مٹا دیا۔ اگر ابو بکرؓ قرآن جمع کرنے کا حکم نہ دیتے تو یہ اختلاف وسیع تر ہو جاتا اور مسلمانوں کو ایسے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا جو سیاسی فتنوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوتا۔ اسی امر کو دیکھتے ہوئے علیؓ بن ابی طالب نے فرمایا تھا اور بالکل سچ فرمایا تھا:

”قرآن کریم جمع کرنے کے کام میں ابو بکرؓ تمام لوگوں سے زیادہ اجر کے مستحق ہیں کیونکہ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن جمع کیا۔“

اللہ کی زندگی میں نہ سیکھا تھا بلکہ بعض حصے ایسے رہ گئے تھے جو انہوں نے آپ کی وفات کے بعد سیکھے۔ بعض ائمہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ عبد اللہ بن مسعود پورا قرآن سیکھنے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔“
یہ امر بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ابن مسعود کا مصحف قرآن کریم کی آخری دو سورتوں یعنی معوذتین سے خالی تھا۔

ابوبکرؓ نے زید بن ثابت کو جمع قرآن کریم کی ذمہ داری اس لیے سپرد کی تھی کہ وہ انہیں اس کام کا پوری طرح اہل سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے عمرؓ کے اصرار سے یہ کام شروع کرنے کا ارادہ کیا تو زید بن ثابت کو بلا کر کہا تھا:

”تم عقل مند نو جوان ہو۔ ہم تمہارے متعلق یہ خیال نہیں کر سکتے کہ تم کتاب اللہ میں تحریف و تبدل کر دو گے۔ تم رسول اللہؐ کے زمانے میں وحی لکھتے رہے ہو اس لیے اب ہم تمہیں قرآن کریم جمع کرنے کا کام سپرد کرتے ہیں۔“

قرطبی نے عبد اللہ بن مسعود پر زید بن ثابت کی فضیلت کے بارے میں ابوبکرؓ انباری کا جو قول اپنی کتاب میں درج کیا تھا اس کا کچھ حصہ ہم پہلے درج کر چکے ہیں بقیہ حصہ یہاں درج کیا جاتا ہے:

”ابوبکر انباری کہتے ہیں کہ زیدؓ عبد اللہ بن مسعود سے بڑھ کر قرآن کے حافظ تھے کیونکہ رسول اللہؐ نے اپنی زندگی میں انہیں سارا قرآن سکھا دیا تھا لیکن عبد اللہ بن مسعود نے رسول اللہؐ کی زندگی میں آپ سے ستر کے قریب سورتیں سیکھ کر حفظ کی تھیں، باقی سورتیں انہوں نے آپ کی وفات کے بعد سیکھیں۔ اس لیے جس شخص نے رسول اللہؐ کے زندگی میں قرآن کریم ختم کر کے اسے حفظ بھی کر لیا ہو اسی شخص کو حق پہنچتا ہے کہ وہ قرآن کریم جمع کرے اور اس کام کے لیے اسی کو دوسروں پر ترجیح دینی چاہیے۔“

ابوبکرؓ نے زید کو دیگر اصحاب رسول اللہؐ پر غالباً اس لیے بھی ترجیح دی کہ وہ نو جوان

بن ثابت اس وقت بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے پھرتے تھے۔ ”بلکہ عثمان کے عہد میں انہوں نے اہل عراق کو ابھارتا شروع کیا تھا کہ وہ جمع قرآن کریم کے کام میں زید بن ثابت کی اعانت نہ کریں۔ وہ کہتے تھے۔ ”میں نے اپنا مصحف چھپا لیا ہے اور جو بھی شخص اپنا مصحف چھپا سکتا ہے وہ ضرور چھپالے۔“

ایک دن انہوں نے خطبہ دیا اور کہا:

”اے لوگو! اپنا اپنا مصحف چھپا لو تم مجھ سے یہ امید کس طرح کر سکتے ہو کہ میں زید بن ثابت کی قرأت اختیار کروں گا حالانکہ میں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے ستر سے زائد سورتیں سنی اور یاد کی ہیں لیکن زید بن ثابت اس وقت بچے تھے اور اپنے بھجولیوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں کھیلتے کودتے پھرتے تھے۔ واللہ! مجھ سے زیادہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ فلاں آیت کہاں اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا اور کوئی نہیں۔ لیکن میں تم پر اپنی بڑائی نہیں جتاتا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا موجود ہے تو میں سفر کی سخت صعوبتیں اٹھاؤں گا اور اس کے پاس ضرور پہنچوں گا۔“

پھر بھی بڑے بڑے صحابہ نے ابن مسعود کی ان باتوں کو پسندیدگی کی نگاہوں سے نہ دیکھا۔ کیونکہ ان سے فتنہ پھیلنے کا اندیشہ تھا جس سے اسلام نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عبد اللہ بن مسعود بدری تھے اور زید بن ثابت بدری نہ تھے۔ ابن مسعود کو اسلام لانے میں یقیناً زید اور ان کے والد سے سبقت حاصل تھی۔ یہ بھی درست ہے کہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے ستر سے زیادہ سورتیں سیکھی تھیں، لیکن یہ ایسے ہمہ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ زید رسول اللہ کے کاتب تھے اور انہوں نے آپ کی وفات تک سارا قرآن آپ سے حاصل کر لیا تھا۔ یہ خصوصیت ایسی تھی جو عبد اللہ بن مسعود کو حاصل نہ تھی۔ قرطبی لکھتے ہیں:

”یہ بات بالعموم مشہور ہے کہ عبد اللہ بن مسعود نے سارا قرآن رسول

اور انہیں ترتیب وار ایک جگہ لکھنے میں انہوں نے حزم و احتیاط کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔ اس طرح وہ مصحف تیار ہو گیا جس نے آئندہ قرآن کریم کا کوئی حصہ ضائع ہونے کا خطرہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ جب عثمانؓ کو قرأتوں کا اختلاف مٹا کر تمام مسلمانوں کو ایک قرأت پر جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اسی مصحف کو سامنے رکھ کر اس کی نقلیں کرانے اور انہیں اطراف مملکت میں بھیج دینے کے احکام صادر کیے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ زید بن ثابتؓ نے اپنے مصحف میں قرآنی آیات اللہ کی تاریخ نزول کے لحاظ سے مرتب نہ کی تھیں۔ رسول اللہؐ اپنے زمانے میں آیات کی ترتیب خود مقرر فرما چکے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپؐ مدینہ میں اتری ہوئی آیات کی سورتوں میں شامل کر دیتے تھے۔ زید بن ثابتؓ کے لیے اپنی طرف سے کوئی ترتیب قائم کرنا غیر ممکن تھا۔ انہوں نے رسول اللہؐ کی مقرر فرمائی ہوئی ترتیب قائم رکھی اور اسی ترتیب کے مطابق قرآن کریم چمڑے کی کھالوں پر لکھ کر جمع کر دیا۔

زید کا طریق کار:

سوال پیدا ہوتا ہے کہ زید بن ثابتؓ نے جمع قرآن کریم کے سلسلے میں کیا طریق کار اختیار کیا۔ اس کا جواب بلا تردد یہی دیا جاسکتا ہے کہ وہی علمی اور تحقیقی طریق کار جو آج کل کے محققین اختیار کرتے ہیں۔ بہ اس ہمہ زیدؓ نے جس قدر محنت اور جاں فشانی سے کام کیا موجودہ محققین میں سے کسی کو اس کا عشر عشر بھی کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ابوبکرؓ نے اعلان کر دیا تھا کہ جس جس شخص نے قرآن کریم حفظ کیا ہو یا اس کا کوئی حصہ لکھا ہو وہ زیدؓ کو اس کی اطلاع دے اور لکھا ہوا حصہ ان کے سامنے پیش کرے۔ چنانچہ زیدؓ کے پاس ہڈیوں، پتوں، کھجور کے درخت کی چھالوں، چمڑوں اور پتھروں پر لکھی ہوئی آیات اور سورتیں کثیر تعداد میں جمع ہونے لگیں۔

جب آیات اور سورتوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام مکمل ہو گیا تو زید بن ثابتؓ نے ان کی جانچ پڑتال کی اور ترتیب کا کام شروع کیا۔ کوئی آیت اس وقت تک قبول نہ کرتے تھے جب تک اچھی طرح تحقیق نہ کر لیتے تھے کہ واقعی یہ آیت اسی طرح رسول اللہؐ پر نازل ہوئی تھی۔ ذیل کی مثال سے زیدؓ کی غایت درجہ احتیاط کا بہ خوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

تھے اور زیادہ محنت سے کام کر سکتے تھے۔ نو جوانی کی وجہ سے ان میں اپنی رائے پر اڑ جانے اور اپنے علم و فضل کے جاوید اظہار کا مادہ بھی نہ تھا۔ وہ صحابہ کرام کی باتوں کو غور سے سنتے تھے اور قرآن جمع کرنے میں انتہائی تحقیق و تدقیق اور تفتیش سے کام لیتے تھے حالانکہ انہیں سارا قرآن کریم حفظ تھا۔ مزید برآں متعدد روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے سال جب آپ نے جبریل کے سامنے قرآن کریم کا دوبارہ دور کیا تھا تو زید بن ثابت دوسرے دور کے وقت موجود تھے جو آپ کا آخری دور تھا۔

زید بن ثابت کو بھی اس عظیم الشان ذمہ داری کا پوری طرح احساس تھا جو ابو بکرؓ کی جانب سے ان پر ڈالی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ابو بکرؓ نے ان سے قرآن مجید جمع کرنے کو کہا تو انہوں نے جواب دیا:

”واللہ! اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو بھی یہ کام میرے لیے قرآن کریم جمع کرنے سے زیادہ ہل ہوتا۔“

وجہ یہ تھی کہ ابو بکرؓ، علیؓ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کو قرآن کریم حفظ تھا۔ چار انصاری صحابہ نے (جن کا ذکر پہلے آچکا ہے) براہ راست رسول اللہ سے قرآن کریم سیکھا تھا اور اسے باقاعدہ ترتیب دے کر لکھ رکھا تھا۔ عبد اللہ بن مسعود نے بھی ایک مصحف ترتیب دے رکھا تھا۔ بعض لوگوں کے مصحف مکمل تھے اور بعض..... کے نامکمل۔ اس صورت میں کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ زید بن ثابت کی نگرانی اور ان کا شدید محاسبہ کرنے کے لیے موجود تھے، ان کا یہ عظیم الشان بوجھ سر پر اٹھالینا یقیناً پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔

ان جلیل القدر صحابہ کے علاوہ سب سے بڑا محاسبہ کرنے والی ذات اس خدائے بزرگ و برتر کی تھی جس نے اپنے رسولؐ پر قرآن نازل فرمایا تھا اور جس کی نظر سے خفیف ہے خفیف غلطی اور کوتاہی بھی مخفی نہ رہ سکتی تھی۔ اللہ کے محاسبے ہی کا ڈر تھا جس کے باعث زید بن ثابت نے انتہائی جان کاہی سے کام لیا۔ ہڈیوں، چمڑوں، درختوں کی چھالوں، پتھروں وغیرہ پر لکھی ہوئی ایک ایک آیت جمع کرنے، ان کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنے

سورتوں کی ترتیب:

زید بن ثابتؓ نے آیات کی صحت اور ان کی ترتیب میں تو کمال جان فشانی سے کام لیا لیکن سورتوں کی ترتیب و تنسيق پر کوئی خاص توجہ نہ کی۔ سورتوں کی موجودہ صورت عثمانؓ کے عہد کی قائم کردہ ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب کا کام رسول اللہؐ نے اپنی امت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے بعض سورتوں کی ترتیب تو متعین فرمادی تھی لیکن باقی سورتوں کو غیر مترتب حالت میں چھوڑ دیا تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپؐ نے تمام سورتوں کا نظام اور ان کی ترتیب اپنی زندگی ہی میں متعین فرمادی تھی۔ ابن وہب اپنی جامع میں لکھتے ہیں:

”ربیعہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران کو دوسری سورتوں پر مقدم کیوں رکھا گیا حالانکہ ان سے پہلے ۸۰ سے زیادہ سورتیں نازل ہو چکی تھیں اور یہ دونوں سورتیں بھی مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں نازل ہوئیں..... ربیعہ نے جواب دیا بے شک ان دونوں سورتوں کو مقدم رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم اسی ترتیب سے ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا تھا جنہوں نے اسے جمع کیا، لیکن وہ خاموش رہے اور اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور اسی ترتیب پر ان کا اجماع ہوا۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔“

۱۔ یہ درست نہیں کہ رسول اللہؐ نے سورتوں کی ترتیب مقرر نہ فرمائی تھی اور موجودہ ترتیب عثمانؓ کے عہد کی قائم کردہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آیات کی طرح سورتوں کی ترتیب بھی رسول اللہؐ نے خود ہی مقرر فرمادی تھی۔ دیگر امور کے علاوہ ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل کی مندرجہ ذیل حدیث بھی اس کا بین ثبوت ہے:

”اوس بن ابی اوس حدیفہ ثقفی کہتے ہیں کہ ثقیف کے اس وفد میں، جو اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آیا تھا، میں بھی موجود تھا۔ رسول اللہؐ نے ہمیں کہا کہ مجھے قرآن شریف کی منزل پوری کرنی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ جب تک وہ ختم نہ کر لوں باہر نہ نکلوں۔ اس پر ہم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپؐ لوگوں نے قرآن کریم کو کس طرح حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: تین سورتوں، پانچ سورتوں، سات سورتوں، نو سورتوں، گیارہ سورتوں، تیرہ سورتوں اور ق سے شروع ہو کر آخر قرآن تک جسے مفصل کہتے ہیں۔“

ایک مرتبہ عمرؓ نے آیت السابقون الاولون من المهاجرين الانصار الذين اتبعوهم باحسان، پڑھا یعنی انصار اور الذين کے درمیان سے واؤ حذف کر دی۔ زین بن ثابت نے سن کر کہا کہ اصل آیت ”والذين اتبعوهم باحسان“ ہے لیکن عمرؓ مطمئن نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے ابی بن کعب کو بلایا اور ان سے آیت کے متعلق دریافت کیا۔ ابی نے زید کی قرأت کی تصدیق کی اور عمرؓ کے دل سے ہر قسم کا شک و شبہ دور کرنے کے لیے یہ بھی کہا ”واللہ! یہ آیت رسول اللہؐ نے مجھے اس وقت پڑھائی تھی جب آپ بازار میں گندم کی خرید و فروخت میں مشغول تھے۔“ اس پر عمرؓ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور کہا کہ واقعی زید ہی کی قرأت صحیح ہے۔

صرف عمرؓ پر موقوف نہیں بلکہ جب بھی کسی صحابی سے زید بن ثابت کو قرأت میں اختلاف ہوتا وہ تحقیق کی خاطر یہی طریقہ استعمال کرتے تھے اور صحیح قرأت کا تعین کرنے کے لیے اگر اشخاص میں شہادتیں طلب کرتے تھے۔ اگر پتوں اور ہڈیوں وغیرہ پر لکھی ہوئی آیات میں اختلاف ہوتا تو بھی جب تک ان کی صحت کے بارے میں اچھی طرح اطمینان نہ کر لیتے تھے آگے نہ بڑھتے تھے اور..... اس بارے میں اپنے حافظے پر بھی اعتماد نہ کرتے تھے حالانکہ انہوں نے قرآن کریم حفظ کر رکھا تھا اور رسول اللہؐ نے اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ قبل جبریل کے سامنے قرآن کریم کا جو آخری دور کیا تھا اس وقت وہ بھی موجود تھے السابقون الاولون والی آیت میں محض ایک واؤ پر اختلاف کرنے کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ کی تحقیق و تدقیق میں زید کا پایہ کس قدر بلند تھا اور جو کام ابوبکرؓ نے ان کے سپرد کیا تھا وہ انہوں نے کس قدر محنت و جانفشانی سے انجام دیا۔

قرآن کریم جمع کرنے میں زید بن ثابت نے جس شدید محنت سے کام لیا اس نے آئندہ کے لیے کلام اللہ کو ہر قسم کی تحریفات سے پاک کر دیا، چنانچہ تمام منصف مزاج مستشرقین کو اس امر کا اعتراف ہے کہ موجودہ قرآن بعینہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہؐ پر نازل ہوا تھا اور جو زید بن ثابت نے انتہائی محنت و مشقت سے جمع کیا تھا۔ چنانچہ سر ولیم میور لکھتے ہیں:

”ہمیں علم ہے دیکھا بھر میں ایک بھی کتاب ایسی نہیں جو قرآن کی طرح کامل بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو۔“

ملایا ہے کہ ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی اور اس طرح ان دونوں سورتوں کو سات لمبی سورتوں (سبع طوال) میں شامل کر دیا ہے۔ عثمان نے جواب دیا ”رسول اللہؐ پر بعض دفعہ ایک ہی وقت میں کئی سورتوں کی آیات نازل ہوتی تھیں۔ جب آپؐ پر کوئی وحی نازل ہوتی تو آپؐ کا تبین وحی میں سے کسی کو بلا لیتے اور اسے حکم دیتے کہ یہ آیت فلاں سورت کے فلاں موقع پر لکھ دو۔ سورت انفال مدنی زندگی کے اوائل میں آپؐ پر نازل ہوئی تھی اور سورت برأت کا نزول آخری زمانے میں ہوا۔ چونکہ ان دونوں سورتوں کا مضمون آپس میں ملتا جلتا تھا اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ سورت برأت سورت انفال ہی کا حصہ ہے۔ چونکہ آپؐ نے ہمیں صریحاً نہ فرمایا تھا کہ یہ سورت کس سورت کا حصہ ہے اس لیے میں نے دونوں سورتیں اکٹھی کر دیں اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا۔ اس طرح انہیں سات طویل سورتوں میں شامل کر دیا۔“

۱۔ اس حدیث سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ عثمانؓ کی رائے کو ترتیب قرآنی میں کوئی دخل تھا بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی طرح سورتوں کی ترتیب بھی رسول اللہؐ نے خود ہی کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ عثمانؓ کی غایت درجہ احتیاط کا بھی پتا چلتا ہے۔ حالانکہ تمام سورتوں کی ابتداء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا عام قاعدہ تھا مگر اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سند رسول اللہؐ سے نہ پا کر اپنی رائے کو اتنا دخل بھی نہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی اس پر لکھ دیتے۔

اصل بات یہ ہے کہ ابن عباسؓ نے عثمانؓ سے اس کی وجہ دریافت کی تھی کہ انفال اور برأت کو ملا کر کیوں رکھا گیا انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آیتوں اور سورتوں کے نزول کے وقت رسول اللہؐ خود انہیں خاص خاص مقامات پر رکھواتے تھے جس کا مطلب صاف ہے کہ آپؐ ہی کی ہدایت سے یہ دونوں بھی اس طرح رکھی گئیں۔ اس کے بعد عثمانؓ اپنا خیال ظاہر کرتے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا، انفال اور برأت ایک دوسری ہی کا حصہ ہیں مگر آپؐ نے چونکہ ایسا نہ فرمایا اس لیے میں انہیں ایک دوسری کا حصہ نہیں کہتا۔ یہ روایت ایک مضبوط اور زبردست شہادت ہے اس بات پر کہ آیتوں اور سورتوں کی تمام ترتیب خود رسول اللہؐ نے مقرر فرمائی اور وہ کچھ آپؐ نے کیا یا فرمایا اس سے صحابہ نے سرمو انحراف نہ کیا۔ (مترجم)

بعض اہل علم کہتے ہیں:

”قرآن کریم کی سورتوں کی جو ترتیب آج کل کے مصحفوں میں پائی جاتی ہے وہ رسول اللہؐ کی مقرر کردہ ہے۔ باقی ابی بن کعب، علی بن ابی طالب اور عبد اللہ بن مسعود کے مصحفوں میں جو اختلاف پایا جاتا تھا وہ اس لیے تھا کہ آخری بار جبریل کے سامنے قرآن کریم پڑھنے سے پیشتر رسول اللہؐ نے سورتوں کی ترتیب مقرر نہ فرمائی تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد آپؐ نے صریحاً صحابہ کو اس کے متعلق ہدایات دے دی تھیں۔“^۱

بعض صحابہ اس رائے کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سورتوں کی ترتیب رسول اللہؐ کی مقرر کردہ نہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ علی بن ابی طالب اور عبد اللہ بن عباس نے اپنے مصحفوں کو رسول اللہؐ کی وفات کے بعد جمع کیا تھا۔ اگر آپؐ نے اپنی زندگی میں سورتوں کی ترتیب مقرر فرمائی ہوتی تو یقیناً علیؓ اور ابن عباسؓ اسے ملحوظ خاطر رکھتے اور اپنے مصحفوں کو رسول اللہؐ کی قائم کردہ ترتیب کے مطابق ترتیب دیتے۔ زید بن ثابتؓ نے ابو بکرؓ کے عہد میں قرآن جمع کرتے ہوئے سورتوں کو با ترتیب نہیں لکھا تھا۔ یہ ترتیب کلیہً صحابہ کے اجتہاد سے عمل میں آئی۔ رسول اللہؐ نے اس کے متعلق خود کوئی حکم نہیں دیا تھا۔^۲

میری رائے بھی یہی ہے کہ رسول اللہؐ نے بہ طور خود سورتوں کی ترتیب مقرر نہیں فرمائی بلکہ یہ کام امت کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ ابن عباسؓ سے اسی سلسلے میں ایک روایت مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں:

”میں نے عثمانؓ سے پوچھا کہ آپؓ نے انفال اور برآۃ کی سورتوں کو، جو بالترتیب ۸۰ اور دو سو آیات پر مشتمل ہیں، اس طرح کیوں

۱۔ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی، جلد اول صفحہ ۵۲

۲۔ تاریخ القرآن از ابو عبد اللہ زنجانی، صفحہ ۴۸ تا ۵۹

حضرت ابو بکرؓ کا سب سے بڑا کارنامہ:

”اللہ ابو بکرؓ پر رحمت نازل فرمائے۔ قرآن کریم جمع کرنے کی وجہ

سے وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اجر کے مستحق ہیں۔“

یہ تھے وہ الفاظ جو علیؓ نے ابو بکرؓ کے متعلق بیان فرمائے اور انہیں الفاظ پر ہر

مسلمان کا یقین و ایمان ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کے وقت دل میں کئی مرتبہ یہ سوال پیدا

ہوا کہ ابو بکرؓ کا کون سا کارنامہ سب سے زیادہ عظیم الشان ہے۔ مرتدین کی سرکوبی اور سرزمین

عرب سے ارتداد کا مکمل خاتمہ؟ عراق اور شام کی فتوحات جو اس عظیم الشان سلطنت کی بنیاد

ثابت ہوئیں جس کی بدولت انسان کو تہذیب و تمدن سے آگاہی نصیب ہوئی؟ یا کلام اللہ کو

جمع کرنے کا کام جو ایک امی نبی محمد مصطفیٰؐ پر نازل ہوا اور جس نے اپنی روشنی سے دنیا بھر کو

منور کر دیا۔ جب بھی یہ سوال ذہن میں آیا یہ جواب دینے میں قطعاً تردد محسوس نہ ہوا کہ

بلاشبہ جمع قرآن کریم ابو بکرؓ کا سب سے بڑا اور مہتمم بالشان کارنامہ ہے اور اسی سے اسلام اور

مسلمانوں کو سب سے زیادہ برکت نصیب ہوئی۔ جزیرہ عرب کی حالت میں آہستہ آہستہ

اضمحلال پیدا ہوتا گیا اور جو قوت و شوکت اسے خلافت راشدہ اور عہد بنی امیہ میں نصیب

ہوئی تھی بنی عباس کے زمانے میں وہ مفقود ہو گئی۔ اسلامی سلطنت پر بھی آہستہ آہستہ زوال

آتا گیا اور مسلمان پستی کی حالت میں گرتے چلے گئے حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کا نام بھی لوگوں

کے دلوں سے محو ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ عرب کو بھی بھولنے لگے اور اگر اللہ نے مسلمانوں

کے لیے حج کرنا فرض قرار نہ دیا ہوتا تو یقیناً ایک دن ایسا بھی آتا کہ عرب کا شمار دنیا کے گمنام

گوشوں میں ہونے لگتا۔ لیکن کتاب اللہ ابتداءً نزول سے آج تک زندہ موجود ہے اور

جب تک دنیا میں ایک بھی انسان کا وجود باقی ہے کتاب اللہ زندہ اور برقرار رہے گی۔

اس بیان کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ ہمیں جنگہائے مرتدین اور اسلامی سلطنت

اصل میں سورتوں کی ترتیب کا تعلق ہمارے اس باب سے نہ تھا۔ اس کا ذکر ضمناً قرطبی کے اس قول کی وضاحت کے سلسلے میں آ گیا کہ ”زید بن ثابت نے قرآن کریم کو سخت محنت و مشقت کے بعد جمع کیا تھا لیکن اس کی سورتیں آپ کی مرتب کی ہوئی نہیں۔“

جمع قرآن کی تکمیل:

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا زید نے سارا قرآن ہی ابو بکرؓ کے عہد میں جمع کر لیا تھا یا اس کام کی تکمیل عمرؓ کے زمانے میں ہوئی۔ اس کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بخاری کی ایک روایت پہلے گزر چکی ہے جس میں ذکر ہے کہ وہ اوراق جن میں زید نے قرآن جمع کیا تھا، ابو بکرؓ کے پاس رہے۔ ان کی وفات کے بعد عمرؓ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ عمرؓ کی وفات کے بعد وہ ان کی بیٹی ام المومنین حفصہ کی تحویل میں آ گئے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمع قرآن کا کام ابو بکرؓ کے عہد میں مکمل ہو چکا تھا لیکن بعض روایتیں اس قسم کی بھی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اس کی تکمیل عمرؓ کے عہد میں ہوئی۔

یہ معلوم کرنا بے حد دشوار ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے۔ البتہ دونوں قسم کی روایتوں میں اس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے کہ زید بن ثابت نے قرآن کریم کا اکثر حصہ ابو بکرؓ کی زندگی ہی میں جمع کر لیا تھا۔ جن اوراق پر وہ قرآن کریم لکھتے تھے ابو بکرؓ کو دیتے جاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد وہ اوراق عمرؓ نے اپنے پاس منگوا لیے۔ زید نے جب ان کے عہد میں قرآن کریم کی تکمیل کی تو بقیہ اوراق بھی انہیں کے سپرد کر دیئے۔ اس طرح قرآن کریم کے مکمل اوراق عمرؓ کے پاس جمع ہو گئے۔ یہی اوراق سامنے رکھ کر عثمانؓ نے دیگر مصاحف تیار کرائے۔ آج ہم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ بعینہ وہی ہے جو ابو بکرؓ نے زید بن ثابت کے ذریعے سے جمع کرایا تھا اور یہی قرآن انہیں الفاظ اور اسی ترتیب سے قیامت تک پڑھا جائے گا۔

ستر ہواں باب

خلافت ابوبکرؓ

خلافت کا تصور:

بیعت خلافت کے بعد ایک شخص نے ابوبکرؓ کو یا خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارا۔ انہوں نے فوراً اسے ٹوکا اور فرمایا:

”میں خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفہ رسول اللہ ہوں۔“

ابوبکرؓ کی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ مورخین نے ان کے کمال انکسار اور فروتنی کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہماری رائے میں یہ فقرہ گہرے غور و خوض کا مستحق ہے کیونکہ اس سے نہ صرف ابوبکرؓ کا انکسار ظاہر ہوتا ہے بلکہ حکومت کا وہ تصور بھی عیاں ہو جاتا ہے جو صدر اول کے مسلمانوں کے دلوں میں جا گزیں تھا۔

رسول اللہ کے عہد سے پہلے لا تعداد صدیاں گزر گئیں اور آپ کے بعد بھی سینکڑوں سال گزر چکے ہیں۔ اس طویل اور صد ہا صدیوں پر محیط زمانے میں ہزاروں بادشاہ اور حکام گزرے ہیں جن کے متعلق خود ان کا اور ان کی محکوم رعایا کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اس سرزمین پر اللہ کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے جو تقدیس انہیں حاصل ہے وہ روئے زمین پر اور کسی شخص کو حاصل نہیں۔ فراعنہ مصر کا حال کسے معلوم نہیں۔ انہیں فراعنہ میں سے ایک فرعون تو یہاں تک بڑھ گیا کہ اس نے ”انا ربکم الاعلیٰ“ (میں تمہارا بزرگ و برتر پروردگار ہوں) کا نعرہ لگا کر الوہیت تک کا دعویٰ کر دیا۔ اس زمانے میں فی الحقیقت مصریوں کے سوا داعظم کا یہی خیال تھا کہ ان کے بادشاہوں کو ربوبیت کی صفات حاصل ہیں۔ رہی سہی کسر ان کے مذہب پیشواؤں نے پوری کر دی اور انہوں نے اپنے

کے قیام کی اہمیت سے انکار ہے۔ بلاشبہ یہ دونوں کام انتہائی اہمیت رکھتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک ابو بکرؓ کا نام زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ابو بکرؓ مرتدین کی سرکوبی کے سوا اور کوئی کام نہ کرتے تو بھی یہ ایک کارنامہ ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ اسلامی سلطنت کے قواعد و ضوابط مرتب کرنے کے سوا اور کوئی کام ہاتھ میں نہ لیتے تو بھی یہ کارنامہ ان کا نام تاریخ کے صفحات پر تاباں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا۔ لیکن جب ان عظیم الشان کارناموں کے ساتھ جمع قرآن کا مہتمم بالشان کارنامہ بھی ملا لیا جائے جو اپنی شان اور افادیت میں ان دونوں کارناموں سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے تو ہمیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ مادر گیتی ابو بکرؓ جیسا فرزند پیدا کرنے سے قاصر ہے۔

اللہ ابو بکرؓ پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے جن کی مخلصانہ مساعی اور پیہم جدوجہد کے نتیجے میں آج بھی ہمیں قرآن کی نعمت اعلیٰ اسی طرح میسر ہے جس طرح چودہ سو برس پیشتر صحابہ کرام کو میسر تھی۔



میں اپنے آپ کو اس بارگراں اٹھانے کے قابل نہیں پاتا۔
واللہ! میری خواہش تھی کہ تم میں سے کوئی شخص اسے اٹھائے۔ دیکھو!
اگر تم میں سے کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ میں بھی وہیں کام کروں گا جو
رسول اللہؐ نے کیے تو یہ خیال خام ہے۔ رسول اللہؐ یقیناً اللہ کے
بندے تھے لیکن اللہ نے انہیں نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا اور
ہر قسم کے گناہوں سے منزہ قرار دیا تھا۔ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں مگر تم
میں کسی بھی شخص سے بہتر نہیں۔ تم میرے کاموں کی نگہداشت کرو،
اگر دیکھو کہ میں اللہ اور اس کے رسولؐ کے بنائے ہوئے راستے پر جا
رہا ہوں تو میری اطاعت کرو لیکن اگر مجھے صراطِ مستقیم سے بھٹکا ہوا
پاؤ تو ٹوک کر سیدھی راہ پر لگا دو۔“

ابوبکرؓ نے رسول اللہؐ کے بعد مسلمانوں کی قیادت اور سلطنت کی نگہداشت کا کام
مسلمانوں کے انتخاب اور ان کی رضامندی سے اپنے ذمے لیا تھا۔ اللہ نے انہیں اس طرح
خلیفہ بنا کر نہ بھیجا تھا جس طرح رسول اللہؐ کو رسولؐ بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ اگر انہیں دوسرے
مسلمانوں پر فضیلت تھی اور یقیناً تھی تو صرف تقوے کے سبب، خلافت کی وجہ سے نہیں۔ اسی
لیے وہ لوگوں کو صرف وہی حکم دینے کے مجاز تھے جو اللہ کی نازل کردہ اور رسول اللہؐ کی پیش
کردہ تعلیمات کے مطابق ہوں۔ احکام الہی اور ارشاداتِ مصطفیٰ کے مخالفانہ وہ کوئی حکم دے
سکتے تھے اور نہ مسلمان اسے قبول کر سکتے تھے۔ چنانچہ خطبہ اولیٰ میں انہوں نے یہ فقرہ کہہ کر
اس معاملے کو بالکل صاف کر دیا تھا:

”میری اطاعت اس وقت تک کرو جب تک میں اللہ کے احکام کی
اطاعت کروں لیکن اگر میں اس کے احکام کی نافرمانی کروں تو تم پر
میری اطاعت فرض نہیں۔“

حضرت عمرؓ کا لقب:

ابوبکرؓ کے بعد عمرؓ خلیفہ ہوئے لیکن انہوں نے اپنا لقب خلیفہ رسول اللہؐ

مقبعین کو بادشاہوں کی تقدیس کا یقین دلانا شروع کر دیا۔ اشور، ایران، ہندوستان اور دوسرے ملکوں کا بھی یہی حال تھا اور وہاں کے اکثر بادشاہ اپنے آپ کو زمین پر خدا کا نائب اور ظل اللہ خیال کرتے تھے اور یہی حال ان کی رعایا کا تھا۔

ازمنہ وسطیٰ میں یورپ کے اندر بھی پادریوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے بادشاہوں کے اشارے پر انہیں تقدیس و احترام کا بلند ترین مرتبہ دینے میں ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ پادریوں کے دعوے کے مطابق بادشاہوں کو یہ مرتبہ خدا کی طرف سے تفویض ہوا تھا۔ اس بناء پر ان کے اقتدار میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہ زمین پر خدا کے نائب سمجھے جانے لگے۔ ان کی زبانوں سے نکلا ہوا ہر حرف بمنزلہ وحی خیال کیا جانے لگا۔ ان کا حکم خدا کی مانند سمجھا جانے لگا۔ جس سے انحراف ممکن نہ تھا۔ پندرہویں صدی اور بعض اقوام میں سترہویں صدی تک یہی حال رہا۔ اگرچہ اس وقت یورپ نے علم و ہنر اور تہذیب و ثقافت میں خاصی ترقی کر لی تھی لیکن اندھی عقیدت کا جو پردہ لوگوں کی آنکھوں پر پڑا ہوا تھا وہ اس وقت تک نہ ہٹ سکا جب تک آزادی ضمیر اور مساوات کے علم برداروں نے ان ناروا پابندیوں اور انسانی ضمیر کو کچل دینے والے عقائد کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر دیا اور ہزاروں لاکھوں جانیں خانہ جنگیوں میں ضائع نہ ہو گئیں۔

بادشاہوں کے لیے تقدیس و احترام کا یہ جذبہ اقوام عالم میں صدیوں تک کارفرما رہا اور یورپ نے تو قریب کے زمانے میں اس سے نجات حاصل کی ہے لیکن ابوبکرؓ کی بے نفسی اور انکسار کا عالم دیکھئے کہ جب ایک شخص انہیں خلیفۃ اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو وہ فوراً یہ کہہ کر اسے ٹوک دیتے ہیں کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفہ رسول اللہ ہوں۔

خلیفہ رسول اللہ کے الفاظ سے بھی کسی شان و شوکت اور بڑائی کا اظہار مطلوب نہ تھا بلکہ ان کی مراد صرف یہ تھی کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی قیادت اور امور سلطنت کی انجام دہی کے معاملات میں رسول اللہ کے جانشین ہیں۔ لیکن ابوبکرؓ کو ان امور کی جانشینی کا خیال بھی نہ آ سکتا تھا جو صرف رسول اللہ سے خاص تھے۔ اسی امر کو واضح کرتے ہوئے ابوبکرؓ نے اپنے پہلے خطبہ خلافت میں فرمایا تھا:

”مجھے یہ ذمہ داری (امر خلافت) تفویض تو کر دی گئی ہے لیکن

حیثیت ایک سپہ سالار اور امیر لشکر کی تھی جسے جنگ کے سلسلے میں بادشاہ کی طرف سے اصولی ہدایات تو مل جاتی ہیں لیکن لشکر کی صف بندی اور جنگ کے جملہ امور کی نگہداشت خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ عمرؓ کو امور سلطنت کا سارا انتظام وقتی صورت حال کے مطابق شرعی حدود میں رہتے اور رسول اللہؐ کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے خود ہی کرنا تھا۔ وہ پابند نہ تھے کہ اگر کسی معاملے کے متعلق ابو بکرؓ نے کوئی خاص راہ عمل اختیار کی تھی تو وہ بھی لازماً وہی اختیار کریں۔ اس لیے انہوں نے خلیفہ، خلیفہ رسول اللہؐ کے بجائے امیر المومنین کا لقب اختیار کرنا پسند فرمایا۔

اس انقلاب پر نظر ڈالنے سے، جو ابو بکرؓ نے انتہائی قلیل عرصے میں پیدا کر دیا تھا، یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ سختی اور نرمی کے مواقع علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور اس وقت تک کوئی کام صحیح طور پر نہیں ہو سکتا جب تک سختی کے موقع پر سختی اور نرمی کے موقع پر نرمی سے کام نہ لیا جائے۔ ابو بکرؓ کی عظیم الشان کامیابی اور ان کی بے پناہ قوت کا اصل سبب یہی تھا کہ وہ ان دونوں خصلتوں کو برتنے کے صحیح مواقع جانتے تھے۔

عرب کا سیاسی نظام:

رسول اللہؐ کے عہد تک عرب بے شمار مذاہب کا گہوارہ تھا اس کے شمالی اور جنوبی حصے ایک دوسرے سے بالکل کٹے ہوئے تھے اور ایک حصے کے لوگ دوسرے حصے کے باشندوں سے بالکل مختلف تھے۔ یمن ایرانیوں کی عمل داری میں شامل تھا اور وہاں مسیحیت اور بت پرستی پہلو بہ پہلو قائم تھیں۔ وہاں کے لوگ حمیری زبان بولتے تھے جو تلفظ کے اعتبار سے قریش کی زبان سے بالکل مختلف تھی۔ مزید برآں یمن صدیوں سے تہذیب و تمدن کا گہوارہ بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں حجاز کے لوگوں پر بدویت غالب تھی۔ اس میں صرف تین شہر تھے: مکہ، یثرب اور طائف۔ ان تینوں شہروں کا بھی آپس میں اس کے سوا اور کوئی علاقہ نہ تھا کہ یہ حجاز میں واقع تھے اور ان کے باشندوں کی باہم رشتہ داریاں تھیں۔ ویسے ان شہروں کا نظام قبائل کی طرح ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ تھا۔ جہاں تک مذاہب کا تعلق تھا، مکہ میں بت پرستی زوروں پر تھی لیکن عیسائیت کو بھی وہاں نفوذ حاصل تھا۔ مدینہ میں

نہ رکھا بلکہ اس بارے میں دوسرے لوگوں سے استفسار کیا۔ بعض لوگوں نے امیر المومنین کا لقب تجویز کیا جو انہوں نے پسند فرما کر اختیار کر لیا اور آئندہ تمام خلفاء کو امیر المومنین ہی کہا جانے لگا۔ خلیفہ کا لقب ترک کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عمرؓ خلیفہ، خلیفہ رسول اللہؐ کی تکرار سے بچنا چاہتے تھے۔ بعد میں تو یہ تکرار عجیب و غریب صورت اختیار کر لیتی کیونکہ اگر عمرؓ کا لقب، خلیفہ خلیفہ رسول اللہؐ، ہوتا تو عثمان کا لقب ”خلیفہ، خلیفہ، خلیفہ رسول اللہؐ“ ہونا چاہیے تھا اور علیؓ کو خلیفہ، خلیفہ، خلیفہ رسول اللہؐ کے لقب سے یاد کرنا پڑتا۔

عمرؓ کے خلیفہ رسول اللہؐ کا لقب چھوڑ کر امیر المومنین کا لقب اختیار کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابو بکرؓ نے ”میں خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفہ رسول اللہؐ ہوں۔“ کے فقرے میں خلیفہ کا لفظ اس کے لغوی معنی میں لیا تھا اور مسلمانوں پر واضح کر دیا تھا کہ ان کی حیثیت امور سلطنت کی انجام دہی میں رسول اللہؐ کے جانشین کی ہے۔ اگر خلیفہ کے لقب سے اس کے لغوی معنی کے سوا کوئی اور معنی مراد لیے جاتے تو عمرؓ کو یہ لفظ چھوڑ کر ”امیر المومنین“ کا لفظ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

امیر المومنین کا لقب اختیار کرنے کا ایک سبب غالباً یہ بھی تھا کہ عمرؓ کے مشاہدے میں یہ بات آچکی تھی کہ اسلامی نظام حکومت نے جزیرہ عرب اور دوسرے مفتوحہ علاقے میں ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا اور یہ انقلاب اس سرعت سے برپا ہوا تھا کہ لوگوں کی نظریں حیرت زدہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ لیکن کتاب اللہ اور سنت نبویؐ میں نظام حکومت کے لیے تفصیلی احکام موجود نہ تھے۔ البتہ قرآن کریم میں شوریٰ کو نظام حکومت کے لیے بہ طور بنیاد ضرور بیان کیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے رسول اللہؐ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا ”و شاورہم فی الامر (اے نبی! دنیوی معاملات میں لوگوں سے مشورہ کر لیا کرو)“ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا: ”وامرہم شوری بینہم“ (مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں) سیاسی اور ملکی امور کی انجام دہی کے لیے چونکہ اللہ کی طرف سے تفصیلی احکام موجود نہ تھے اور یہ سارا کام عمرؓ کو مشورے اور اپنی صواب دید سے کرنا تھا اس لیے ان کی

تھا کہ رسول اللہؐ کے بعد انہیں آپ کے جانشین کی اطاعت بھی قبول کرنی ہوگی۔ وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ وہ تعلیمات، جو رسول اللہؐ کے ذریعے سے انہیں ملی ہیں وہ تو یقیناً ان کے دلوں میں راسخ رہیں گی اور وہ بدستور احکام اسلام پر عمل کرتے رہیں گے لیکن سیاسی اعتبار سے وہ بالکل خود مختار ہوں گے اور ہر قبیلہ پہلے کی طرح آزاد اور بیرونی حکومت کے اثرات سے بالکل پاک ہوگا۔

رسول اللہؐ کی وفات کے بعد جزیرہ نمائے عرب میں جو فتنہ برپا ہوا اور جس کے نتیجے میں جنگہائے مرتدین وقوع میں آئیں اس کا سبب خود مختاری کا یہی جذبہ تھا جو بیشتر عرب قبائل کے دلوں میں راہ پار ہا تھا۔ ابو بکرؓ چاہتے تھے کہ عرب سیاسی لحاظ سے اسی حالت پر برقرار رہے جس حالت میں رسول اللہؐ کی زندگی میں تھا لیکن قبائل عرب چاہتے تھے کہ انہیں ان کی گم گشتہ خود مختاری اور آزادی واپس مل جانی چاہیے۔ ابو بکرؓ اس ایمان کی بدولت، جو انہیں اللہ اور اس کے رسولؐ پر تھا، مصر تھے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہر شخص وہ تمام ذمہ داریاں ادا کرے جو بحیثیت ایک مسلمان کے اس پر عائد ہوتی ہیں اور تمام وہ اموال جو وہ رسول اللہؐ کے عہد میں مدینہ بھیجا کرتے تھے، بدستور بھیجیں۔ لیکن آزادی کے دل داوہ قبائل رسول اللہؐ کی وفات کے بعد کسی اور شخص کو اپنا حاکم مطلق ماننے، حکومت میں مہاجرین و انصار کا حق فائق سمجھنے اور اموال زکوٰۃ مدینہ بھیجنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ صاف کہتے تھے کہ رسول اللہؐ کی بات اور تھی۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ان پر وحی اترتی تھی اور بندوں پر ان کی اطاعت فرض تھی لیکن ان کے بعد کسی قبیلے یا کسی فرد کا یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے قبائل کو آزادی سے محروم کر کے ان پر حکومت کرے۔

مہاجرین و انصار اور خلافت:

ابو بکرؓ کی بیعت کے باعث عرب میں جو حالات رونما ہو رہے تھے۔ ان کا ہمیں ایک اور جہت سے بھی جائزہ لینا ہے یعنی مہاجرین اور انصار مسئلہ خلافت کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے نظریات کی وجہ سے اس وقت کے سیاسی نظام میں کیا انقلاب رونما ہوا؟ یہ حقیقت مسلم ہے کہ اپنے تقدم اسلام اور رسول اللہؐ کے دفاع میں پیش پیش رہنے کے

یہودی قبائل کو بہت طاقتور تھے لیکن اکثریت بت پرستوں کی تھی۔ جب جزیرہ نمائے عرب میں توحید کی صدا گونجی اور خدا نے چاہا کہ دین اسلام عرب کے اطراف و جوانب میں پھیل جائے تو اس نے اس کے لیے سامان بھی ویسے ہی مہیا کر دیئے۔ یمن کو ایرانیوں کی غلامی سے چھٹکارا مل گیا اور وہ غیر ملکی اثرات سے بالکل آزاد ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد حجاز میں تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ حجاز کے بعد دوسرے عرب علاقوں کی باری آئی اور تھوڑے ہی عرصے میں سارا جزیرہ نمائے عرف حلقہ بہ گوش اسلام ہو کر ایک ہی مسلک میں منسلک ہو گیا۔ گو رسول اللہؐ کی رسالت اور آپؐ کی تعلیمات پر ایمان لانے میں کل عرب متحد تھا۔ مگر تمام قبائل اپنی اپنی جگہ آزاد خود مختار تھے۔ البتہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن کی بجا آوری کے سلسلے میں انہیں زکوٰۃ ضرور مدینہ بھیجنی پڑتی تھی۔

یہ دینی وحدت عرب کے سیاسی نظام میں ایک انقلاب پیدا کرنے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ مدینہ کے نواحی قبائل نے رسول اللہؐ سے دوستی کے معاہدے کر رکھے تھے۔ جب آپؐ مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ان معاہدات کے مطابق قبائل سلیم، مزنیہ اور غطفان بھی اسلامی لشکر میں شامل ہو کر مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد جب وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے بھی اسلامی غزوات میں شرکت کی خواہش ظاہر کی چنانچہ حنین اور طائف کے غزوات میں رسول اللہؐ کے لشکر میں اہل مکہ بھی شامل تھے۔ بعد ازاں جب اسلام کثرت سے قبائل عرب میں پھیل گیا تو آپؐ نے نو مسلموں کو قرآن سکھانے اور دینی تعلیم دینے کے لیے اپنے عمال کو اطراف و جوانب میں بھیجنا شروع کیا۔ ان عمال کے سپرد جہاں لوگوں کو قرآن سکھانے اور دینی تعلیم دینے کا کام تھا وہاں یہ ذمہ داری بھی تھی کہ صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے مدینہ بھیجا کریں یا اسی علاقے کے فقراء اور غرباء میں تقسیم کر دیا کریں۔ طبعی امر تھا کہ اس دینی انقلاب کے نتیجے میں، جو ایک قلیل مدت میں عرب کے اطراف و جوانب میں برپا ہو چکا تھا، ایک سیاسی انقلاب بھی برپا ہوتا اور جہاں دینی اور مذہبی لحاظ سے عرب ایک وحدت میں تبدیل ہو چکا تھا، سیاسی اور انتظامی لحاظ سے بھی ایک وحدت میں تبدیل ہو جاتا۔ لیکن اہل عرب اس سیاسی انقلاب سے بالکل نا آشنا تھے۔ کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہ آ سکتا

اسلام نہ لاسکے، انہیں ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہ کرنا چاہیے۔

ابو بکرؓ کا بھی خیال تھا کہ جب دیگر اسلامی قبائل نے اہل مدینہ سے مل کر جنگہائے مرتدین اور فتوحات عراق میں حصہ لیا ہے تو انہیں امور سلطنت میں شریک ہونے سے کیونکر روکا جاسکتا ہے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں بھی مشورہ اور امور سلطنت میں اسی طرح شریک کیا جائے جس طرح اہل مدینہ اور سابقون الاولون مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب شام پر چڑھائی کا مرحلہ درپیش ہوا تو انہوں نے اس بارے میں اہل مکہ سے بھی صلاح مشورہ کیا اور ان سے امداد کے طلب گار ہوئے۔ مال غنیمت اور وظائف کی تقسیم کے وقت بھی انہوں نے یہ اصول پیش نظر رکھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مدینہ کے قریب ایک مفتوحہ زمین میں سونے کی کان برآمد ہوئی اور اس کا سونا مدینہ آنا شروع ہوا۔ انہوں نے یہ سونا تمام مسلمانوں میں بہ حصہ رسدی تقسیم کر دیا اور یہ خیال نہ کیا کہ کون سا شخص سابقون الاولون میں شامل ہے اور کس شخص نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے۔ جب بعض لوگوں نے کہا کہ اس سونے میں سے سابقون الاولون کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا:

”وہ لوگ محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر اسلام لائے تھے۔ اس لیے

انہیں اجر دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے اور یہ اجر انہیں آخرت میں ملے

گا۔ اس دنیا میں تو ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کا۔“

جب عمرؓ کا دور آیا تو انہوں نے اپنی پہلی رائے پر اصرار کرتے ہوئے ابو بکرؓ سے مختلف پالیسی اختیار کی اور ہر شخص کے درجے اور مرتبے کے مطابق اس کا وظیفہ مقرر کیا گو آخر عمر میں ان کی بھی یہی رائے ہو گئی کہ ابو بکرؓ ہی کی سیاست اور پالیسی درست تھی۔ انہوں نے وظائف کی تقسیم کا طریق کار بدلنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا لیکن اتنی مہلت ہی نہ ملی اور وہ اس طریق کار میں تبدیلی کیے بغیر ہی وفات پا گئے۔

ابو بکرؓ کے حکیمانہ طرز عمل اور دانش مندانہ پالیسی نے عرب کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کر دیا اور ہر شخص یہ سمجھ کر کہ اسے ملک میں مساوی حقوق حاصل ہیں، بہ دل و جان حکومت کی اطاعت میں مشغول ہو گیا۔ اس کی وفاداری کا مرکز و مرجع خلیفہ کی ذات تھی اور اس کے احکام پر عمل کرنا اس کے نزدیک فرض عین تھا۔

باعث مہاجرین اور انصار صرف اپنے آپ کو سلطنت اور حکومت کا مستحق سمجھتے تھے حتیٰ کہ اپنے ان رشتہ داروں کو بھی، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے، یہ حق دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ مرتدین کے فتنے کے بعد، جسے فرو کرنے میں اہل مکہ نے نمایاں حصہ لیا تھا، جب شام کی جانب پیش قدمی کرنے کا سوال درپیش ہوا اور ابو بکرؓ نے اہل مکہ سے بھی اس نئی مہم کے متعلق مشورہ کرنا چاہا تو عمرؓ نے مخالفت کی۔ اس موقع پر عمرؓ اور سہیلؓ بن عمرو کے درمیان تو اچھا خاصا مباحثہ بھی ہوا۔ سہیل نے عمرؓ کی روش پر اعتراض کرتے ہوئے کہا:

”ہم تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہمارا اور تمہارا حسب نسب بھی ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود تمہیں رشتہ داری کا مطلق پاس نہیں اور تم ہمارے حقوق غصب کرنے پر مصر ہو۔ یہ درست ہے کہ اسلام قبول کرنے میں تمہیں ہم پر سبقت حاصل ہے لیکن محض اس وجہ سے حکومت اور سلطنت کے معاملات میں تمہیں دوسرے لوگوں پر فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔“

لیکن عمرؓ اپنی بات پر مصر رہے اور واشگاف الفاظ میں اس امر کا اظہار کیا کہ اولین مسلمانوں اور اسلام کی راہ میں قربانیاں دینے والوں ہی کو مجلس شوریٰ میں نمائندگی دی جا سکتی ہے اور وہی نظام حکومت چلانے اور سلطنت کی دیکھ بھال کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اپنے ان رشتہ داروں اور ہم وطنوں کے بارے میں، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے، عمرؓ اور ان کے حامیوں کے یہ خیالات تھے تو دیگر عرب قبائل کے بارے میں ان کی طرف سے جتنے بھی تند و تیز احساسات کا اظہار ہوتا کم تھا۔

عمرؓ کے مقابلے میں اہل مکہ کا خیال تھا کہ رسول اللہؐ کی وفات سے جو صورت حال پیدا ہو گئی تھی اس سے بننے اور نظام سلطنت چلانے کے لیے اگر مہاجرین اور انصار نے باہمی مشورے سے ایک راہ اختیار کر لی اور ابو بکرؓ کو خلیفہ مقرر کر لیا تو کوئی مضائقہ نہ تھا لیکن انہیں ہمیشہ کے لیے یہ حق نہیں دیا جاسکتا۔ اہل مکہ اور اہل طائف قبول اسلام اور مرتدین سے جنگ کرنے میں ان کے برابر کے شریک ہیں اس لیے امور سلطنت اور مشورے میں انہیں مناسب نمائندگی ضرور ملنی چاہیے اور محض اس وجہ سے کہ وہ نا فہمی کی بنا پر ابتداء میں

حکومت کرتے تھے، ابو بکرؓ کے ہاں اس کا گمان بھی نہیں پایا جاتا۔ وہ براہ راست خدا سے احکام لینے کے دعوے دار نہ تھے۔ رسول اللہؐ کی وفات کے بعد وحی کا نزول بند ہو چکا تھا۔ اب صرف کتاب اللہ مسلمانوں کی رشد و ہدایت کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ کتاب اللہ کے احکام ہی مسلمانوں کے لیے حجت تھے اور ان کا دستور العمل سوا قرآن مجید کے اور کوئی نہ تھا۔ ہر حاکم مجبور تھا کہ کتاب اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر چلے اور اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر کام کرے۔ مسلمان کے لیے اسی وقت تک حاکم کی اطاعت فرض تھی جب تک وہ کتاب اللہ کے احکام پر عمل پیرا رہے اور اس کی مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی حاکم کتاب اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالتے ہوئے خود ساختہ خلاف شریعت احکام پر عملدرآمد کرانا چاہتا تو اس کی اطاعت مسلمانوں پر فرض نہ تھی۔

اسلام کا مقرر کیا ہوا یہ ضابطہ عمل اور طرز حکومت پاپائیت کے بالکل الٹ ہے۔ خلیفہ المسلمین کو اللہ کے نازل کردہ احکام کا پابند رہنا اور اس کی مقررہ حدود کے اندر مقید رہنا پڑتا تھا۔ مطلق العنانی کی مطلق گنجائش نہ تھی لیکن پاپائی طرز حکومت میں یہ بات نہ تھی۔ وہاں حاکم مختار کل ہوتا تھا، جو چاہتا کرتا تھا، کسی کو اس کے آگے دم مارنے یا اعتراض کرنے کی گنجائش نہ تھی، اس کے نافذ کیے ہوئے احکام خدائی احکام سمجھے جاتے تھے۔ اسے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہ تھی، ہر قسم کا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور رعایا کو غلاموں کی طرح اس کی فرماں برداری کرنی پڑتی تھی۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کتاب اللہ کو احکام سلطنت کا سرچشمہ ماننے اور حدود شریعت قائم رکھنے کے باعث اسلامی حکومت بھی پاپائیت کا روپ دھار لیتی ہے اور اس میں اور دوسری مستبد حکومتوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ لیکن یہ اعتراض محض ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ قرآنی شریعت میں صرف اصول بیان کر دیئے گئے ہیں لیکن تفصیلات سے بالعموم احتراز کیا گیا ہے۔ اگر تفصیلات آئی بھی ہیں تو صرف ایسی جگہ جہاں ان کا ذکر کرنا ناگزیر تھا۔ اسلامی حکومت میں سارے نظام کی بنیاد ان اصولوں پر رکھی جاتی ہے اور ان اصولوں کی روشنی میں فروعات و تفصیلات کا طے کرنا جمہور مسلمانوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

جو اصول قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، صالح معاشرے کے قیام اور قومی

اسلام میں حکومت کا نظام:

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو بکرؓ کی حکومت کس قسم کی تھی، آیا اسے پاپائیت سے تشبیہ دی جاسکتی ہے، مطلق العنان شخصی حکومت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یا جمہوریت کا نام دیا جاسکتا ہے؟

تاریخ سے معمولی واقفیت رکھنے والے شخص سے بھی یہ امر پوشیدہ نہیں کہ ابو بکرؓ کی حکومت پر پاپائیت کا شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ فراعنہ مصر اور شاہان یورپ جس طرز سے

1۔ قارئین کو اس موقع پر یہ امر ذہن نشین کر لینا مناسب ہے کہ دینی اور مذہبی حکومت کو پاپائیت اور تھیوکریسی سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ اسی طرح لادینی حکومت (Secularism) سے مراد ہر وہ حکومت ہوتی ہے جس میں کسی مذہبی گروہ یا علماء، پروہتوں اور پادریوں کے طبقے کو حکومت پر اجارہ داری حاصل نہ ہو اور نہ کسی مذہب کو سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دیا جائے۔ ”غیر لادینی حکومت“ میں مذہبی گروہ بندیوں اور علماء، پروہتوں اور پادریوں وغیرہ کے طبقے کا کچھ نہ کچھ اثر حکومت پر ہوتا ہے اور کسی خاص مذہب کو سلطنت کا سرکاری مذہب بھی قرار دے دیا جاتا ہے۔ بہ این ہمہ ملک میں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے اور سلطنت کا مزاج بالعموم جمہوری ہوتا ہے، پاپائیت سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ پاپائی طرز حکومت میں شہنشاہ کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ہر قسم کے گناہوں سے مصون اور پاک ہوتا ہے۔ اسے براہ راست خدا کی طرف سے احکام ملتے ہیں اور اسے ان احکام کو نافذ کرنے اور لباس عمل پہنانے کا کامل اختیار دیا گیا ہے۔ چونکہ اس نظام حکومت میں شاہی فرمانوں کو خدائی فرمانوں کا درجہ دیا جاتا تھا اس لیے کسی شخص کو ان پر اعتراض کرنے کا حق نہ تھا اور سب کو بے چون و چرا ان کی اطاعت کرنی پڑتی تھی۔ چنانچہ جیسا کہ ہم اس باب کے شروع میں بیان کر چکے ہیں فراعنہ مصر کا شمار اسی قسم کے شہنشاہوں میں کیا جاتا ہے۔ پندرہویں صدی عیسوی تک یورپ کے شہنشاہ بھی اپنے آپ کو اسی زمرے میں شامل کرتے رہے۔ اس نظام کا وجود آج کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔

مطلق العنان شخصی حکومت (Aristocracy) سے امراء اور نوابوں کی حکومت مراد ہے۔ یہ طرز حکومت بھی یورپ میں عرصے تک رائج رہا۔ مختلف علاقوں میں خود مختار رؤساء حکمران تھے۔ یہ علاقہ انہوں نے بالعموم لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت کے ذریعے سے حاصل کیا ہوتا تھا۔ ان امراء و رؤساء کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ان کے جانشین ہوتے تھے۔ یہ طرز حکومت بھی آج کل کہیں رائج نہیں۔

جمہوریت البتہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جو قدیم زمانے سے اب تک مختلف صورتوں میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا رہا ہے۔ آج کل تو اسی کا دور دورہ ہے۔ جمہوریت سے مراد وہ حکومت ہے جس میں اقتدار اعلیٰ عوام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور عوام ہی کے نمائندے ملکی نظم و نسق چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

ابو بکرؓ نے اس امانت کا حق، جو قوم کی طرف سے ان کے سپرد کی گئی تھی، جس طرح ادا کیا اور ایام خلافت میں جس بے نفسی و پرہیزگاری کا ثبوت دیا اسے موجودہ زمانے کے لوگ غیر ممکن العمل سمجھتے ہیں۔ خلافت و امارت نے ان کی زندگی میں ذرا بھی تو تغیر و تبدل پیدا نہ کیا۔ مسلمانوں کے اموال سے فائدہ اٹھانے کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں پیدا نہ ہوا۔ خلافت کی ذمہ داریاں تفویض ہوتے ہی وہ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو بالکل بھول گئے اور اللہ کے دین کی خدمت میں اور اس اسلامی سلطنت کے انتظام و انصرام کے لیے اپنے آپ کو ہمہ تن وقف کر دیا۔ عدل و انصاف کا قیام ان کا اولین مقصد تھا اور کمزوروں اور حاجت مندوں کی امداد و اعانت سے زیادہ پسندیدہ مشغلہ ان کے نزدیک اور کوئی نہ تھا۔

جو حکومت اس طرز کی ہو، جہاں مطلق العنانی کا مطلق دور دورہ نہ ہو، جس کا حاکم اپنے آپ کو فوق البشر ہستی نہ سمجھتا ہو اسے کسی طرح بھی پاپائی اور مطلق العنان شخصی حکومت کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ خلیفہ کا انتخاب یقیناً مہاجرین اور انصار ہی نے مل کر کیا تھا اور عرب کے دوسرے قبیلوں سے مشورہ لینے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی لیکن اس پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کیونکہ مہاجر اور انصار ایک ہی قبیلے کے افراد نہ تھے جنہوں نے ملی بھگت کر کے اپنے میں سے ایک آدمی کو خلیفہ منتخب کر لیا ہو بلکہ وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور یہ کام بھی انہوں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ رسول اللہ کی وفات سے جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے پر کیا جاسکے اور کسی رہنما کی غیر موجودگی کے باعث امت کی بقا کو جو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اس کا فوری طور پر سد باب ہو سکے۔

ابو بکرؓ کی حکومت کی بنیاد کلیۃً صلاح مشورے پر تھی۔ ان کی بیعت عام انتخاب کے ذریعے سے کی گئی اور محض اس لیے کی گئی کہ وہ رسول اللہ کے سب سے محبوب ساتھی اور رفیع الشان شخصیت کے مالک تھے۔ خاندانی وجاہت اور قبائلی عصبیت کا اس انتخاب میں مطلق دخل نہ تھا۔ ابو بکرؓ نے خود اپنے لیے خلافت کا مطالبہ نہ کیا بلکہ انہوں نے تو لوگوں کو اپنے بجائے عمرؓ اور ابو عبیدہ بن جراحؓ میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے خلافت سازشوں کے ذریعے سے حاصل نہ کی بلکہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اجتماع عام میں

زندگی کی بقا کے لیے ان کا بروئے کار لانا از بس ضروری ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمان ان اصولوں پر عمل پیرا رہے اور انہوں نے اپنی قومی و انفرادی زندگیوں کو ان اصولوں کے مطابق ڈھالا وہ ترقی کے زینوں پر چڑھتے رہے لیکن جب انہوں نے ان اصولوں پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا اور اپنے لیے ایسا نظام تجویز کیا جو ان اصولوں کے مخالف اور ذاتی خواہشات کا مظہر تھا تو اسی وقت سے ان کا تنزل شروع ہو گیا۔

اگر کتاب اللہ کے بیان کیے ہوئے اصولوں کی تشریح و توضیح کا کام کلیۃً ایک خاص گروہ پر چھوڑ دیا جاتا اور دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں بھی کاہنوں جیسا ایک طبقہ وجود میں آ جاتا تو یقیناً اس اعتراض کی گنجائش تھی کہ اسلام بھی پاپائیت کا وجود موجود ہے لیکن ہر شخص کو معلوم ہے کہ اسلام مذہبی امور میں کسی خاص طبقے کی اجارہ داری تسلیم نہیں کرتا۔ وہ ہر انسان کو بلا استثناء مساوی طور پر یہ حق دیتا ہے کہ وہ قرآن کریم پر غور کر کے اس سے اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق نتائج اخذ کر لے۔ اس صورت میں اسلام پر پاپائیت کی تہمت لگانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

اسلامی نظام حکومت کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک طرف تو خدائی احکام کی اطاعت اور شریعت کی مقرر کردہ حدود کی پابندی حاکم و محکوم، ادنیٰ و اعلیٰ، غریب و امیر ہر شخص پر یکساں فرض ہے۔ دوسری طرف عوام کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے حاکم سے اس کی غلط روی پر باز پرس کر سکتے ہیں۔ اس نظام حکومت میں برسر اقتدار طبقے کو قطعاً یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ اور قانون وضع کر لے اور غریب رعایا کے لیے کچھ اور، اور اپنے آپ کو دوسروں سے فائق، برتر اور افضل سمجھ کر اپنے لیے ایسی مراعات حاصل کر لے جو عوام کو حاصل نہیں۔ ابوبکرؓ کے دور حکومت پر چمچلتی ہوئی نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت نبویؐ پر سختی سے عمل کرنے کے باعث دنیوی آلائشوں سے بالکل پاک تھے اور ان کے دل میں یہ بات میخ فولا د کی طرح جاگزیں ہو چکی تھی کہ جس شخص کے سپرد قوم کی امانت کی جائے اور وہ اس میں خیانت کر کے اس کا کچھ حصہ ذاتی تصرف میں لے آئے وہ کسی اور پر نہیں بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور قیامت کے دن اسے اس خیانت کی نہایت دردناک سزا ملے گی۔

حکم صادر فرمایا تھا کہ انہیں جنگی مہمات میں شامل نہ کیا جائے کیونکہ ابھی ان کی طرف سے پورا اطمینان نہ تھا۔ لیکن جب یہ خدشہ دور ہو گیا تو انہیں اسلامی فوجوں میں شرکت کی اجازت دے دی اور عمر کو ہدایت کی کہ عراق کی جنگوں میں مذکورہ بالا لوگوں سے بھی کام لیا جائے۔

ابو بکرؓ اور عرب کی سیاسی وحدت:

اس طرح ابو بکرؓ نے اسلامی نظام حکومت کی بنیادیں استوار کر کے اپنے بعد آنے والے خلفاء کے لیے ان بنیادوں پر ایک رفیع الشان عمارت تعمیر کرنے اور عرب کو ایک سیاسی وحدت میں ڈھالنے کا موقع فراہم کر دیا۔ ابو بکرؓ کی عفو و درگزر کی پالیسی نے عرب کی سیاسی وحدت کے حصول میں بے حد آسانی پیدا کر دی۔ جو بھی باغی سرداران کے سامنے حاضر کیا گیا انہوں نے اس کے پچھلے اعمال سے درگزر کرتے ہوئے ان کی جان بخشی کر دی۔ قرہ بن ہبیرہ، عمرو بن معدی کرب، اشعث بن قیس وغیرہ سرداران عرب کی مثالیں سب کے سامنے ہیں۔ بغاوت اور سرکشی کو سختی سے فرو کرنے اور بعد میں بغاوت کے سرغنوں کو معافی دے دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لی اور وحدت کی لڑی میں منسلک ہو گئے۔ شوریٰ کے طریق کار نے وحدت کے نظام کو مزید استواری بخشی جس کے نتیجے میں عراق اور شام کی فتح آسان تر ہو گئی۔

اس زمانے میں عوام کی فکری نہج بھی اس امر کی متقاضی تھی کہ نظام حکومت کی بنیادیں شوریٰ اور جمہوریت پر استوار کی جائیں۔ اسلام کا ظہور عرب میں ہوا تھا۔ اسلامی شریعت عربی زبان میں تھی اور رسول اللہؐ بھی سرزمین عرب سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب قبائل بدوی ہوں یا شہری، آزادی اور خود مختاری کے دلدادہ تھے اور آزادی سے بڑھ کر انہیں کوئی شے عزیز نہ تھی۔ بدوی لوگوں میں مساوات کی روح سرایت کر چکی تھی۔ اسلامی تعلیمات نے اس فکر و نظر کو مزید جلا دی کیونکہ اسلام کامل مساوات کا علم بردار تھا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ وضاحت اعلان کر دیا کہ اس کے نزدیک خاندانی وجاہت کوئی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ اصل حیثیت بندوں کے اعمال کو حاصل ہے۔ رسول اللہؐ نے واشگاف الفاظ میں اس

خاصی بحث و تمحیص کے بعد..... جس میں انصار اور مہاجرین کے سربراہ اور وہ اشخاص نے حصہ لیا..... ان کی خلافت پر مسلمانوں کا اجماع ہوا۔ پھر جب انہی کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا تو بیعت کرنے میں انصار بھی کسی طرح مہاجرین سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے نہ صرف صدق دل سے ان کی خلافت قبول کر لی بلکہ بعد میں جب کبھی ان کی طرف سے مالی اور جانی قربانیوں کا مطالبہ ہوا، انصار نے بڑھ چڑھ کر اور دلی ذوق و شوق سے ان میں حصہ لیا۔

خلافت کے بعد انہوں نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس کے لفظ لفظ سے یہ بات عیاں ہو رہی تھی کہ ابو بکرؓ کو جمہوریت کا کتنا پاس تھا اور وہ شوریٰ کو سلطنت کی بہبود کے لیے کس قدر ضروری خیال کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا:

”میں تم پر حاکم تو بنا دیا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں۔ اگر میں نیکی کی راہ پر چلوں تو میری فرماں برداری کرو۔ لیکن اگر میرا قدم نیکی کی راہ سے ڈگمگا کر بدی کی راہ پر چلا جائے تو مجھے درست کر دو۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرتا رہوں تم میری اطاعت کرتے رہو لیکن اگر میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت فرض نہیں۔“

ان الفاظ سے صریحاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عوام الناس کو خلیفہ کے کاموں کی نگہداشت کرنے اور اسے نیک مشورے دینے کا حق حاصل ہے اور اگر کبھی بہ فرض محال خلیفہ سے اللہ کے احکام کی نافرمانی صادر ہونے لگے تو رعایا پر اس کی اطاعت فرض نہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ شوریٰ کی اہمیت کے متعلق ان الفاظ سے زیادہ اور کون سے پرزور الفاظ استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

جنگوں کا سلسلہ طویل تر ہونے کے باوجود ابو بکرؓ کے عہد میں شوریٰ کا نظام اعلیٰ قائم رہا اور وہ کوئی بھی اہم کام بغیر مشورہ لیے انجام نہ دیتے تھے۔ تمام مسلمان ان کی نظروں میں مساوی حقوق کے حامل تھے اور کسی شخص کو اس کی دنیوی و جاہت اور مرتبے کی بنا پر دوسرے لوگوں سے برتری حاصل نہ تھی۔ سابق مرتدین کے متعلق انہوں نے ابتداء میں یہ

مسلمانوں کو دنیا کے ایک وسیع خطے میں اسلامی سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کا موقع مل گیا؟

اسلام کی ابتدائی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے کسی شخص سے یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اسلامی افواج کی کامیابی کو وقتی اور اتفاقی قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ یہ فتوحات و حوادث کے ایک لمبے سلسلے کی کڑی ہیں۔ اسلام نے دنیا میں آ کر جو انقلاب پیدا کیا اس کا برپا ہونا لابدی تھا۔ کیونکہ اسلامی تعلیمات ایک انقلاب پذیر قوت اپنے اندر رکھتی تھیں اور ناممکن تھا کہ یہ قوت اپنا اثر دکھائے بغیر رہتی۔

اسلام کو طاقت و قوت بخشنے والے عوامل میں عقیدے کی حریت کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اسلام آزادی ضمیر کا سب سے بڑا علم بردار ہے اور دین کے معاملے میں کسی شخص پر جبر کا روادار نہیں۔ گو اس کی دعوت ساری دنیا کے لیے عام ہے لیکن وہ کسی شخص کو اپنا عقیدہ بدلنے پر مجبور نہیں کرتا۔ ہاں، یہ امید ضرور رکھتا ہے کہ اس کی پیش کردہ تعلیمات پر لوگ غور کریں۔ اسے اطمینان ہے کہ جو لوگ سچے دل سے ان تعلیمات کا مطالعہ کریں گے ان کے لیے انہیں قبول کیے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں اور عقل سلیم انہیں قبول کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر سکتی۔

جہاں اسلام آزادی ضمیر کا سب سے بڑا علم بردار ہے وہاں اسلام کے مخالف آزادی ضمیر کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر لوگوں کو عقائد و اعمال میں آزادی دے دی گئی اور انہیں اختیار دے دیا گیا کہ وہ جو مذہب اور طریقہ چاہیں اختیار کر لیں تو اسلام کی پاک تعلیم انہیں اپنی طرف کھینچ لے گی اور ان کے حق میں سوا نامرادی اور ناکامی کے اور کچھ نہ آئے گا۔

اسلام نے آزادی ضمیر کا جو اصول دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس پر مسلمانوں نے پوری طرح عمل کر کے دکھا دیا۔ انہوں نے لاتعداد ممالک فتح کیے لیکن کسی شخص کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے جس شہر کو فتح کیا وہاں کے باشندوں کو کامل مذہبی آزادی دے دی۔ جو شخص بہ رضا و رغبت اسلام قبول کر لیتا اسے وہی حقوق مل جاتے تھے جو دوسرے مسلمانوں کو ملے ہوئے تھے لیکن جو شخص اپنے آبائی مذہب

حقیقت کا اظہار کر دیا تھا کہ اسلام گورے کالے، عربی، عجمی، آقا اور غلام میں کسی قسم کی تمیز رکھنے کا روادار نہیں۔ اس کے نزدیک برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ آج جمہوریت کا دور دورہ ہے اور ہر جا جمہوریت ہی کے گن گائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو حقیقی جمہوریت کا نظارہ چشم بینا نے صرف اسلام کے دور اولین میں دیکھا ہے۔ اس زمانے میں جمہوریت کی بنیاد اخوت و محبت اور حریت و مساوات پر تھی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیم کے نتیجے میں ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ ہر شخص اپنے مومن بھائی کا خیر خواہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہؐ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

”تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے“

رسول اللہؐ کی زبان سے نکلا ہوا یہ ارشاد کوئی معمولی ارشاد نہیں بلکہ جمہوریت کی جان ہے اور کوئی جمہوری حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس حکیمانہ فقرے کو مشعل راہ بنا کر رعایا کے افراد کو ایک دوسرے کا خیر خواہ اور مونس و غم خوار نہ بنا دے۔

انہیں تعلیمات کے باعث جنہیں رسول اللہؐ نے لوگوں تک پہنچایا، اس عربی وحدت کا قیام عمل میں آسکا جس کے سہارے ابو بکرؓ نے ایک رفیع الشان سلطنت کی بنیاد رکھی اور ایک نرالا نظام دنیا کے سامنے پیش کر کے ایک عالم کو انگشت بدندان کر دیا۔

اسلام کی طاقت کا سبب:

ابو بکرؓ کی حکومت جزیرہ نمائے عرب تک محدود نہ تھی بلکہ عرب سے بھی باہر نکل کر دور دور تک پھیل گئی تھی اور وہ اسلامی سلطنت کا قیام عرب کے علاوہ عراق اور شام میں بھی عمل پذیر ہو چکا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر عربی علاقوں میں اسلامی سلطنت کا قیام محض چند حملوں کا نتیجہ تھا جن میں اتفاق سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہو گئی یا اس انقلاب نے، جس کی نشان دہی ہم پہلے کر آئے ہیں، ان فتوحات کے لیے راستہ صاف کیا اور اس طرح

جو نجران اور عرب کے دوسرے علاقوں کے عیسائیوں سے کیا جاتا تھا۔ بے شک مسلمان ان لوگوں میں اسلام کی تبلیغ اور ان پر اتمام حجت کرنے میں کوئی دقیقہ سعی فرو گزاشت نہ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص ان کی دعوت پر کان نہ دھرتا اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتا تھا تو یہ خدائی فرمان ذہن میں رکھ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے تھے:

من اهتدی فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل۔

(جو شخص ہدایت قبول کرتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا اور جو شخص گمراہی کے راستے پر گامزن رہنا چاہتا ہے اس کے نقصان کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے۔ اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو ”میرا کام صرف یہ ہے کہ تم لوگوں تک آواز پہنچا دوں، ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ تمہاری ہدایت اور گمراہی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔“)

ابو بکرؓ کا نظام حکومت:

اسلام نے حکومت کا جو نظام تجویز کیا تھا ابو بکرؓ کو مفتوحہ ممالک میں اسے پوری طرح رائج کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ عراق میں خالد بن ولید نے بلدیاتی نظم و نسق کا کام خود وہاں کے باشندوں کے سپرد کر رکھا تھا۔ مسلمان صرف عام نگرانی اور سیاسی امور کی نگہداشت کرتے تھے۔ اس طرح کوئی باقاعدہ منظم حکومت معرض وجود میں نہ آ سکی۔ جنگی صورت حال کے پیش نظر ایک عبوری طرز حکومت اختیار کر لیا گیا اور پیشتر توجہ جنگی امور کی تکمیل پر دی گئی۔

شام کا حال بھی عراق سے مختلف نہ تھا۔ شوریائی نظام حکومت یہاں کے باشندوں کے لیے اسلام کی طرح بالکل نئی چیز تھا۔ فتوحات اسلامیہ کے وقت یہاں مطلق العنانی دور دورہ تھا۔ شہنشاہ ملک کے سیاہ و سفید کا مالک تھا اور من مانی کرتا تھا۔ پادری اور راہب شہنشاہ کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اور مطلق العنانی کو جائز ٹھہرانے کے لیے زمین آسمان کے قلابے ملا تے تھے۔ ایک طرف حکومت کے دباؤ دوسری طرف مذہبی پیشواؤں کے وعظ کے نتیجے میں عوام الناس اپنے فرماں رواؤں کو انتہائی تقدیس کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو

پر قائم رہنا چاہتا اسے جزیہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ جزیہ کوئی تاوان نہ تھا جو غیر مسلموں سے نفرت و حقارت کے باعث ان پر عائد کیا گیا ہو بلکہ اس کی حیثیت زکوٰۃ کی طرح ایک ٹیکس کی تھی جو سلطنت کی طرف سے ان کی حفاظت کے بدلے ان پر عائد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اہل عراق اور اہل شام سے صلح کے جو معاہدات کیے گئے ان میں یہ صراحت کر دی گئی تھی کہ غیر مسلموں سے جزیہ صرف ان کے مال و جان کی حفاظت کے بدلے وصول کیا جائے گا۔ اور اسلامی حکومت ذمہ دار ہوگی کہ غیر مسلم اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکیں اور دینی عبادات بے خوفی سے بجالا سکیں۔ آج بھی کتب تاریخ میں جو معاہدات محفوظ ہیں ان میں اسلامی حکومت کی طرف سے غیر مسلموں کے گرجوں، کلیساؤں، معبدوں، مذہبی پیشواؤں اور راہبوں کی حفاظت کی شقیں موجود ہیں۔ اگر کبھی ایسی صورت حال پیش آ جاتی کہ مسلمان اپنے مواعید کی بجا آوری سے قاصر ہو جاتے تو نہ صرف آئندہ کے لیے جزیہ لینا بند کر دیا جاتا بلکہ پچھلی وصول کی ہوئی رقم بھی انہیں واپس کر دی جاتی۔

رسول اللہؐ کے فدائیوں کے ہاتھوں قائم شدہ حکومت، جس کی بنیاد حریت و مساوات اور اخوت و محبت کے اصولوں پر قائم کی گئی تھی، رومی شہنشاہیت سے یکسر مختلف تھی اور آج کل کی جمہوریتیں بھی افادیت کے لحاظ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ اسلامی سلطنت کا یہ مقصد قطعاً نہ تھا کہ لوگوں کو عربوں کا مطیع و منقاد بنایا جائے اور انہیں رومیوں اور ایرانیوں کی غلامی سے نکال کر عربوں کی غلامی میں دے دیا جائے۔ اس کے برعکس اس کا اولیٰ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آزادی کی فضا میں سانس لینے کا موقع دیا جائے اور ان کے درمیان اخوت و مروت اور رحمت و شفقت کے ناقابل شکست رشتے پیدا کر دیئے جائیں۔ اسلامی سلطنت میں مفتوح اقوام کا درجہ فاتحین سے کسی طرح کم نہ تھا۔ مفتوح اقوام عربوں کی طرح تمام بنیادی حقوق سے بہرہ ور تھیں۔ جو شخص اسلام لے آتا تھا اس سے مسلمانوں کا سا برتاؤ کیا جاتا تھا اور جو شخص اپنے آبائی مذہب پر قائم رہنا چاہتا تھا اسے وہ تمام حقوق حاصل ہوتے تھے جو عرب کے دوسرے غیر مسلموں کو حاصل تھے۔ عرب فاتحین نے اپنے کسی بھٹی فعل سے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ عربوں اور غیر عربوں میں تفریق کے حامی ہیں۔ اہل عراق اور اہل شام میں جو لوگ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے ان سے وہی سلوک کیا گیا

لایا جاسکے جہاں اسلام سے قبل نظم و نسق کا وجود ہی نہ تھا۔

خلافت کے بعد ابو بکرؓ کو سب سے پہلے مرتدین کا سامنا کرنا پڑا اور پہلا سال ان کی بغاوتیں فرو کرنے میں گزر گیا۔ ابھی مرتدین سے جنگوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ایرانیوں سے جھڑپیں شروع ہو گئیں اور ابو بکرؓ کی توجہ عراق کی طرف منعطف ہو گئی۔ عراق میں کامل امن و امان نہ ہوا تھا کہ شام پر چڑھائی کا مسئلہ درپیش ہو گیا۔ اس صورت میں نظام حکومت وسیع بنیادوں پر قائم کرنا اور اس کی تفصیل طے کرنا ناممکن تھا۔ اس وقت ابو بکرؓ کے سامنے دو بڑے مقصد تھے اور انہیں کی تکمیل میں وہ ہمہ تن مشغول رہتے تھے۔ اول مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر کے انہیں دشمن کے مقابلے کے لیے تیار کرنا، دوم دشمن پر فتح حاصل کر کے وسیع اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھنا۔

ابو بکرؓ کی عسکری حکومت کا نظام اس بدوی طریق کے زیادہ قریب تھا جو رسول اللہؐ کے عہد سے بھی پہلے قبائل عرب میں رائج تھا۔ اس وقت حکومت کے پاس کوئی منظم لشکر موجود نہ تھا بلکہ ہر شخص اپنے طور پر جنگی خدمات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا۔ جب طبل جنگ پر چوٹ پڑتی اور لڑائی کا اعلان کر دیا جاتا تو قبائل ہتھیار لے کر نکل پڑتے اور دشمن کی جانب کوچ کر دیتے۔ ہر قبیلے کا سردار ہی اپنے قبیلے کی قیادت کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ان کی عورتیں بھی انہیں ہمت دلانے اور جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے ساتھ ہوتی تھیں۔ سامان رسد اور اسلحہ کے لیے وہ مرکزی حکومت کی طرف نہ دیکھتے تھے بلکہ خود ہی ان چیزوں کا انتظام کرتے تھے۔ حکومت کی طرف سے انہیں تنخواہ بھی ادا نہ کی جاتی تھی بلکہ وہ مال غنیمت ہی کو اپنا حق الخدمت سمجھتے تھے۔

میدان جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کا ۱۵/۴ حصہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا اور پانچواں حصہ خلیفہ کی خدمت میں دارالحکومت ارسال کر دیا جاتا تھا جسے وہ بیت المال میں جمع کر دیتا تھا۔ خمس کے ذریعے سے سلطنت کے

چکے تھے اور انہیں ان کے آگے سجدہ کرنے میں بھی باک نہ تھا۔ اسلامی فتوحات کے موقع پر جب انہوں نے ایسے نظام حکومت کا مشاہدہ کیا جس کی بنیاد عدل و انصاف اور شوریٰ پر تھی اور جہاں اس شاہی کروفر اور رعب و دبدبہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جسے دیکھنے کے وہ صدیوں سے عادی تھے تو ان کے دل بے اختیار اسلام کی طرف مائل ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے بڑی گرمجوشی سے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اسلام کی طرف لوگوں کے اس میلان کے باعث مسلمانوں کی سلطنت بڑھتی ہی چلی گئی اور اس کے ڈانڈے ایک طرف ہندوستان اور دوسری طرف افریقہ سے جا ملے۔ مسلمان جہاں بھی گئے حق و صداقت، عدل و انصاف اور ایمان و صداقت کا علم لہراتے ہوئے گئے اور حریت و مساوات اور محبت و شفقت کے بیج ہر زمین میں بودیئے۔

ابوبکرؓ کو اتنی مہلت نہ مل سکی کہ وہ عرب اور دوسرے مفتوحہ علاقے میں اسلامی نظام حکومت کا مآراج کر سکتے۔ ان دنوں اس سلسلے میں جو کام ہوا وہ ابتدائی نوعیت کا تھا۔ بعد میں آنے والے خلفاء کے عہد میں سلطنت نے جس طرح منظم صورت اختیار کر لی تھی اور جس طرح باقاعدہ محکموں کا قیام عمل میں آچکا تھا اس طرح ابوبکرؓ کے عہد میں نہ تھا۔ ان کے عہد میں نہ حکومت نے باقاعدہ تنظیمی شکل اختیار کی تھی اور نہ مختلف محکمے قائم ہوئے تھے۔ اس کے دو طبعی سبب تھے:

اول یہ کہ ابوبکرؓ کا عہد پچھلے تمام زمانوں سے مختلف تھا اور انہیں بالکل نئے سرے سے ایسے وقت میں ایک حکومت کی تشکیل کرنی پڑی تھی۔ جب پچھلی تہذیبیں دم توڑ چکی تھیں اور ان کی جگہ ایک نئی تہذیب نے لے لی تھی۔ عقائد کے لحاظ سے ایک انقلاب آچکا تھا اور جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ فکر و نظر کے انداز بدل چکے تھے اور معاشرے میں زبردست تبدیلی آچکی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں قلیل وقفے کے اندر ایک بالکل نیا نظام حکومت رائج کرنا کس قدر دشوار امر تھا۔

منظم حکومت عمل میں نہ آنے کا دوسرا سبب یہ تھا کہ وہ زمانہ حرب و پیکار کا تھا۔ ابوبکرؓ کی حکومت عسکری حکومت کہلانے کی زیادہ مستحق تھی۔ جنگ و جدل کے مواقع پر مقررہ نظم و نسق کا قیام تک ناممکن ہوتا ہے چونکہ ایسے علاقے میں ایک منظم حکومت کا قیام عمل میں

طرز حکومت ہی جاری رہا۔ خلافت راشدہ کے بعد جب سلطنت امویوں کے ہاتھ میں آئی تو شورائی طرز حکومت کی جگہ موروٹی بادشاہی نے لے لی۔ عباسیوں کے زمانے میں بھی موروٹی بادشاہی کا سلسلہ قائم رہا۔ عباسیوں کے عہد میں سلطنت پر اہل روم اور اہل ایران کا اثر اس قدر بڑھ گیا کہ خلفاء ان کے ہاتھوں میں بے بس ہو کر رہ گئے۔ ایران اور روم کی مکمل فتح عمرؓ اور عثمانؓ کے عہد میں ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت سلطنت پر عجمی باشندوں کا اثر بہت کم تھا۔ امویوں کے عہد میں ان کا اثر قدرے بڑھا مگر سلطنت عربی رنگ میں رنگی رہی۔ عباسیوں نے چونکہ خلافت اہل ایران کی مدد سے حاصل کی تھی۔ اس لیے ان کے عہد میں ان لوگوں کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا اور آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ خلفاء ان کے ہاتھوں میں محض کٹھ پتلیاں بن کر رہ گئے۔

اس اثناء میں علماء اسلام، جن میں اکثریت غیر عربوں کی تھی، حکومت کے لیے قواعد اور تفصیل مرتب کرنے میں مصروف رہے۔ ان علماء میں اکثر اختلاف ہو جاتا تھا جو بعض اوقات بڑھتے بڑھتے فساد اور شورش کی صورت اختیار کر لیتا تھا اور حاکم وقت کو سختی سے اسے فرو کرنا پڑتا تھا۔ کتنا بڑا فرق تھا ابو بکرؓ کی اور امویوں اور عباسیوں کی حکومتوں میں۔ اول الذکر حکومت بالکل سادہ تھی لیکن اس کی وجہ سے ایک دن کے لیے بھی ملک کے امن و امان میں خلل نہ پڑا۔ مؤخر الذکر حکومتیں شان و شوکت کے لحاظ سے جواب نہ رکھتی تھیں، بڑے بڑے علماء و فضلاء حکومت کا آئین تیار کرنے میں مصروف تھے۔ لیکن اندرونی بغاوتوں نے ان سلطنتوں کو ایک دن کے لیے چین سے نہ بیٹھنے دیا اور یہ ہمیشہ داخلی جھگڑوں اور خانہ جنگیوں ہی میں مصروف رہیں۔

ابو بکرؓ کا ایمان تھا کہ جس طرح ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا اسی طرح امور سلطنت کی انجام دہی کے سلسلے میں وہ بندوں کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ اللہ اور بندوں کی اسی جواب دہی کے ڈر سے وہ جب بھی کسی اہم

معمولی مصارف پورے کیے جاتے تھے اور مدینہ کے مفلس و فلاش اور محتاج لوگوں کی امداد کی جاتی تھی۔ ابوبکرؓ کی خواہش تھی کہ جو نبی خمس مدینہ پہنچے اسے تقسیم کر دیا جائے اور ایک درہم بھی آئندہ کے لیے اٹھانہ رکھا جائے۔ بعض لوگوں نے ان کے سامنے تجویز پیش کی کہ بیت المال پر پہرے دار مقرر کیے جائیں لیکن انہوں نے یہ تجویز نامنظور کر دی کیونکہ بیت المال میں کچھ بچتا ہی نہ تھا جس کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کیے جاتے۔

ابوبکرؓ کی حکومت کا نظام نہایت سادہ اور بدویانہ طرز کا تھا۔ اپنے عہد کی منظم اور متمدن سلطنتوں کا رنگ انہوں نے بالکل قبول نہ کیا۔ عہد رسالت سے اتصال کے باعث ان کا عہد رسول اللہؐ کے عہد سے بڑی حد تک مشابہ ہے۔ ابوبکرؓ بھولے سے بھی وہ کام نہ کرتے تھے جو رسول اللہؐ ناپسند کرتے تھے اور وہ کام کرنا سعادت سمجھتے تھے جو آپؐ نے کیا تھا لیکن وہ جامد مقامین کی طرح نہ تھے بلکہ رسول اللہؐ کا کامل نمونہ اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھل چکا تھا۔ یہی اجتہاد تھا جس کے باعث اللہ نے ان کے ذریعے سے عراق اور شام فتح کرائے اور ان کے ہاتھ سے ایسی متحدہ سلطنت کی بنیاد رکھوائی جس کا دستور العمل احکام الہی اور شوریٰ پر مبنی تھا۔ وہ افراط و تفریط سے ہمیشہ پاک اور اللہ کے نور سے حصہ لے کر ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رہے۔ یہ خیال ہر وقت ان کے دل میں جاگزیں رہتا تھا کہ جہاں وہ بندوں کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور وہ قیامت کے دن ان سے ان کے تمام اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ اور بندوں کے سامنے جواب دہی کا یہی تصور تھا جس نے ہمیشہ آپؐ کو صراط مستقیم پر گامزن کیے رکھا اور ان کا ایک قدم ایک لمحے کے لیے بھی جادہ استقامت سے ہٹنے نہ پایا۔

ابوبکرؓ کے بعد اسلامی حکومت مختلف ادوار میں سے گزرتی رہی۔ عمر بن خطابؓ نے ایرانی اور رومی سلطنتوں کا نظام حکومت سامنے رکھ کر مختلف شعبوں کی تشکیل کی لیکن کتاب اللہ اور اس کی مقررہ حدود سے مطلق تجاوز نہ کیا۔ عثمانؓ اور علیؓ کے عہد میں عمر کا مقررہ

اٹھارہواں باب

حضرت ابو بکرؓ کی وفات

حضرت ابو بکرؓ نے ارتداد کا وہ فتنہ، جو رسول اللہؐ کی وفات کے بعد عرب کے گوشے گوشے میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، کمال مستعدی سے فرو کر دیا تھا۔ عراق میں اسلامی فوجیں دور دور تک گھس گئی تھیں اور ایرانی دار الحکومت مدائن کی فتح چند دن کی بات رہ گئی تھی۔ شام میں رومی افواج قاہرہ کو ذلت آمیز شکستوں سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا اور فتوحات اسلامی کے اثرات پایہ تخت شام، دمشق تک محسوس کیے جا رہے تھے۔ ایک طرف ان حیرت انگیز فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، دوسری طرف ابو بکرؓ مدینہ میں ایک ایسی متحدہ عربی حکومت کی تشکیل میں مصروف تھے جس کی اساس باہمی مشورے پر تھی۔ قرآن کریم کی تدوین ہو چکی تھی۔ اسلامی سلطنت کی تشکیل کے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا اور حقیقی عدل و انصاف پر مبنی حکومت کا قیام عمل میں آچکا تھا۔ حیرت بالائے حیرت یہ ہے کہ یہ تمام عظیم الشان اور اہم امور دو سال تین مہینے کی قلیل ترین مدت میں پایہ تکمیل کو پہنچے تھے۔

کیا یہ تاریخ کا ایک معجزہ نہیں؟ ستائیس مہینے کی قلیل مدت میں ایک طویل و عریض علاقے کی خطرناک بغاوت بالکل فرو ہو جاتی ہے اور آن واحد میں سارا عرب وحدت کی سلک میں اس طرح منسلک ہو جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہاں کبھی بغاوت اور شورش کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پھر یہی اہل عرب، جو پہلے فتنہ و فساد اور شورش و اضطراب کے شکار تھے، ان دو عظیم الشان سلطنتوں پر ہلہ بول دیتے ہیں جنہیں اپنی عسکری قوت اور تہذیب و تمدن کی بنا پر دنیا کی تمام اقوام پر برتری حاصل تھی اور یہ سلطنتیں اپنے عساکر جزار اور وافر اسلحہ کے باوجود، حقیر و ذلیل، عربوں کے سامنے عاجز رہ جاتی ہیں اور ایرانی و رومی تہذیب کی جگہ اسلامی تمدن کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ عربوں کا اپنی ہمسایہ سلطنتوں پر اس قدر

کام میں ہاتھ ڈالتے اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے اور لوگوں کے سامنے وہ معاملہ رکھ کر ان سے بھی مشورہ لیتے۔ اسی طرح جب کوئی معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو جب تک اس کے بارے میں خوب غور و فکر نہ کر لیتے اور اس کے نتائج و عواقب کو اچھی طرح جانچ نہ لیتے فیصلہ نہ فرماتے۔ مرض الموت میں بھی ان کا طرز عمل یہی رہا اور وہ برابر مسلمانوں کی آئندہ فلاح و بہبود کے طریقوں پر غور فرماتے رہے۔ اسی دوران میں ثنیٰ شیبانی عراق سے مدینہ آئے اور باریابی کی اجازت چاہی تو انہوں نے باوجود حد درجہ ضعف و نقاہت کے انہیں اپنے پاس بلوایا اور بڑے غور سے ان کی معروضات سنیں۔ اسی وقت عمرؓ کو حکم دیا کہ شام ہونے سے پیشتر ثنیٰ کی مدد کے لیے مسلمانوں کا لشکر عراق روانہ کر دیا جائے۔ غرض اس طرح ابو بکرؓ زندگی کے آخری سانس تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف رہے۔



سکی۔ مرض کی ابتدا ہی میں انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کی وفات قریب آچکی ہے اور وہ بہت جلد اپنے محبوب رسول اللہؐ سے ملنے والے ہیں۔ وہ اس اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کہ اللہ نے ان کے سپرد جو کام کیا تھا اس کی انجام دہی میں انہوں نے حتی المقدور کوئی دقیقہ سعی فروگزاشت نہ کیا۔ ایک روز لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ طبیب کو بلا کر مشورہ لیتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے فرمایا ”میں نے مشورہ کیا تھا۔“ لوگوں نے پوچھا ”پھر اس نے کیا بتایا؟“ جواب دیا ”اس نے کہا میں جو چاہوں گا کروں گا۔“ ابو بکرؓ کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ وہ راضی بہ قضا ہیں اور ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اب اللہ انہیں اپنے پاس بلا لے۔

جانشینی کا مسئلہ:

مرض الموت میں ابو بکرؓ کو سب سے بڑا فکر مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے سے پچھلے واقعات ایک ایک کر کے گزر رہے تھے۔ رسول اللہؐ کی وفات کے معاً بعد سقیفہ بنی ساعد میں مہاجرین اور انصار کے درمیان خلافت پر جھگڑا برپا ہو گیا تھا اور اگر اللہ مسلمانوں کو ان کے ہاتھ پر متحد نہ کرتا تو زبردست فتنہ برپا ہونے کا خدشہ تھا۔ یہ فتنہ صرف مہاجرین و انصار تک محدود نہ رہتا بلکہ سارے عرب کو پلیٹ میں لے لیتا۔ پہلے اس کے شعلے مکہ اور طائف میں بھڑکتے پھر یمن کی باری آتی۔

اس اختلاف کی نوعیت دینی نہ ہوتی بلکہ خالص دنیوی ہوتی اور محض شخصی اقتدار کے قیام کے لیے قبائلی عصبیت کا یہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ اول تو کسی بھی طبقے کی طرف سے اقتدار کی ہوس قومی اتحاد میں رخنہ ڈال دیتی ہے، دوسرے ایسے وقت میں، جب ایرانی اور رومی سلطنتیں شیر کی طرح منہ پھاڑے عرب کی طرف دیکھ رہی تھیں، مسلمانوں کا باہم دست و گریباں ہو جانا ان سلطنتوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوتا اور وہ بہ آسانی مسلمانوں کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر عرب پر تسلط بٹھا لیتیں۔ ابو بکرؓ کی خلافت کے باعث ان کی زندگی میں تو اس فتنے کو سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکا لیکن کون کہہ سکتا تھا کہ آئندہ کے لیے بھی اس کا سد باب ہو چکا ہے۔

جلد غلبہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے جس کی نظر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ کسی شخص کی مجال نہیں کہ وہ بغیر تائید ایزدی اور توفیق خداوندی کے ایسے کارنامے انجام دے سکے جن پر ایک عالم حیران و ششدر رہ جائے۔ ابو بکرؓ اللہ کی قدرتوں پر مکمل ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ ان کی انگلی کی نقش بھی ”نعم القادر اللہ“ تھا۔ اسی ایمان کے نتیجے میں اللہ نے ان کے لیے اپنی قدرتوں کا نزول کیا اور جو کام بڑے بڑے سیاست دان اور سپہ سالار برسوں میں انجام نہ دے سکتے تھے وہ ایک نحیف و نزار شخص نے مہینوں میں انجام دے دیے۔

موت کے بارے میں روایات:

ابو بکرؓ کے مرض الموت کی تعیین کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہود نے انہیں کھانے میں زہر دیا تھا۔ کھانے میں ان کے ساتھ عتاب بن اسید اور حارث بن کلدہ بھی شریک تھے۔ حارث بن کلدہ نے تو چند لقموں ہی پر اکتفا کیا اس وجہ سے وہ زہر کے اثر سے محفوظ رہے لیکن ابو بکرؓ اور عتاب پر زہر نے پورا پورا اثر کیا۔ زہر سریع التاثر نہ تھا بلکہ کہیں سال بھر میں جا کر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ چنانچہ جس روز ابو بکرؓ نے مدینہ میں وفات پائی۔ اسی روز عتاب نے مکہ میں انتقال کیا۔

لیکن یہ روایت قابل اعتماد نہیں۔ اول تو اس کے راویوں میں کوئی ثقہ آدمی نہیں، دوسرے ابو بکرؓ اور یہود کے درمیان کوئی ایسا نزاع نہ تھا جس کی بنا پر خیال کیا جاسکے کہ یہود نے مطلب براری کے لیے انہیں زہر دے دیا تھا۔ تمام یہود رسول اللہؐ کے زمانے ہی میں مدینہ سے جلا وطن کیے جا چکے تھے۔

اس سلسلے میں وہ روایت قابل اعتبار ہے جو ان کی بیٹی ام المومنین عائشہؓ اور بیٹے عبدالرحمن سے مروی ہے یعنی مرض الموت کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سخت سردیوں کے دنوں میں وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لیے جس سے انہیں بخار چڑھ آیا اور پندرہ روز بخار میں مبتلا رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ اس دوران میں ان کے حکم سے عمر بن خطابؓ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔

مرض کی شدت انہیں امور سلطنت کے بارے میں غور و فکر کرنے سے نہ روک

”عمرؓ میں سختی صرف اس لیے ہے کہ میں نرمی سے پیش آتا ہوں۔ اگر خلافت کا کام ان کے سپرد کر دیا جائے تو ان کی سختی بڑی حد تک دور ہو جائے گی۔ میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ اگر میں کسی شخص پر ناراض ہوتا ہوں اور سختی سے پیش آتا ہوں تو عمرؓ اس سے نرمی کا سلوک کرنے پر مائل ہوتے ہیں اور اگر میں کسی سے نرمی کا سلوک کرتا ہوں تو وہ میرے سامنے اس شخص کے بارے میں درشتی کا اظہار کرتے ہیں۔“

یہ کہہ کر ابو بکرؓ خاموش رہے پھر فرمایا:

”اے ابو محمد! جو کچھ میں نے تم سے کہا اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔“

عبدالرحمن بن عوف کے بعد ابو بکرؓ نے عثمانؓ بن عفان کو بلایا اور فرمایا:

”اے ابو عبد اللہ! عمرؓ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟“

عثمانؓ نے جواب دیا:

”ان کے متعلق آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔“

ابو بکرؓ نے کہا:

”اس کے باوجود میں تم سے ان کے متعلق رائے دریافت کرتا ہوں۔“

عثمانؓ نے جواب دیا:

”عمرؓ کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے اور وہ علم و فضل کے لحاظ سے ہم میں یکتا ہیں۔“

ابو بکرؓ نے کہا:

”اے ابو عبد اللہ! اللہ تم پر رحم فرمائے۔ واللہ! اگر میں عمرؓ کو تمہارا میرا مقرر کر جاؤں تو وہ تم پر کسی قسم کی زیادتی نہ کریں گے۔“

عبدالرحمنؓ کی طرح ابو بکرؓ نے عثمانؓ کو بھی یہ ہدایت کر دی کہ وہ کسی سے ان باتوں کا ذکر نہ کریں۔

ابو بکرؓ نے صرف عبدالرحمنؓ بن عوف اور عثمانؓ سے مشورہ لینے پر اکتفا نہ کیا بلکہ

مرض الموت میں ابو بکرؓ کا دل برابر انہیں افکار کی جولان گاہ رہا۔ انہوں نے تمام حالات کا بہ غور جائزہ لیا اور آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو آئندہ اختلاف سے بچانے کی صرف یہ صورت ہے کہ وہ زندگی ہی میں آئندہ آنے والے خلیفہ کا تعین کر جائیں۔ رسول اللہؐ نے ایسا نہ کیا تھا۔ آپؐ کسی شخص کو خلیفہ مقرر کیے بغیر وفات پا گئے تھے لیکن اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت تھی یعنی لوگ یہ خیال نہ کرنے لگیں کہ اس شخص کو چونکہ رسول اللہؐ نے خود اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے اس لیے یہ براہ راست اللہ سے احکام حاصل کرتا ہے اور اس طرح اس کی حیثیت اصل میں خلیفہ اللہ کی ہے۔

ابو بکرؓ زندگی ہی میں اپنا جانشین مقرر کرنا تو ضرور چاہتے تھے لیکن ساتھ ہی ان کی خواہش یہ تھی کہ اہل الرائے اصحاب سے اس کے متعلق مشورہ لے لیا جائے اور ان کی رضا مندی سے ہونے والے خلیفہ کا تقرر عمل میں آئے۔

ان کے خیال میں صرف عمرؓ بن خطاب کی ذات ایسی تھی جو صحیح معنی میں ان کی جانشینی کے فرائض انجام دے سکتی تھی۔ لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مشورہ لیے بغیر عمرؓ کی نامزدگی لوگوں پر گراں گزرے گی اور مسلمان اس انتخاب کو اچھی نظروں سے نہ دیکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عبدالرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے پوچھا:

”عمرؓ بن خطاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟“

عبدالرحمن نے جواب دیا:

”جس امر کے متعلق آپ مجھ سے دریافت کر رہے ہیں خود اسے بہتر

جانتے ہیں۔“

ابو بکرؓ نے کہا:

”پھر بھی؟“

عبدالرحمن نے جواب دیا:

”اے خلیفہ رسول اللہؐ، واللہ عمرؓ بہترین شخص ہیں لیکن ان کے مزاج

میں سختی ہے۔“

ابو بکرؓ نے کہا:

”کیا واقعی؟“

انہوں نے جواب دیا:

”جی ہاں۔“

ابو بکرؓ کچھ دیر خاموش رہے پھر درانگیر لہجے میں بولے:

”میں نے تمہارا امیر اس شخص کو مقرر کیا ہے جو میرے نزدیک تم سب

میں بہتر ہے لیکن یہ سنتے ہی تم میں سے ہر شخص کا منہ سوج جاتا ہے اور

وہ میرا انتخاب ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔“

عبدالرحمن بن عوف نے بھانپ لیا کہ ابو بکرؓ کو کل کی باتوں سے سخت تکلیف پہنچ

ہے۔

انہوں نے عرض کی:

”آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اس وقت بعض لوگ تو

ایسے ہیں جو عمرؓ کی خلافت کے بارے میں آپ سے بالکل متفق ہیں،

ان کے بارے میں تو کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ بعض لوگ عمرؓ

کی خلافت پر راضی نہیں لیکن اگر انہوں نے آپ کے سامنے اپنی

رائے کا اظہار کیا ہے تو صرف بطور مشورہ۔ انہیں آپ کی مخالفت

مقصود نہیں۔ بہر حال جو فیصلہ آپ فرمائیں گے وہ انہیں منظور ہوگا

کیونکہ انہیں یقین ہے کہ آپ جو کچھ کریں گے وہ مسلمانوں کی

بہتری ہی کے لیے کریں گے۔“

جب ابو بکرؓ عمرؓ کی خلافت کے بارے میں کلیہ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اپنے

کاتب عثمانؓ بن عفان کو بلایا اور کہا:

”جو کچھ میں تمہیں بتاؤں اسے لکھ لو۔“

اس کے بعد یہ عبارت لکھوائی:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو ابو بکرؓ بن ابوقحافہ نے اس

سید بن زید، اسید بن حفیر اور دیگر مہاجرین و انصار سے بھی اس کے متعلق گفتگو کی۔ بعض صحابہ نے جب یہ سنا کہ ابو بکرؓ آئندہ ہونے والے خلیفہ کے بارے میں لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں اور اپنے بعد عمرؓ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بے حد فکر پیدا ہوا کیونکہ عمرؓ کی سختی و سبب المثل تھی اور انہیں خطرہ تھا کہ مبادا ان کے خلیفہ بن جانے سے مسلمانوں میں افتراق پیدا ہو جائے۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ابو بکرؓ کے پاس جا کر انہیں اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کا ایک وفد اجازت لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وفد کے قائد طلحہ بن عبد اللہ نے عرض کیا کہ ”ہم نے سنا ہے کہ آپ عمرؓ بن الخطاب کو اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو جب اللہ آپ سے عمرؓ کو خلیفہ بنانے کے متعلق باز پرس کرے گا تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ آپ کی موجودگی میں تو وہ لوگوں سے جس طرح پیش آتے ہیں اس کا حال آپ پر عیاں ہے مگر آپ کے بعد تو ان کے ظلم و ستم کی کوئی حد نہ ہوگی۔“

یہ سن کر ابو بکرؓ کو سخت طیش آیا اور بخاری کی حالت میں چلا کر بولے:

”مجھے بٹھا دو۔“

چنانچہ آپ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ نے ان لوگوں کی طرف منہ کر کے فرمایا:

”کیا تم مجھے اللہ کے غضب سے ڈراتے ہو؟ واللہ! جب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا تو عرض کروں گا کہ اے اللہ! میں نے تیرے بندوں پر تیرے سب سے بہتر بندے کو خلیفہ بنایا ہے۔“

اس کے بعد طلحہ سے مخاطب ہو کر بولے:

”جو کچھ میں نے اس وقت کہا ہے اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دینا۔“

اس تند و تیز گفتگو کے بعد ابو بکرؓ دوبارہ بستر پر دراز ہو گئے اور یہ لوگ شرمندہ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے روز صبح سویرے عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس پہنچے اور انہیں دیکھ کر کہنے لگے:

”اللہ کا شکر ہے آج آپ کی صحت بحال معلوم ہوتی ہے۔“

ابو بکرؓ نے کہا:

گئی اور میں پوری وصیت نہ لکھوا سکا تو لوگوں میں خلیفہ کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔“

عثمانؓ نے کہا:

”آپ درست فرماتے ہیں۔ واقعی میرا یہی خیال تھا۔“

ابو بکرؓ نے عثمانؓ کی لکھی ہوئی عبارت برقرار رکھی اور فرمایا:

”اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا دے۔“

لیکن اس پر بھی ابو بکرؓ کو اطمینان نہ ہوا اور انہوں نے اس وصیت کا اظہار عام لوگوں میں بھی کرنا چاہا تا کہ آئندہ کے لیے کسی اختلاف کا خدشہ باقی نہ رہے۔ انہوں نے مسجد کی طرف کا دروازہ کھلوا دیا اور اس میں کھڑے ہو گئے۔ ان کی بیوی اسماء بنت عمیس دونوں ہاتھوں سے انہیں تھامے ہوئے تھیں۔ انہوں نے لوگوں کو، جو مسجد میں موجود تھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

”میں جس شخص کو تم پر خلیفہ مقرر کروں تم اس پر راضی ہو؟ کیونکہ واللہ! میں نے تمہاری بھلائی کے لیے کوئی دقیقہ سعی فرو گزاشت نہیں کیا اور نہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو خلیفہ بنایا ہے۔ میں نے اپنے بعد عمرؓ بن خطاب کو خلیفہ نامزد کیا ہے۔ تم اس کے احکام کی کامل اطاعت کرو۔“

لوگوں نے یہ سن کر کہا:

”ہم آپ کے انتخاب پر راضی ہیں اور آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہر حال میں عمرؓ کی اطاعت اور فرماں برداری کریں گے۔“

ابن سعد کی بعض روایات میں یہ ذکر بھی ہے کہ ابو بکرؓ کی وصیت تحریر کرنے اور اس پر مہر لگانے کے بعد عثمانؓ باہر آئے۔ مہر شدہ وصیت ان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے لوگوں

دنیا سے رخصت اور آخرت کی زندگی میں داخل ہوتے وقت لکھوائی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور جھوٹے سے جھوٹا شخص بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بعد عمرؓ بن خطاب کو تمہارا خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ تم اس کے احکام کی کامل اطاعت کرو۔ میں نے حتی الامکان تم سے بھلائی کرنے میں کوئی دقیقہ سعی فرو گزاشت نہیں کیا۔ اگر عمرؓ نے عدل و انصاف سے کام لیا تو مجھے اس سے بھی یہی امید ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو ہر شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے برے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ بہر حال میں نے اپنی دانست میں تمہاری بھلائی ہی کی تدبیر کی ہے۔ ورنہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے..... وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔“

بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو بکرؓ نے عثمانؓ کو وصیت لکھوائی شروع کی۔ جب ان الفاظ پر پہنچے کہ ”میں تم پر خلیفہ بناتا ہوں“ تو ان پر غشی طاری ہو گئی۔ عثمانؓ کو ابو بکرؓ کا منشاء معلوم ہی تھا۔ انہوں نے حالت غشی ہی میں یہ الفاظ لکھ دیئے:

”میں عمرؓ بن خطاب کو تم پر خلیفہ مقرر کرتا ہوں اور میں نے تمہاری بھلائی میں کوئی دقیقہ سعی فرو گزاشت نہیں کیا۔“

جب ابو بکرؓ کی غشی دور ہوئی تو انہوں نے فرمایا: ”جو میں نے لکھوایا تھا اسے دوبارہ

پڑھو۔“

جب عثمانؓ نے پوری عبارت پڑھی تو ابو بکرؓ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا: ”معلوم ہوتا ہے تمہیں ڈر تھا کہ اگر غشی کی حالت میں میری جان نکل

لوگوں میں نہ کیا جائے۔“ اسی طرح جہاں اہل دوزخ کا ذکر کیا ہے وہاں ان کے برے اعمال کا ذکر کیا ہے لیکن ان کی اچھی باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ جب تم ان آیات پر پہنچو تو کہو ”اے اللہ! مجھے امید ہے کہ میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہوگا۔“ اللہ نے اکثر جگہ رحمت اور عذاب کی آیات یکجا کر دی ہیں تاکہ بندے کو جہاں ذوق و شوق سے نیکی کی طرف قدم اٹھانے کی رغبت پیدا ہو۔ وہاں اسے خدائی عذاب کا ڈر بھی پیدا ہو۔ وہ صرف حق کی پیروی کرے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اے عمر! اگر تم میری ان نصائح پر کان دھرو گے اور ان پر عمل کرو گے تو موت سے زیادہ کوئی چیز تمہیں محبوب نہ ہوگی اور تم بڑی بے قراری سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اس کے انعامات سے بہرہ ور ہونے کی خواہش ظاہر کرو گے لیکن اگر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دو گے تو موت سے زیادہ اور کوئی چیز تمہارے لیے ڈر کا باعث نہ ہوگی اور یاد رکھو کہ اس طرح تم ہر گز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔

روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ نصائح سن کر عمرؓ ابو بکرؓ کے کمرے سے باہر آئے تو ابو بکرؓ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی:

”اے اللہ! میں نے عمرؓ کو اپنا جانشین بنا کر اپنی دانست میں مسلمانوں کے لیے بھلائی کا سامان کیا ہے۔ مجھے اپنے بعد فتنے کا ڈر تھا۔ میں نے یہ کام محض فتنے کی روک تھام کے لیے کیا ہے۔ میں نے خوب غور و فکر کر کے ایسے شخص کو ان کا امیر مقرر کیا ہے جو ان میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ مستعد اور مسلمانوں کی بھلائی کا سب سے زیادہ

سے کہا:

”جس شخص کی خلافت کا اس وصیت میں ذکر ہے تم اس کی بیعت کر لو گے؟“

لوگوں نے جواب دیا:

”یقیناً“

چنانچہ انہوں نے عثمانؓ کے کہنے کے مطابق عمرؓ بن خطاب کی بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد ابو بکرؓ نے عمرؓ کو اپنے پاس بلا کر انہیں امور سلطنت کے متعلق بعض اہم ہدایات دیں۔ روایات میں ان ہدایات کی تفصیل اس طرح آئی ہے:

”میں اپنے بعد تمہیں اپنا جانشین مقرر کر کے اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ نے بعض عمل رات کو کرنے کے لیے مقرر فرمائے ہیں، وہ انہیں دن میں قبول نہیں کرتا اور بعض عمل دن کو کرنے کے لیے مقرر فرمائے ہیں، انہیں وہ رات کو قبول نہیں کرتا۔ جب تک فرضی عبادات کی بجا آوری نہ کی جائے نفلی عبادتیں قبول نہیں ہوتیں۔ جس شخص کے پلڑے قیامت کے دن بھاری ہوں گے وہ دنیا میں نیک اعمال بجالانے والا ہوگا کیونکہ حق کی بجا آوری کے بغیر پلڑوں کا بھاری ہونا غیر ممکن ہے اور جس شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ دنیا میں برے اعمال بجالانے والا ہوگا کیونکہ باطل کی پیروی کیے بغیر پلڑوں کا ہلکا ہونا غیر ممکن ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اہل جنت کا ذکر کیا ہے وہاں نیک اعمال بجالانے کی وجہ سے ان کی تعریف اوزان کی برائیوں سے درگزر کی ہے۔ جب تم ان آیات کی تلاوت کرو تو کہو ’اے اللہ! مجھے ڈر ہے کہ مبادا میرا شمار ان

یہ سن کر ابو بکرؓ نے فرمایا:

”تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں کوئی حسرت لیے ہوئے اس دنیا سے نہیں جا رہا۔ البتہ تین باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق مجھے افسوس ہے کہ میں نے انہیں کیوں کیا، کاش میں انہیں نہ کرتا۔ تین کام میں نے نہیں کیے، کاش میں انہیں کر لیتا اور تین باتیں ایسی ہیں جنہیں میں رسول اللہؐ سے دریافت نہ کر سکا، کاش انہیں دریافت کر لیتا۔

تین باتیں جو مجھے نہ کرنی چاہیے تھیں وہ یہ ہیں:

۱۔ کاش میں فاطمہؓ کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہوتا خواہ ان لوگوں نے لڑائی ہی کی خاطر اسے بند کیا ہوتا۔^۱

۲۔ کاش میں فجاءہ السلمی کو آگ میں نہ جلاتا۔ یا تو اسے تلوار سے قتل کر دیتا، یا اس کی جان بخشی کر کے چھوڑ دیتا۔

۳۔ کاش میں سقیفہ بنی ساعدہ والے دن خلافت کا بار عمرؓ اور ابو عبیدہ میں سے کسی پر ڈال دیتا۔ ان میں سے کوئی امیر ہوتا اور میں اس کا وزیر۔

جو امور مجھے بجالانے چاہئیں تھے وہ ہیں:

۱۔ جب اشعث بن قیس حالت اسیری میں میرے پاس لایا گیا تھا تو مجھے اس کی گردن اڑا دینی چاہیے تھی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ فتنہ پرداز آدمی ہے اور کوئی فتنہ پیدا ہونے پر اسے ضرور بھڑکانے میں

۱۔ جو لوگ علیؓ کے بیعت نہ کرنے کا واقعہ تسلیم نہیں کرتے وہ اس صورت کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ روایت بھی تسلیم نہیں کرتے کہ ابو بکرؓ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش وہ انصار کے حق خلافت کے بارے میں رسول اللہؐ سے دریافت کر لیتے۔

خواہش مند ہے۔ میری موت نزدیک آچکی ہے۔ میرے بعد تو ہی مسلمانوں کی نگہداشت فرما کیونکہ وہ تیرے بندے ہیں اور تیرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اے اللہ! ان کے امیر کو نیک اعمال بجالانے کی صلاحیت عطا فرما۔ اسے خلفاء راشدین میں سے بنا اور اس کی رعایا کو بھی اس کا مطیع و فرماں بردار بنا۔“

مذکورہ بالا ہدایات اور دعا کی توثیق کرنا ہمارے لیے بے حد مشکل ہے خصوصاً اس فقرے سے کہ ”اے اللہ اسے خلفاء راشدین میں سے بنا!“ یہ شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ عبارت فرضی طور پر ابو بکرؓ کی طرف منسوب تو نہیں کر دی گئیں کیونکہ جب ایک شخص نے انہیں ”خلیفۃ اللہ“ کے لقب سے پکارا تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفہ رسول اللہ ہوں۔ چنانچہ اپنے انکسار کے باوصف وہ اپنے لیے ”راشد“ کا لفظ شاید ہی استعمال کرتے۔ ساتھ ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکرؓ کے عہد کے متعلق متضاد روایات کتب تاریخ میں درج ہیں تو ہمارے لیے ان روایات کی چھان بین کرنا اور انہیں قبول کرنے میں بے حد احتیاط سے کام لینا ضروری ہو جاتا ہے۔

محاسبہ نفس:

جب ابو بکرؓ کے تقرر سے فارغ ہو چکے اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے اپنے بعد مسلمانوں کی نگہداشت کا کامل انتظام کر دیا ہے تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا شروع کیا۔ عبد الرحمن بن عوفؓ سے روایت ہے کہ ابو بکرؓ کو مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق جو پریشانی تھی میں اسے دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان سے تشفی آمیز گفتگو کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا۔ ”آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کی تمام خواہشات پوری کر دیں اور آپ کے دل میں دنیا کی کسی بات کے متعلق کوئی حسرت باقی نہیں رہی۔“

کیا کرتے تھے لیکن جب امور سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر پڑا تو انہوں نے مجبوراً اس پیشے کو خیر باد کہا اور بیت المال سے اپنے لیے وظیفہ مقرر کر لیا جو ان کے اہل و عیال کے لیے کافی ہوتا۔ مرض الموت میں انہیں اس وظیفے کا بھی خیال آیا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ہدایت کی کہ میں نے دوران خلافت میں بیت المال سے جو رقم لی تھی اسے واپس کر دیا جائے اور اس غرض سے میری فلاں زمین بیچ کر اس سے حاصل شدہ رقم بیت المال میں جمع کرادی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب عمرؓ نے ابوبکرؓ کی ہدایت کے مطابق وہ رقم بیت المال میں جمع کی تو فرمایا:

”اللہ ابوبکرؓ پر رحم فرمائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد کسی

بھی شخص کو ان پر اعتراض کرنے کا کوئی موقع ہاتھ نہ آئے۔“

ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ابوبکرؓ کی وصیت کے مطابق ان کے متعلقین نے بیت المال سے لی ہوئی رقم عمرؓ کو لوٹائی تو انہوں نے ابوبکرؓ کے لیے دعا کی اور فرمایا:

”ان کے بعد میں امیر مقرر ہوا ہوں اور میں یہ رقم تم ہی کو لوٹاتا

ہوں۔“

اس سلسلے میں تیسری روایت یہ ہے کہ وفات کے وقت ابوبکرؓ کے پاس ایک بھی دینار یا درہم نہ تھا۔ انہوں نے ترکے میں ایک غلام، ایک اونٹ اور ایک مٹھی چادر چھوڑی۔ جس کی قیمت پانچ درہم تھی۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ وفات کے بعد ان چیزوں کو عمرؓ کے پاس بھیج دیا جائے۔ وصیت کے مطابق جب یہ چیزیں عمرؓ کے پاس پہنچیں تو وہ روپڑے اور کہا:

”ابوبکرؓ نے اپنے جانشین پر بہت سخت بوجھ ڈال دیا ہے۔“

ہمیں اس روایت کی صحت میں تاہل ہے کیونکہ اس کے بالمقابل اکثر روایات

حصہ لے گا۔^۱

۲۔ اسی طرح جب میں نے خالد بن ولید کو مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا تو مجھے مدینہ سے نکل کر ”ذوالقصر“ میں مقیم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے فبہا ورنہ میں ذوالقصر میں پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ سکتا۔

۳۔ جب میں نے خالد بن ولید کو شام بھیجا تھا تو اس کے ساتھ ہی عمر بن خطاب کو عراق بھیج دیتا اور یوں دونوں ہاتھ خدا کی راہ میں پھیلا دیتا۔

وہ تین باتیں، جن کے متعلق رسول اللہؐ سے دریافت کر لینا چاہیے تھا، یہ ہیں:

۱۔ خلافت کے متعلق آپ سے دریافت کر لیتا تا کہ بعد میں کسی کے لیے جھگڑا کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔

۲۔ آپ سے یہ بھی دریافت کر لیتا کہ خلافت میں انصار کا بھی حصہ ہے یا نہیں۔

۳۔ بھتیجی اور چچی کی میراث کے متعلق استفسار کر لیتا کیونکہ ان دونوں رشتہ داروں کی میراث کے متعلق میرے دل میں خلش باقی ہے۔“

وظیفے کی واپسی:

ابو بکرؓ مرض الموت میں صرف انہیں باتوں کے متعلق غور و فکر میں مشغول نہ تھے بلکہ بعض اور خیالات بھی ان کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ خلافت سے پہلے وہ تجارت

ابو بکرؓ کی قرأت کا کمال دیکھیے کہ ان کا یہ خدشہ ہو بہو پورا ہوا۔ جنگ صفین میں علیؓ کے لشکر میں شامل ہونے کے باوجود اشعثؓ و زہرہؓ امیر معاویہ سے مل گیا اور جب حکیم کا فتنہ برپا ہوا تو یہ اسے بھڑکانے میں پیش پیش تھا۔ (مترجم)

عائشہؓ کی صرف ایک بہن تھی۔ وہ بہت حیران ہوئیں کہ بہنوں کا کیا مطلب۔ انہوں نے والد سے اس کی وضاحت چاہی۔ ابو بکرؓ نے جواب دیا کہ تمہاری سوتیلی والدہ حبیبہ بنت خارجہ کو حمل ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ اس روایت سے بھی ابو بکرؓ کے ترکے کی موجودگی کا پتا چلتا ہے۔

تجہیز و تکفین کے متعلق وصیت:

ابو بکرؓ نے اپنی تجہیز و تکفین کے متعلق بھی ورثاء کو وصیت کر دی تھی۔ ان کی ہدایت تھی کہ انہیں دو کپڑوں میں کفن دیا جائے جو وہ بالعموم پہنا کرتے تھے کیونکہ نئے کپڑے پہننے کا زیادہ حق دار زندہ شخص ہے۔ اے غسل اسماء بنت عمیس دیں اور اگر وہ اکیلی یہ کام نہ کر سکیں تو اپنے بیٹے عبدالرحمن کو بھی ساتھ ملا لیں۔

ابو بکرؓ اپنی تجہیز و تکفین کے متعلق ہدایات دینے میں مشغول تھے کہ ثنیٰ عراق سے مدینہ پہنچے اور باریابی کی اجازت چاہی۔ انہوں نے باوجود حد درجہ نقاہت کے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ثنیٰ نے درخواست کی کہ عراق کی صورت حال کے پیش نظر ان لوگوں کو اسلامی

۱۔ تجہیز و تکفین کے متعلق متعدد روایات مروی ہیں اور وہ تمام عائشہؓ سے منسوب ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے وہ ایک کپڑا پہنے رہا کرتے تھے۔ وفات کے وقت انہوں نے کہا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرا یہ کپڑا دھو کر اور دو نئے کپڑے اس سے ملا کر مجھے کفن دیا جائے۔ عائشہؓ کہتی ہیں ”میں نے کہا ہم تین کپڑے نئے کیوں نہ لیں؟“ انہوں نے فرمایا:

”نہیں بیٹی! کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ خون اور پیپ وغیرہ جسم سے نکلے تو اس میں جذب ہو جائے۔ نئے کپڑے پہننے کا زیادہ حق دار زندہ شخص ہے۔“ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو بکرؓ نے عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہؐ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا ”تین میں۔“ آپؐ نے فرمایا ”میرے یہ دونوں کپڑے دھو لینا اور ایک کپڑا ساتھ ملا کر ان میں مجھے کفن دے دینا۔“ عائشہؓ نے کہا ”ابا جان! ہم میں اتنی استطاعت ہے کہ ہم نئے کپڑوں میں آپؐ کو کفن دے سکیں۔“ انہوں نے فرمایا ”اے میری بیٹی! زندہ شخص نئے کپڑے کا زیادہ حق دار ہے۔ کفن تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ پیپ وغیرہ اس میں جذب ہو جائے۔“ ان کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جو طبقات ابن سعد میں درج ہیں۔

ایسی موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ابو بکرؓ نے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑا تھا گو وہ بہت ہی قلیل تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے ترکے کے پانچویں حصے کی وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ جس طرح مال غنیمت میں سے حکومت کو پانچواں حصہ ملتا ہے اسی طرح میرے رشتہ داروں کو بھی میرے مال کا پانچواں حصہ ہی ملنا چاہیے۔ جب بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بجائے پانچویں حصے کے چوتھے حصے کی وصیت کر دیں تو انہوں نے کہا کون شخص نہیں چاہتا کہ اپنے متعلقین کے لیے وافر مال اسباب چھوڑ کر جائے لیکن اللہ کا حق مقدم ہوتا ہے۔ اگر میں بجائے پانچویں حصے کے چوتھے حصے کی وصیت کر جاؤں تو تم کہو گے کہ تیسرے حصے کی وصیت کرو اور جو شخص اپنے رشتہ داروں کے لیے تیسرے حصے کی وصیت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ باقی نہیں چھوڑتا۔“

اگر ابو بکرؓ نے کچھ ترکہ نہ چھوڑا تھا اور عائشہؓ کی طرف منسوب کی ہوئی یہ روایت صحیح مان لی جائے کہ ابو بکرؓ نے ایک بھی دینار اور درہم باقی نہیں چھوڑا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابو بکرؓ نے پانچویں حصے کی وصیت کیونکر کر دی؟ وصیت تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس مال ہو خواہ تھوڑا ہو خواہ بہت۔

رسول اللہؐ نے وفات سے قبل ابو بکرؓ کو ایک قطعہ زمین مرحمت فرمایا تھا جسے انہوں نے درست کر کے اس میں درخت لگوائے تھے۔ بعد میں انہوں نے یہ قطعہ اپنی بیٹی عائشہؓ کو دے دیا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپؐ نے عائشہؓ سے کہا:

”اے میری بیٹی! میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ میرے بعد تمہیں مالی

اعتبار سے کسی قسم کی تنگی برداشت کرنی پڑے۔ میری دلی خواہش ہے

کہ تم با فراغت زندگی بسر کرو پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ جو قطعہ زمین

میں نے تمہیں دیا تھا وہ تم مجھے واپس کر دو تا کہ میں احکام وراثت کے

مطابق اسے تمہارے بھائیوں اور بہنوں میں تقسیم کر دوں۔“

ایک روایت میں مذکور ہے کہ یہ شعر ابوبکرؓ نے پڑھا تھا۔ آخری بات جو ان کے منہ سے نکلی وہ یہ دعا تھی:

رب توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین (اے میرے پروردگار! مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مرنے کے بعد مجھے صالحین کے پاس جگہ دینا)
ابوبکرؓ کی وفات ۲۱ جمادی الاخریٰ ۱۳ھ (مطابق ۱۲ اگست ۶۳۲ء) پیر کو سورج غروب ہونے کے بعد ہوئی اور اسی رات انہیں دفن کر دیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر تریسٹھ برس کی تھی۔ وصیت کے مطابق ان کی بیوی اسماء بنت عمیس نے انہیں غسل دیا اور ان کے بیٹے عبدالرحمن نے جسم پر پانی ڈالا۔ اس کے بعد ان کی نعش اسی چارپائی پر رکھ کر مسجد نبوی میں لے گئے جس پر رسول اللہؐ کا جسد اطہر اٹھا کر قبر میں اتارا گیا تھا۔

مسجد نبوی میں ان کا جنازہ رسول اللہؐ کے مزار اور منبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز عمرؓ نے پڑھانی۔ اس کے بعد جنازہ عائشہؓ کے حجرے میں لے گئے جہاں رسول اللہؐ کے پہلو میں ان کے لیے قبر تیار کی گئی تھی۔ عمرؓ، عثمانؓ، طلحہؓ اور عبدالرحمن بن ابی بکرؓ ساتھ گئے۔ عبداللہ بن ابی بکرؓ نے حجرے میں داخل ہونا چاہا مگر عمرؓ نے کہا ”جگہ نہیں۔“

ابوبکرؓ کو رسول اللہؐ کے پہلو میں اس طرح دفن کیا گیا کہ ان کا سر رسول اللہؐ کے کندھوں کے متوازی تھا۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد سب لوگ باچشم گریاں حجرے سے باہر نکل آئے اور خلیفہ رسول اللہؐ کو رسول اللہؐ کے پہلو میں چھوڑ آئے۔ زندگی بھر دونوں ساتھ رہے۔ یہ رفاقت مرنے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی اور رسول اللہؐ کا سب سے محبوب خادم اپنے آقا کے برابر ہی آرام کر رہا ہے۔

ابوبکرؓ کی وفات سے مدینہ تھرا اٹھا اور لوگوں پر کرب و اضطراب کی وہی کیفیت طاری ہو گئی جس کا نظارہ رسول اللہؐ کی وفات کے وقت دیکھنے میں آیا تھا۔ علیؓ بن ابی طالب روتے ہوئے آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے:

فوج میں داخل ہونے کی اجازت دے دیجئے جو مرتد ہو گئے تھے اور اب اپنے کیے پر پشیمان ہیں۔ انہوں نے عمر کو بلا کر کہا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے مثنیٰ کی مدد کے لیے فوج روانہ کر دو، میری وفات تمہیں ایسا کرنے سے مطلق نہ روکے۔

وفات:

نزع کے وقت ان کی بیٹی عائشہ ان کے پہلو میں بیٹھی تھیں۔ انہوں نے باپ کی یہ حالت دیکھ کر حاتم کا یہ شعر پڑھا:

لهرک ما یغنی الثراء عن الفتی

اذا حشرت یوماً وضاق بها صدر

جب (نزع کی حالت طاری ہوتی ہے اور سینہ سانس نہ آنے کی وجہ

سے گھٹنے لگتا ہے تو دولت انسان کے کام نہیں آتی۔)

یہ شعر سن کر ابو بکرؓ نے غصے سے عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا:

”بیٹی اس کے بجائے یہ لفظ پڑھ:

وجاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحید

(نزع کی حالت طاری ہو گئی، یہ وہ وقت ہے جس سے تو خوف کھایا کرتا تھا)

ان کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی تو عائشہؓ نے ان کے سر ہانے بیٹھ کر یہ

شعر پڑھا:

وکل ذی غیبتہ یودب

وغائب الموت لا یودب

(ہر جانے والے کی واپسی کے لیے امید کی جاسکتی ہے مگر اس شخص کی

واپسی ناممکن ہے جسے موت ساتھ لے جائے۔)

قوت تمہیں حاصل تھی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے آپ کو بندہ پر تقصیر سمجھتے تھے لیکن اللہ کے نزدیک تمہارا مرتبہ بے حد بلند تھا۔ تم دنیا والوں کی نظروں میں واقعی ایک جلیل القدر انسان تھے اور مومنوں کی نگاہوں میں انتہائی رفیع الشان شخصیت کے مالک۔ لالچ اور نفسانی خواہشات تمہارے پاس بھی نہ پھٹکتی تھیں۔ ہر کمزور انسان تمہارے نزدیک اس وقت تک قوی تھا اور ہر قوی انسان اس وقت تک کمزور۔ جب تک تم قوی سے کمزور کا حق لے کر اسے نہ دلوادیتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمہارے اجر سے محروم نہ رکھے اور ہمیں تمہارے بعد بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے بلکہ ہمارے سہارے کے لیے کوئی نہ کوئی سامان پیدا کر دے۔“ ام المومنین عائشہؓ نے کہا:

”اے ابا جان! اللہ آپ کے چہرے کو تروتازہ رکھے اور دین اسلام کو آفات و مصائب سے بچانے کے لیے جو مساعی آپ نے کی ہیں ان کا بہتر بدلہ آپ کو دے۔ آپ نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اسے ذلیل کر دیا ہے اور آخرت کو اپنے دم سے عزت بخشی ہے۔ آپ کی وفات رسول اللہؐ کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ دردناک حادثہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں بندوں کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بدلے بہترین انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہم بھی آپ کی وفات پر صبر و استقامت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے ان انعامات کے طالب ہیں جو اس نے صبر کرنے کے بدلے میں ہم سے کزر رکھے ہیں۔ اللہ آپ پر اپنی رحمت اور سلامتی نازل فرمائے۔“

عمرؓ کو تو اس صدمے کے باعث گفتگو کا یارا ہی نہ رہا تھا۔ وفات کے بعد جب وہ

”اے ابوبکرؓ! اللہ تم پر رحم کرے۔ واللہ! تم پہلے آدمی تھے جس نے رسول اللہؐ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا۔ ایمان و اخلاص میں تمہارا ہم پلہ کوئی نہ تھا۔ خلوص و محبت میں تم سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ اخلاق، قربانی، ایثار اور بزرگی میں تمہارا ثانی کوئی نہ تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت تم نے کی اور رسول اللہؐ کی رفاقت میں جس طرح ثابت قدم رہے اس کا بدلہ اللہ ہی تمہیں دے گا۔ جب ساری قوم رسول اللہؐ کی تکذیب میں مشغول تھی تو تم نے آپؐ کی آواز پر لبیک کہا۔ جب ساری قوم آپؐ کو اذیتیں پہنچانے کے درپے تھی تو تم نے آپؐ کی حفاظت کی۔ جب رسول اللہؐ کی باتوں پر لوگ مطلق کان نہ دھرتے تھے۔ تو تم نے آپؐ سے مل کر اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ تمہیں اللہ نے اپنی کتاب میں ”صدیق“ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ فرماتا ہے ”والذی جاء بالصدق وصدق به“ (اے کافرو! اس شخص کے حالات پر غور کرو جو تمہارے پاس صدق و یقین سے بھرپور باتیں کرنے آیا ہے (رسول اللہؐ)) اور اسے بھی دیکھو جو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے (ابوبکرؓ)۔ واللہ! تم اسلام کے حصن حصین تھے۔ کافروں کے لیے تمہارا وجود انتہائی اذیت بخش تھا۔ تمہاری کوئی دلیل وزن سے خالی نہ ہوتی تھی اور تمہاری بصیرت اور فہم و فراست کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ تمہاری سرشت میں کمزوری کا ذرا سا بھی دخل نہ تھا۔ تم ایک پہاڑ کی مانند تھے جسے تند و تیز آندھیاں بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتیں۔ اگرچہ تم جسمانی لحاظ سے کمزور تھے لیکن دینی لحاظ سے جو

مسلمانوں کی جرأت و ہمت کی بدولت اسلام عرب کی حدود سے نکل کر رومی اور ایرانی مقبوضات میں دور دور تک پھیل گیا۔ ابوبکرؓ کے ذریعے سے اللہ جو کام کرانا چاہتا تھا جب وہ پورا ہو چکا تو اس نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔

اگر ابوبکرؓ، عمرؓ کو جانشین مقرر نہ کرتے تو نہ معلوم اس کا کیا نتیجہ نکلتا۔ یہ آخری کارنامہ جو ابوبکرؓ نے انجام دیا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کی بدولت اسلام عروج کی آخری منزل تک پہنچ گیا۔ عمرؓ کے عہد میں اسلام کو جو ترقی نصیب ہوئی اسے دیکھ کر یقین کرنا پڑتا ہے کہ عمرؓ کا انتخاب خدائی انتخاب تھا جو اسی کی دی ہوئی توفیق سے ابوبکرؓ نے کیا۔ اس انتخاب میں زبان ابوبکرؓ کی لیکن مشیت خدا کی کام کر رہی تھی۔

لا ریب ابوبکرؓ اور عمرؓ وہ مقدس وجود تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیوی آلائشوں سے کلیۃً پاک کر کے خالصۃً اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ دونوں کی طبیعتیں مختلف تھیں۔ لیکن مقاصد ایک ہی تھے..... یعنی عدل و انصاف کا قیام اور اعلاء کلمۃ الحق..... دونوں بزرگوں نے ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنی زندگیاں یکسر وقف کر دی تھیں اور دونوں نہایت درجہ کامیاب و کامران ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔

اللہ ابوبکرؓ پر فضل فرمائے اور انہیں اس دنیا کی طرح بہشت میں بھی اپنی نوازش ہائے بے پایاں سے نواز کر اپنے محبوب محمد مصطفیٰؐ کے قرب میں جگہ دے آمین!

حرف آخر:

میں نے کتاب کے آغاز ہی میں بیان کیا تھا کہ ابوبکرؓ کا عہد اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے اور ان کے کارنامے ذہن انسانی پر رعب و ہیبت طاری کر دیتے ہیں۔ میری اس رائے کی تائید وہ اصحاب بھی کریں گے جنہوں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھا ہے اور ان عظیم الشان کارناموں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جو ابوبکرؓ نے اپنے انتہائی مختصر عہد

حجرے میں داخل ہوئے تو صرف یہ الفاظ ان کے منہ سے نکل سکے:

”اے خلیفہ رسول اللہ! تمہاری وفات نے قوم کو سخت مصیبت اور مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم تو تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، تمہارے مرتبے کو کس طرح پا سکتے ہیں؟“

جب ابو بکرؓ کی وفات کی خبر مدینہ سے باہر قبائل عرب میں پھیلی تو کوئی درد مند آنکھ ایسی نہ تھی جو اس سانحہ عظیمہ کے باعث پر غم نہ ہوئی ہو۔ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی تو وہاں بھی ہر طرف سے آہ و شون کی آوازیں آنے لگیں۔ ابو بکرؓ کے والد ابو قحافہ اس وقت تک زندہ تھے۔ جب انہوں نے گریہ و زاری کی آوازیں سنیں تو لوگوں سے واقعہ پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کا لڑکا فوت ہو گیا۔ یہ سن کر ان کے دل پر اس قدر سخت صدمہ ہوا کہ وہ ان اللہ وانا للیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد اور کوئی بات نہ کی۔ جب لوگوں نے ابو بکرؓ کے ترکے میں سے ان کا حصہ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا:

”ابو بکرؓ کے لڑکے اس کے زیادہ حق دار ہیں۔“

ابو بکرؓ کی وفات کے بعد ان کے والد کو بھی زیادہ عرصہ زندہ رہنا نصیب نہ ہوا اور وہ اس عظیم حادثے کی تاب نہ لاتے ہوئے چھ مہینے بعد وفات پا گئے۔

صحابہ کی بے چینی اور بے قراری یقیناً حق بجانب تھی۔ ابو بکرؓ نے اسلام کی سر بلندی کی خاطر جو مشکلات اور تکالیف برداشت کیں اور جس طرح اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے وقف کیا اس کی نظیر اور کوئی نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے پاک نمونے سے دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں بھی دین کی تڑپ پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے ہر قسم کی سختیاں جھیل کر اور ایمان و استقامت اور عزم و استقلال سے کام لے کر اسلام کو ہر امکانی خطرے سے بچایا اور اس راہ میں اپنی جان کی بھی پروا نہ کی۔ اللہ نے خلیفہ اول کے عہد میں مومنوں کا امتحان لیا تھا۔ وہ اس امتحان میں پورے اترے اور خلیفہ کے ایمان و ایقان اور

مسئلے چشمے ہر طرف جاری تھے۔ غرض دونوں سلطنتوں کو کسی چیز کی قلت نہ تھی۔ وہاں کے باشندے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ اور با فراغت زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن بد قسمتی سے ہر سلطنت یہ خیال کرتی تھی کہ ان نعمتوں سے بہرہ ور ہونے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے۔ اسی ذہنیت کے زیر اثر وہ دوسروں کا مال غصب اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنے میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہ سمجھتی تھیں بلکہ اسے فرض اولین خیال کرتی تھیں۔

یہی وجہ تھی کہ دونوں سلطنتیں متواتر سات سو سال تک ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں۔ کبھی ایک سلطنت کو فتح حاصل ہو جاتی تھی اور کبھی دوسری حکومت خوشی کے شادیاں بجاتی دوسرے کے علاقے پر قابض ہو جاتی تھی۔ لیکن فتح و شکست کے اس پیہم سلسلے کے باوجود دوسری اقوام کے دلوں سے ان کی ہیبت کم نہ ہوتی تھی کیونکہ وہ سمجھتی تھیں کہ جو فریق آج کسی کمزوری کی وجہ سے شکست کھا گیا ہے وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک اس شکست کا انتقام لے کر فاتح قوم پر اپنی برتری ثابت نہ کر دے گا۔ جو آج غالب ہے وہ کل مغلوب ہوگا اور جو آج مغلوب ہے وہ کل غالب آجائے گا اور فتح و شکست کا سلسلہ باری باری چلتا جائے گا۔

اس زمانے میں، جب ہر جگہ ان دونوں سلطنتوں کا غلبہ بلند تھا ہر طرف انہیں کی ثقافت کا ڈنکا بج رہا تھا، عرب کی سرزمین سے ایک بظاہر غیر مہذب قوم اٹھی اور آن کی آن میں ربع مسکون پر چھا گئی۔ یہ ایسا حیرت آفرین واقعہ تھا جس کی تہ کو کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔ کسی کے سان گمان میں یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ عرب کی سنگلاخ سرزمین سے ایک ایسی امت و ملت جنم لے سکتی ہے جو ایران اور رومیہ کے اقتدار اور ان کی صدیوں پرانی تہذیب کو آن کی آن میں پیوند خاک کر دے۔ کونسا خیال کر سکتا تھا کہ اس سرزمین سے تہذیب و تمدن کے سوتے پھوٹ سکتے ہیں..... سوتے پھوٹنا تو بڑی بات ہے وہاں سے علم و عمل کی کوئی ہلکی سی کرن بھی ضوفشاں ہو سکتی ہے..... جس کے باشندوں کی حیثیت کسریٰ شاہ فارس کے

خلافت میں انجام دیئے۔ ابو بکرؓ کے عہد کی یہ تاریخ درس و مواعظ کا۔
اپنے اندر رکھتی ہے اور اس کے پڑھنے سے قوموں کے عروج و زوال کا
ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔

اس وقت دنیا کے پردے پر دو ہی عظیم الشان سلطنتیں تھیں۔ جن میں سے ایک
مغربی تہذیب و تمدن، عقائد اور علوم و فنون کی علم بردار تھی اور دوسری مشرقی تہذیب و تمدن،
عقائد اور علوم و فنون کا مقور۔ سلطنت رومہ لاطینی، فینیقی اور فرعونی تہذیب و آثار کا مجموعہ تھی
اور سلطنت ایران، ایرانی اور ہندوستانی تمدن اور مشرق بعید کے مذاہب کا نقشہ پیش کرتی
تھی۔ مقدم الذکر سلطنت وسطی یورپ بلکہ اس سے بھی پرے بحیرہ روم کے مشرق تک پھیلی
ہوئی تھی۔ اور مؤخر الذکر مملکت وسطی ایشیا سے لے کر دجلہ اور فرات کے طویل و عریض
میدانوں پر محیط تھی۔ ان دو عظیم الشان سلطنتوں کے درمیان ایک ہولناک اور لقمہ و دق صحرا
حائل تھا جہاں دور دور تک روئیدگی کا نام و نشان تک نہ ملتا تھا۔ یہ ریگستان، جسے صحرائے شام
کہا جاتا ہے، ان خانہ بدوش قبائل کا مسکن تھا جو جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر رومی اور ایرانی
سرحدوں پر آباد ہو گئے تھے۔ یہ دونوں عظیم قوتیں کبھی چین سے نہ ہٹھکتی تھیں بلکہ ہمیشہ جنگ
و جدل میں مصروف اور آئے دن ایک دوسری کے خلاف طاقت و قوت کے مظاہرے کرتی
رہتی تھی۔ صدیوں سے ان کا یہی مشغلہ چلا آ رہا تھا اور دنیا پر اپنی عظمت و ہیبت کا سکھ بٹھانے
کے لیے حرب و پیکار کے سوا اور کوئی وسیلہ ان کے پاس نہ تھا۔

باہم جنگ و جدل کا سبب یہ نہ تھا کہ ان سلطنتوں میں افلاس و ناداری نے ڈیرے
ڈال رکھے تھے اور تنگ دستی دور کرنے کی غرض سے انہوں نے ایک دوسرے کے علاقے پر
دست درازی و غارت گری کو وطیرہ بنا رکھا تھا بلکہ اس کے برعکس یہ سلطنتیں بے حد خوش حال
تھیں۔ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ سرسبز و شاداب علاقے اور سونا گلنے والی
زمینیں ان کے قبضے میں تھیں۔ ہر قسم کی صنعتیں ان ملکوں میں فروغ پا رہی تھیں۔ علم و ادب

بھی گئی تھی تو لازماً اس کا اثر صرف ابو بکرؓ کے عہد تک محدود رہنا چاہیے تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عمرؓ اور عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں بھی فتوحات کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ مسلمانوں کو سلطنت ایران اور سلطنت روم کے مقابلے میں روز افزوں کامیابیاں نصیب ہوتی چلی گئیں اور کوئی طاقت انہیں آگے بڑھنے سے روک نہ سکی۔ اس لیے ان کامیابیوں کو اتفاقی حوادث کا نام دے کر ان کے اصل اسباب نظر انداز نہیں کیے جاسکتے۔

واقعات کا بنظر غائر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو کچھ پیش آیا وہ طبعِ دوراں کے اقتضاء کے عین مطابق تھا۔ زمانے کا تقاضا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ افراد کی طرح قوموں پر بھی لازماً انحطاط کا زمانہ آتا ہے اور جس قوم پر انحطاط کا دور آ جائے فتنہ و فساد اور شورش و اضطراب اس میں راہ پا کر اس کی زندگی کا خاتمہ نزدیک لے آتے ہیں۔ اس وقت اس زوال پذیر طاقت کی جگہ لینے کے لیے ایک اور قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور جو پرانی ثقافت کے آثار کو مٹا کر ایک نئی ثقافت کی بنیاد رکھ دیتی ہے۔

اس کتاب میں پہلے بھی کئی بار شورش و اضطراب کے ان عوامل کا تفصیلی ذکر کیا جا چکا ہے جو بارہا فارس اور روم میں برپا ہوتے رہتے تھے۔ چھٹی صدی عیسوی میں ان عوامل نے اثر دکھانا شروع کیا اور فارس میں فتنہ و فساد نقطہ عروج تک پہنچ گیا۔ اس زمانے میں وہاں ہر جانب بد نظمی اور ابتری کا دور دورہ تھا۔ تخت شاہی کے متعدد دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھکنڈے اختیار کیے جا رہے تھے اور خود غرضی لوگوں کے دلوں میں سرایت کر چکی تھی۔ اس فساد کا اثر دوسرے شعبہ ہائے حیات پر بھی پڑا۔ ملک کے باشندے اتحاد و اتفاق کی دولت کھو بیٹھے۔ گروہ بندیاں قائم ہو گئیں۔ مختلف جھگڑے جنم لینے لگے اور لوگوں کے عقائد میں انتشار پیدا ہو گیا۔ یگانگی اور اخوت کی جگہ عصبیت اور مذہبی و سیاسی گروہ بندیوں نے لے لی۔ اس لیے جو بھی گروہ برسرِ اقتدار آ جاتا وہ مخالفین کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے سے نہ چوکتا اور دوسروں کو مال و دولت اور جاہ و جلال

نزدیک اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں سے زیادہ نہ تھی اور قیصر روم بھوکے اور ننگے کا لقب دے کر جن کی تذلیل کرتا تھا کیا یہ بھوکی، ننگی، مویشی چرانے والی قوم، جس کی طرف اہل ایران اور اہل رومہ حقارت کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، ایسے فرزند پیدا کر سکتی تھی جو کسریٰ اور قیصر کی سلطنتوں کو خنجر و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتے؟

لیکن یہ سب منصہ شہود پر آیا۔ اس قوم نے انتہائی کمپرسی کی حالت سے ترقی کی، بہت ہی قلیل عرصے میں عرب کی سرزمین سے نکل کر قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کے مقابلے صف آرا ہو گئی اور اس وقت تک دم نہ لیا جب تک دونوں مملکتوں کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل نہ کر دیا۔ آپ نے اس کتاب میں ملاحظہ فرمایا ہو گا کہ عرب ان سلطنتوں پر جنگی ساز و سامان کی برتری یا تعداد کی زیادتی کے باعث غالب نہ آئے بلکہ یقین محکم اور عزم راسخ کی بدولت کامیاب و کامران ہوئے اور اسی ایمان و یقین نے اس اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے متواتر دس صدیوں تک اقصائے عالم میں علم و عرفان کا چراغ روشن کیے رکھا۔ یہی چراغ تھا جس نے اہل یورپ کو روشنی بخشی اور انہیں جہالت کے اتھاہ اندھیروں سے نجات دلا کر علم و عمل کی وہ راہ دکھائی جس پر آج وہ گامزن ہیں۔ اسلام نے اپنا دائرہ عرب، ایران اور شام ہی تک محدود نہ رکھا بلکہ اس نے ایشیا میں ہند، چین اور ترکستان، افریقہ میں مصر، تونس، الجزائر اور مراکش اور یورپ میں روس، اطالیہ اور ہسپانیہ تک صوفشانی کی اور ان علاقوں کی پیاسی سرزمین کو باران رحمت سے سیراب کیا۔

اس معجزے کا ظہور کس طرح ہوا اور تہذیب و تمدن سے کورے علوم و فنون سے نا آشنا، حقیر و ذلیل عرب کم مائیگی اور قلت تعداد کے باوجود ایران اور روم کی مہذب و شائستہ اقوام پر کس طرح غالب آ گئے؟ کیا یہ سب کچھ اتفاقاً واقع ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام کا یہ غلبہ کوئی اتفاقی امر نہ تھا جس کی نظیر اقوام عالم کی تاریخ میں ملنا غیر ممکن ہو۔ اگر بہ فرض محال ابو بکرؓ کے عہد میں بعض اتفاقی حوادث کی وجہ سے مسلمانوں کو عدیم النظیر کامیابی نصیب ہو

لانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ چنانچہ ایک بار پھر رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ چھڑ گئی جس میں انجام کار رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اور ہرقل نے اپنے تمام مقبوضات ایرانیوں سے واپس لے لیے۔ اس طرح ہرقل کی قوت و طاقت میں معتد بہ اضافہ ہو گیا اور لوگ خیال کرنے لگے کہ جٹینین کا عہد لوٹ کر آ گیا ہے۔

بیرونی دشمن پر فتح حاصل کرنے کے بعد ہرقل نے سلطنت کی اندرونی حالت کو مستحکم کرنا چاہا ملک کے استحکام میں سب سے بڑی رکاوٹ نا اتفاقی اور سلطنت کے باشندوں کی باہمی عداوت نے ڈال رکھی تھی۔ عیسائی بے شمار فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کا جانی دشمن تھا ہرقل نے اس رکاوٹ کو دور کرنے اور مذہبی اختلاف مٹا کر سلطنت کے تمام باشندوں کو ایک ہی مذہب پر جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن بد قسمتی سے اس غرض کے لیے اس نے جو طریق کار اختیار کیا اس نے تمام فرقوں کے لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکا دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہرقل ہمارے فرقے اور مذہب کی بیخ کنی پر تلا ہوا ہے اور تمام لوگوں کو بہ جبر اپنے فرقے میں داخل کرنے کا خواہاں ہے تو وہ اس کے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوئے اور سارا ملک مہیب خانہ جنگی میں مبتلا ہو گیا۔ اس طرح ہرقل نے جس طریق کار کو اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے مفید خیال کیا تھا وہی اس کی سلطنت کے ضعف کا باعث بن گیا۔

یہ تھے وہ عوامل جن کی بنا پر دنیا کی دو عظیم الشان سلطنتوں کو عروج کی آخری منزلوں تک پہنچنے کے بعد آخر ضعف و اضمحلال سے ہمکنار ہونا پڑا۔ گردش ایام کا تقاضا یہ تھا کہ ان نحیف و نزار اقوام کی جگہ نئی امتوں سے بھرپور ایک اور قوم کھڑی ہوتی جو حیرت انگیز کارناموں کی بدولت دنیا کی نظروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ عروج و زوال کے طبعی قوانین کے ماتحت اس نئی قوم کے مقدر میں اس وقت تک کامیابی کے مراحل طے کرنے لکھے تھے جب تک وہ حقیقتاً پیغام الہی کی حامل رہتی اور دنیا کو اسی کی پیروی میں اپنی نجات کے سامان

سے محروم کر کے ہر قسم کا آسائش و آرام اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا۔ یہ انتشار اس امر کا متقاضی تھا کہ سلطنت ایران کی صف لپیٹ دی جائے، خدائی نعمت اس سے چھین لی جائے اور اس قوم کے حوالے کر دی جائے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا جانتی ہو۔

سلطنت رومہ کا حال بھی ایرانی سلطنت سے کسی طرح کم نہ تھا۔ مذہبی مناقشات اور حصول اقتدار کا سلسلہ وہاں بھی جاری تھا۔ مختلف عیسائی فرقوں کے درمیان لامتناہی اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور ہر فرقہ اپنے عقائد دوسرے فرقے کے لوگوں پر زبردستی ٹھونسنے چاہتا تھا۔ حصول اقتدار کی خواہش بھی وہاں کے سرداروں کو بے چین کیے ہوئے تھی اور حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے سر پھٹول اور جنگ و جدل کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بھی ضعف و انحطاط کے آثار ہو پیدا ہونے لگے۔ گوجشنین نے بالغ نظری، اثر و رسوخ، عدل و انصاف اور زور و قوت کے بل بوتے پر سلطنت رومہ کے نیم مردہ جسم میں زندگی کی روح پھونکنے کی کوشش کی لیکن بیماری اس قدر بڑھ چکی تھی اور ضعف اس حد تک سرایت کر چکا تھا کہ کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور اس کے جانشینوں کے عہد میں سلطنت کی حالت برابر ابتر ہوتی چلی گئی۔ اس کے جانشینوں میں نہ وہ..... حکمت عملی تھی اور نہ وہ بالغ نظری، نہ وہ اثر و رسوخ تھا نہ وہ زور و قوت جس کے بل بوتے پر سلطنت کی بگڑی ہوئی حالت بنا سکتے۔ ساتویں صدی عیسوی کے اوائل میں فوکاس سریر آرائے سلطنت ہوا اور اس نے ڈنڈے کے زور سے ملک پر حکومت کرنی شروع کی لیکن یہ حکومت اسے اس نہ آئی۔ کچھ عرصے کے بعد سلطنت رومہ کے افریقی مقبوضات کے حاکم ہرقل نے فوکاس کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا۔ فوکاس کے آخری اور ہرقل کے ابتدائی عہد حکومت میں رومیوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ایرانیوں نے سلطنت رومہ کے بہت سے حصے پر قبضہ جما لیا تھا۔ جب ہرقل کی حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گئی تو اس نے چھینے ہوئے مقبوضات کو رومی عمل داری میں واپس

لوگوں کو ایسے نظام کی ضرورت کا احساس دلایا جس سے ذریعے سے امن و امان اور حریت عمل کی بنیاد رکھی جاسکے۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بعض اصول و ضوابط مرتب کیے اور ہر شخص کے لیے ان پر عمل پیرا ہونا اور ان کا احترام کرنا لازم قرار دیا۔ جب ذہن انسانی نے ترقی کی مزید راہیں طے کیں اور قدرت کے بعض اور راز اس پر منکشف ہوئے تو انسانی ضمیر نے انگڑائی لی، انسان کے لیے غور و فکر کے راستے کھل گئے اور ان راستوں کی بدولت اس نے علم و ادب اور فنون تک رسائی حاصل کر لی۔ انسانی ذہن اسی طرح کبھی ترقی کی منازل طے کرتا اور کبھی تنزل کی راہوں پر قدم مارتا رہا۔ جب کبھی انسان نے عقل و خرد کا آزادانہ استعمال کیا ترقی نے آگے بڑھ کر اس کے قدم چومے لیکن جب عقل پر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی تو ترقی بھی رک گئی۔ آزادی فکر و نظر کی بدولت عجیب و غریب ایجادیں عمل میں آئیں۔ انسان نے کائنات کو مسخر کرنے کے پروگرام تیار کیے۔ علم و عمل کی راہیں کھلیں۔ غرض ترقی کی منازل تیزی سے طے ہوتی رہیں اور انسان کہیں کا کہیں..... جا پہنچا۔ لیکن جب انسانی ذہن پر قیود عائد کر دی گئیں یا اس نے خود اپنے آپ پر عقل و فکر کے دروازے بند کر لیے تو کاروان انسانیت کے بڑھتے ہوئے قدم بھی رک گئے اور ترقی کی راہیں مسدود ہو گئیں۔

یہی حال ایرانیوں اور رومیوں کا بھی ہوا۔ جب تک ان میں فکر و عمل کی آزادی برقرار رہی وہ ترقی کے زینے طے کرتے چلے گئے لیکن جب حریت فکر اٹھ گئی اور لوگوں کے ذہنوں پر پھرے بٹھادیے گئے تو ترقی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور ان کی عظیم الشان تہذیب آہستہ آہستہ نابود ہونے لگی۔ خدائی قانون کے تحت ضروری تھا کہ ایک اور تہذیب ان مٹی ہوئی تہذیبوں کی جگہ لے۔ یہ شرف ازل سے عربوں کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ چنانچہ اللہ نے محمد مصطفیٰؐ کو اس غرض کے لیے چنا اور آپ کے ہاتھ سے اس تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی گئی جس نے ایرانی اور رومی تہذیب و تمدن کی جگہ لے کر دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔

نظر آتے۔

انسان کی آزادی اور خود مختاری کا چھن جانا اس کے لیے مادی تکالیف سے بدرجہا زیادہ اذیت بخش ہوتا ہے۔ آزادی پر قدغن عائد ہونے اور ضمیر کی حریت کا گلا گھونٹ دینے والے قوانین و عقائد سے انسانی ذہن پر جمود کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور انسان غور و فکر کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ طبیعت میں شگفتگی مطلق باقی نہیں رہتی۔ اطمینان اور سکون کی کیفیت بالکل مفقود ہو جاتی ہے۔ جب قوم کے افراد دیکھتے ہیں کہ ان کی آزادی چھینی جا رہی ہے، ان کے افکار و خیالات اور عقائد و اعمال پر قیود عائد کی جا رہی ہیں تو ان کے دل و دماغ میں باغیانہ خیالات پیہم گردش کرنے لگتے ہیں، باغیانہ روح ان میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مقصد براری کے لیے ہر قسم کے جائز و ناجائز وسائل اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لاریب جب کسی قوم کے فکر و نظر پر پابندیاں عائد کر دی جائیں اور انسانی ذہن کو منجمد کر کے اسے اپنے کمالات ظاہر کرنے کا موقع نہ دیا جائے تو اسی وقت سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ بالکل رک جاتی ہے۔

ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ فکر و نظر کے دروازے کھلے ہوں اور ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہو، تاریخ ارتقائے عالم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے بنی نوع انسان کی ترقی کا راز آزادی فکر و عمل میں مضمر رہا ہے۔ ہمارے اولین اسلاف کا جو جنگلوں اور پہاڑوں کی کھوہوں میں زندگی بسر کرتے تھے، شب و روز جنگلی جانوروں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا ان خون خوار درندوں کے مقابلے میں وہ اسی لیے کامیاب ہو جاتے تھے کہ وہ ذہنی آزادی کے سبب ایسے ہتھیار ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو ان جانوروں کے مقابلے میں کارآمد ثابت ہو سکیں۔ اس کے بعد جب بنی نوع انسان کی پہلی جماعت جنگلوں اور پہاڑیوں کی کھوہوں سے نکل کر دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئی اور پہلی بار دنیا میں تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی گئی تو فطرت انسان نے

تک دور طفولیت سے گزر رہا ہے۔ چھٹی صدی عیسوی میں اس کی جو حالت تھی کم و بیش وہی اب بھی ہے۔ اس دوران میں جنگہائے مدائن اور عراق و شام کے سوا باقی جتنی جنگیں ہوئیں ان کا مقصد تو کچھ اور تھا لیکن دنیا پر یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ جنگیں حریت، عدل و مساوات اور اخوت کے قیام کے لیے لڑی جا رہی ہیں۔ سادہ لوح عوام ہمیشہ عدل و انصاف اور مساوات کا بلند بانگ دعویٰ کرنے والے لیڈروں کے دام تزویر میں پھنستے رہے، انہوں نے ایک خوش آئند مستقبل کے حصول کی خاطر لیڈروں کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور جانیں تک قربان کرنے سے نہ ہچکچائے۔

جنگوں کے اختتام پر لوگوں کو بجا طور پر یہ امید ہوتی تھی کہ ان سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے جائیں گے اور جن اصولوں کے قیام اور بقا کی خاطر انہوں نے جنگ میں شرکت کی تھی۔ انہیں لباس عمل پہنایا جائے گا لیکن ہمیشہ ہی لوگوں کو مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا اور آخر ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ ان کے لیڈروں اور حاکموں کے سامنے صرف ذاتی مفاد تھا اور اسی ذاتی مفاد اور مادی اغراض کے حصول کے لیے انہوں نے سینکڑوں ہزاروں جانیں میدان جنگ میں تلف کر دیں۔ ان کے عدل و انصاف اور حریت و مساوات کے قیام کے وعدے جھوٹے تھے اور ان کی حقیقت سراب سے زیادہ نہ تھی۔ یہ واقعہ ہے کہ بیشتر جنگیں جو عدل و انصاف اور حریت و مساوات کے نام پر لڑی گئیں ان کا فائدہ صرف خود غرض، لالچی اور حریص لیڈروں کو پہنچا۔ انہوں نے ذاتی مطلب براری کے لیے عوام الناس کو جنگ کے شعلوں میں جھونکا اور ان کی لاشوں پر اپنے لیے عالی شان محل تعمیر کر لیے۔ عوام الناس کے بار بار دھوکا کھانے کی وجہ، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہ ہے کہ انسانی ضمیر ہنوز عالم طفلی میں ہے۔ بچہ جب چلنے کی کوشش کرتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے اور بار بار زمین پر گرتا ہے لیکن باز نہیں آتا۔ ایک مرتبہ زمین پر گرنے کے بعد اٹھتا ہے پھر لڑکھڑاتا ہوا چلنے لگتا ہے۔ دوبارہ گرتا ہے پھر اٹھتا ہے اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن یہی

رسول اللہؐ نے دنیا میں آ کر بت پرستی اور آتش پرستی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو ان بھاری زنجیروں سے نجات دلائی اور تلقین کی کہ اگر وہ اپنے لیے ترقی کی راہیں کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ غور و فکر کو کام میں لائیں اور آسمان و زمین کی لاتعداد طاقتوں اور قوتوں کو مسخر کر کے انہیں اپنے فائدے کی خاطر استعمال کریں۔

رسول اللہؐ نے دنیا کے سامنے جو تعلیم پیش کی تھی وہ ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھی جنہوں نے سادہ لوح عوام کو پھانس کر انہیں بے بنیاد توہمات، عقائد اور رسوم کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ بھلا کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے پیرو انہیں چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کریں۔ اس لیے انہوں نے آپ کے خلاف مخالفت کا ایک طوفان برپا کر دیا اور سالہا سال تک آپ سے جنگوں میں مصروف رہے۔ لیکن رسول اللہؐ کو اللہ کی طرف سے عزم راسخ عطا ہوا تھا۔ آپ نے نہایت پامردی سے ان کا مقابلہ کیا اور اس وقت تک میدان مبارزت میں موجود رہے جب تک اللہ نے اپنے دین کو کامل فتح عطا نہ فرما دی۔ مشیت ایزدی یہی تھی کہ اللہ کے رسولؐ کی پیش کردہ تعلیم کو فروغ حاصل ہو اور وہ اپنی سادگی و پاکیزگی کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور رسول اللہؐ کی وفات سے پہلے ہی اسلام اقصائے عرب میں پھیل گیا اور سارے ملک سے بت پرستی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔

رسول اللہؐ ہی کے زمانے سے مخصوص نہیں بلکہ ہر دور میں جب بھی حق و صداقت کی آواز بلند ہوئی، اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا اور علم برداران حق کو ان لوگوں کے ہاتھوں سخت تکالیف برداشت کرنی پڑیں جنہیں اپنی لیڈری ان آسمانی تحریکوں کے سامنے ختم ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ حق و باطل کے درمیان یہ آویزش ابتدائے آفرینش سے اب تک جاری ہے۔

پھر بھی اس سلسلے میں ایک فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ انسانی ضمیر ابھی

فارس اور روم کی سلطنتیں اپنے زمانے میں دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھیں۔ مگر عروج و زوال کے طبعی قوانین کے تحت آخر ان سلطنتوں پر بھی زوال آ گیا اور تہذیب و تمدن اور علم و شائستگی کے چراغ کی روشنی، جو صدیوں سے ایک عالم کو منور کر رہی تھی، آہستہ آہستہ مدہم پڑنی شروع ہو گئی۔ جزیرہ نمائے عرب ایران اور روم کے متصل واقع تھا۔ چونکہ یہ علاقے صدیوں سے تہذیب و تمدن اور علم و شائستگی کے مرکز تھے اس لیے ان میں کتنا ہی ضعف و اضمحلال راہ پا جاتا پھر بھی یہ امید کی جاسکتی تھی کہ اگر اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر مشتمل کوئی تعلیم ان کے سامنے پیش کی جائے گی تو وہ نہ صرف اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہ کریں گے بلکہ پہلے کی طرح اسے دوسرے علاقوں تک پہنچانے میں بھی مدد و معاون ثابت ہوں گے۔ خدائی نوشتوں میں جہاں ایران و روم کے زوال کی تفصیل مندرج تھی۔ وہاں یہ بھی مذکور تھا کہ ان علاقوں کے بالکل متصل عرب کی آزاد خود مختار سر زمین میں ایک جلیل المنزلت شخصیت مبعوث کیجائے گی جسے قبول کرنے میں دنیا کی نجات مضمر ہوگی، عرب سے یہ تعلیم ایران اور روم کے علاقوں میں جائے گی اور وہاں سے دنیا بھر میں پھیلے گی۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے اپنے نوشتوں کے مطابق عرب کی سر زمین میں اپنے پیغام بر کو مبعوث کیا اور کیا بھی اس شہر میں جو اپنے تقدس اور احترام کے لحاظ سے عرب کے تمام شہروں میں منفرد حیثیت رکھتا تھا۔

رسول اللہؐ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے کر اس کے سامنے انسانیت کی اعلیٰ قدریں متعین کر دی تھیں۔ عربوں کے قلوب فتح کرنے کے بعد آپؐ نے اپنی توجہ ایران اور روم کی طرف منعطف کی اور ان لوگوں کو اس شریعت غراء اور آسمانی تعلیم پر ایمان لانے کی دعوت دی جو ہر خطے کے لوگوں کے لیے یکساں مفید اور ہر زمانے کے تقاضوں کو یکسر پورا کرنے والی تھی۔ جب تک آپؐ زندہ رہے اعلیٰ کلمۃ الحق کے کام میں تن من دھن سے مصروف رہے اور اپنے بعد وفادار صحابہ کا ایک ایسا مقدس گروہ چھوڑ گئے جنہوں نے آپؐ کا

لغزشیں بچے کو توازن قائم کرنا سکھاتی ہیں اور آخر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ باقی نہیں رہتی اور وہ بالکل سیدھا ہو کر چلنے لگتا ہے۔ عالم طفلی سے نکل کر وہ جوانی کی عمر تک پہنچتا ہے اور جوانی کا زمانہ گزار کر بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح بچہ لڑکھڑانے اور بار بار منہ کے بل زمین پر گرنے کے باوجود اٹھنے اور دوبارہ چلنے سے باز نہیں آتا اور یہی لغزشیں آخر اس کی چال میں توازن پیدا کرنے کا باعث ہوتی ہیں اسی طرح اقوام عالم کا حال ہے۔ فارس اور روم کی سلطنتوں کے اوندھے منہ زمین پر آ گرنے سے انسانیت کو ایک زبردست دھکا لگا۔ لیکن یہی دھکا اس کے لیے باعث رحمت ثابت ہوا۔ ان عظیم الشان سلطنتوں کی جگہ اسلامی سلطنت کی صورت میں دنیا کے لیے امن و راحت کا سامان پیدا ہو گیا اور انسانی ضمیر کو پختگی حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ اسلام نے آ کر انسانیت کی لاج رکھ لی اور حریت و مساوات کا وہ نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔

اس موقع پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جزیرہ نمائے عرب کو نبی آخر الزمان کی بعثت کے لیے کیوں چنا اور اس خطہ زمین کو اپنے غیر مختتم انوار کے نزول کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟

اس سوال کا قطعی اور یقینی جواب دینا تو ہمارے بس کی بات نہیں لیکن اقوام عالم کے سلسلہ عروج و زوال پر نظر ڈالنے سے ہمیں اس امر کا تھوڑا سا اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کیوں اللہ نے اپنی مشیت سے جزیرہ نمائے عرب کو اس غرض کے لیے چنا۔

مصر، یونان، اشور اور رومہ کی سر زمین صدیوں سے انسانی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھی۔ دنیا کے دوسرے خطوں میں علم و فضل اور تہذیب و تمدن کی جو روشنی نظر آ رہی تھی وہ سب انہیں علاقوں سے فیضان حاصل کرنے کا نتیجہ تھا۔ ان علاقوں میں عقل انسانی پختگی کی اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ دوسرے ممالک کے لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ اسی لیے

جاتے ہیں اسی طرح مرتد قبائل ابو بکرؓ کی جنگی کارروائی کی تاب نہ لا کر ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئے۔

مرتدین کے استیصال سے عرب میں اسلام کا بول بالا تو ہو ہی چکا تھا، اللہ نے چاہا کہ ایران اور روم میں بھی اسلام کے درخت کی آبیاری کرے۔ اس غرض کے لیے اس نے صد ہا برس پیشتر سے انتظام شروع کر دیا تھا اور اپنی خاص تقدیر کے تحت جزیرہ عرب کے ہزاروں باشندوں کو ایران اور روم کے درمیان صحرائے شام میں آباد کر کے انہیں بطور بیج کے استعمال کیا تھا۔

ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو معجزہ ابو بکرؓ کے عہد میں رونما ہوا وہ دو متحارب طاقتوں کی باہمی آویزش کا ثمرہ نہ تھا بلکہ اس خدائی تقدیر کے تحت ظہور پذیر ہوا تھا۔ جسے بہر حال پورا ہو کر رہنا تھا اور جس کے پورا ہونے کے اسباب اللہ نے پہلے ہی سے مہیا کر دیئے تھے۔ اگر جزیرہ نمائے عرب شام اور عراق کے متصل واقع نہ ہوتا، اگر عربی زبان ان قبائل کی زبان نہ ہوتی جو صدیوں سے صحرائے شام میں مقیم تھے، اگر اللہ عین اس وقت اپنے رسول کو مبعوث نہ فرماتا جب زمین علم و عرفان کی پیاسی اور عالم نور حق کے لیے بے تاب تھا تو اس دنیا کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ نہ رومی اور ایرانی تہذیب کے بجائے اسلامی تہذیب جلوہ گر ہو سکتی اور نہ آفتاب ہدایت اقصائے عالم پر صوفشاں ہو سکتا۔

جب خدائی مشیت کے پورا ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا ہو جاتے ہیں اور جن لوگوں کے ذریعے سے خدا کی تقدیر کا ظہور مقدر ہوتا ہے ان کی مخفی صلاحیتیں آپ سے آپ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ابو بکرؓ، عمرؓ بن خطاب، خالد بن ولید اور دیگر امراء عسا کر کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسلامی سلطنت کی تشکیل انہیں لوگوں کے ذریعے سے ہوئی۔ لیکن کیا کوئی شخص خیال کر سکتا ہے کہ اگر اللہ کا ارادہ سر زمین عرب میں ایک حیرت انگیز معجزہ بروئے کار لانے کا نہ ہوتا تو بھی یہ لوگ ایسے ہی عظیم الشان

مشن پورا کرنے اور اللہ کا پیغام اقصائے عالم تک پہنچانے میں سردھڑکی بازی لگا دی۔

ابوبکرؓ کو اسی مقدس گروہ کی قیادت کا شرف حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے فرائض جس تن دہی سے انجام دیئے، حق و صداقت کا بول بولا کرنے کے لیے جس جان فشانی سے کام کیا اور تائید دین کی خاطر جن مہیب خطرات کا سامنا کیا انہیں ہم مسلمان کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عشق الہی، حب رسول، بے نفسی اور اخلاص و استقامت کے جو نمونے دکھائے ان کی نظیر پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ ان کی ذہنی پختگی کمال کو پہنچ چکی تھی۔ اگر تمام انسانوں میں اسی طرح ذہنی پختگی پیدا ہو جائے تو لڑائیوں کا نام و نشان مٹ جائے اور دنیا بھر میں امن و امان اور سلامتی کا دور دورہ ہو جائے۔

لیکن ابھی یہ وقت دور ہے۔ لوگوں کی سرشت میں اب بھی یہ بات داخل ہے کہ جب ان سے ان کے آبائی عقائد اور رسم و رواج کے خلاف کوئی بات کہی جائے، تو خواہ وہ کتنی ہی مفید اور دل نشین کیوں نہ ہو، وہ ہٹ دھرمی سے کام لیتے ہوئے اسے ماننے سے انکار کر دیں گے اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور پرانے رسم و رواج پر قائم رہیں گے خواہ وہ کتنے ہی مضحکہ خیز اور بعید از عقل کیوں نہ ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ ابھی تک ان کی ذہنی افتاد اس حد تک نہیں پہنچی جسے پختگی سے تعبیر کیا جاسکے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شور و غوغا کر کے اور خاندانی عزت ووجاہت کی دہائی دے کر حق و صداقت پر غالب آ سکتے ہیں۔ ان کی حالت بالکل اس بچے کی سی ہوتی ہے جو شور و غل مچا کر اور چیخ پکار کر کے والدین سے اپنا کہا منوالیتا ہے لیکن جب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ بے جا ضد کر رہا ہے اور اس کی بدتمیزیاں حد سے بڑھ رہی ہیں تو وہ اسے سرزنش کرتے ہیں اور بچہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ ابوبکرؓ کے عہد میں بھی مرتدین نے اسلامی حکومت کے خلاف شورش برپا کر کے من مانی کرنی چاہی تھی لیکن ابوبکرؓ کی بروقت کاہر وائی سے یہ فتنہ بڑھنے نہ پایا اور جس طرح نافرمان بچے ماں باپ کی گوش مالی کئے بعد ان کا کہا ماننے اور اطاعت کرنے پر مجبور ہو

اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقين۔

(جو قوم تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اتنی ہی سختی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم سے کی تھی۔ اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے)۔

اسلام لوگوں کو صلح کی دعوت دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں پر عفو اور درگزر سے کام لینے کی تلقین کرتا ہے۔ دشمن سے بھی نرمی کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آزادی رائے کا وہ سب سے بڑا علم بردار ہے اور مذہب و عبادات میں کسی قسم کی مداخلت وہ قطعاً برداشت نہیں کرتا۔

اسلام کی اس تعلیم کے پیش نظر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان اعلیٰ، بلند اور پاکیزہ اصولوں کی موجودگی میں ابوبکرؓ نے مسلمانوں کو مرتدین سے جنگ کرنے کا حکم کیوں دیا اور عراق و شام کی فتوحات کس غرض سے کی گئیں؟ ابوبکرؓ، اللہ اور رسول اللہ کے احکام کی دل و جان سے اطاعت کرنا فرض سمجھتے تھے۔ خدائی احکام کی خلاف ورزی کا ان پر شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام اگرچہ رحمت و شفقت، عفو و درگزر اور صلح و آشتی کا داعی ہے پھر بھی وہ مسلمانوں پر یہ پابندی عائد نہیں کرتا کہ وہ اسلام کی اشاعت کے لیے جبر و تعدی کو کام میں نہ لائیں بلکہ انہیں اجازت دیتا ہے کہ جہاں موقع ہو وہ اس غرض کے لیے سختی اور جبر سے بھی کام لیں اور اسی لیے مسلمانوں نے ملکوں اور شہروں پر چڑھائی کی اور وہاں کے باشندوں کو تلوار کے زور سے اسلام میں داخل کیا؟

ان سوالات کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک مرتدین کا تعلق ہے ابوبکرؓ نے ان سے خدائی احکام کے مطابق جنگ کی تھی جو اللہ نے سورہ برأت میں نازل فرمائے ہیں:

فان تابوا واقاموا الصلوة وآتوا الزکوة فآخوانکم فی الدین و
نفصل الایات لقوم یعلمون۔ وان نکثوا ایما نهم من بعد عہدہم و طعنوا
فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون۔

کارنامے انجام دے سکتے جیسے اسلامی فتوحات کے وقت انجام دیئے؟ اگر اللہ کی مشیت کارفرمانہ ہوتی تو ابو بکرؓ کی حیثیت عام لوگوں میں ایک معمولی تاجر سے زیادہ نہ ہوتی جسے ہر وقت مال و دولت کی فکر دامن گیر رہتی ہے اور قوم میں ان کا مرتبہ زیادہ سے زیادہ قبیلہ تیم بن مرہ کی سرداری سے بڑھ کر نہ ہوتا۔ اگر اسلام کا ظہور نہ ہوتا تو خالد بن ولید کی حیثیت بنی مخزوم اور قریش کے ایک معمولی بہادر آدمی سے زیادہ نہ ہوتی اور تاریخ میں ان کا نام کبھی سکندر اعظم، جولیس سیزر، ہنری بال، چنگیز خاں اور نیولین بونا پارٹ جیسے عظیم سپہ سالاروں کے ساتھ نہ لیا جاتا۔ اگر رسول اللہؐ کی بعثت نہ ہوتی تو عمر بن خطاب کا شمار کسی گنتی میں نہ ہوتا اور امیر المومنین کی حیثیت سے جو عظیم الشان کام انہوں نے انجام دیئے اور جس طرح ایران و روم کی سلطنتوں کو تہہ و بالا کر دیا ان کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہ آتا۔ آج اگر ان لوگوں کا نام تاریخ کے صفحات پر ابدی حیثیت حاصل کر چکا ہے اور ان کے کارنامے درخشندہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں تو محض اس لیے کہ یہ لوگ اس مشیت کی عملی تصویر تھے جس کا ظہور ازل سے مقدر ہو چکا تھا۔

مخالفین اسلام اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں نے حیات محمدؐ میں یہ ثابت کیا تھا کہ قرآن کریم جارحانہ جنگ کی مذمت کرتا ہے اور اسے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ٹھہراتا۔ چنانچہ فرماتا ہے:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔

(اے مومنو! اللہ کے راستے میں جہاد کرو لیکن یاد رکھو تمہیں صرف ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت ہے جو تم سے لڑتے ہیں۔ تمہیں بطور خود جارحانہ جنگ چھیڑ دینے کی اجازت نہیں)۔

اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا

ہے لیکن بعض اوقات وہ دیکھتا ہے کہ اس طرح بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو وہ انہیں رد بھی کر دیتا ہے اور بچے کی ناراضگی کی پروا نہیں کرتا۔ اسی طرح کبھی تو وہ پیار و محبت سے بچے کی تربیت کرتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ پیار اور محبت کا سلوک بچے پر اثر انداز نہیں ہوتا تو وہ اس کی گوشمالی کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ لیکن ہر حال میں اس کے پیش نظر بچے کی بھلائی ہی ہوتی ہے۔ وہ اگر پیار اور محبت کرتا ہے تو بچے کے فائدے اور اصلاح کی خاطر، اور ڈانٹتا اور گوشمالی کرتا ہے تو بھی بچے کے فائدے اور اصلاح کی خاطر۔ یہی حال اسلام کا بھی ہے۔ وہ ضمیر انسانی کو تدبیرِ بجا پختگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے وہ سب سے پہلے والدین کی طرح اس کی تربیت پر زور دیتا ہے۔ اسے کبھی محبت اور پیار سے کام چلانا پڑتا ہے اور کبھی سختی کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے لیکن ہر حال میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اس منزل کے قریب ہوتا چلا جائے جو اس کے لیے متعین کر دی گئی ہے اور ان اعلیٰ اقدار کو پا لے جو اس کا منتہائے مقصود ہیں اور جن کا ذکر بالتفصیل کلام اللہ میں کر دیا گیا ہے۔

انسانی ضمیر پر بسا اوقات جمود کی حالت بھی طاری ہو جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نشوونما بالکل رک چکی ہے۔ چنانچہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے ادبار اور پستی کی وجہ یہی ہے کہ طبعی قوانین کے مطابق انسانی ضمیر پر جمود کی حالت طاری ہو چکی ہے لیکن جمود کی یہ حالت ہمیشہ کے لیے برقرار نہیں رہ سکتی۔ یقیناً ایسا وقت آئے گا جب یہ حالت ختم ہوگی، انسان کی مخفی صلاحیتیں ایک بار پھر بیدار ہوں گی اور انسانی ضمیر آہستہ آہستہ پختگی کی آخری حد تک پہنچ جائے گا۔ یہ حالت خواہ صدیوں بعد پیدا ہو، بہر حال پیدا ضرور ہوگی۔ یہی وہ دن ہوگا جب انسان اخلاق کے اس بلند ترین مرتبے تک پہنچ جائے گا جس کا اسلام اس سے تقاضا کرتا ہے۔ زمین پر ہر طرف امن و سلامتی..... کا دور دورہ ہوگا اور بنی نوع انسان کی باہمی کدورت و شکر رنجی یکسر مفقود ہو جائے گی۔

لیکن یہ صورت حال تب ہی پیدا ہوگی کہ کل روئے زمین کے لوگ آسمانی آواز پر کان دھر کر اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ انسانی ضمیر تب ہی حد کمال کو پہنچ سکتا ہے کہ زمین کا چپہ چپہ اللہ کے نور سے معمور ہو جائے۔ اگر زمین کا ایک گوشہ تو آسمانی نور

(اگر کافر تو بہ کر لیں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تم ان سے مسلمانوں کا سا سلوک کرو۔ ہم اپنی آیات گوش و ہوش رکھنے والی قوم کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ عہد شکنی کریں اور دین اسلام میں طعنہ زنی کریں تو ان ائمہ کفر سے لڑو کیونکہ ان کی قسمیں ذرا بھی اعتبار کے لائق نہیں۔ شاید اسی طرح یہ شرارتوں سے باز آ جائیں۔)

اس لیے جب مرتدین عہد شکنی کر کے کھلم کھلا مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے اور دین اسلام پر طعنہ زنی شروع کر دی تو خدائی حکم کے مطابق ان سے لڑنا ضروری ہو گیا۔ اسی طرح جب ابو بکرؓ نے ایران اور روم کی طرف اسلامی فوجیں روانہ کیں تو بھی انہوں نے خدائی احکام سے سرمو تجاوز نہ کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے جنگ و جدل بہر حال ضروری ہے اور جب تک تلوار کے ذریعے سے قوموں کو زیر نہ کیا جائے اسلام کے اعلیٰ اور بلند مقاصد پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ انسانی ضمیر چونکہ ان دنوں عالم طفلی میں سے گزر رہا تھا اس لیے اسے راہ راست پر لانے اور تربیت دینے کے لیے مناسب حال طریقے استعمال کیے گئے۔ کہیں ملائمت اور نرمی سے سمجھایا گیا اور کہیں سختی و درشتی سے۔

مسلمانوں نے جب اسلام کے تابندہ اصول دنیا کے سامنے پیش کیے تو وہ اس امر سے غافل نہ تھے کہ انسانیت کے اعلیٰ تقاضے اس وقت تک کاملاً پورے نہیں ہو سکتے جب تک انسانی ضمیر پختگی کی حد کو نہ پہنچ جائے۔ اس بات کی تکمیل کے لیے ابھی ہزاروں سال چاہئیں۔ اسلام چونکہ بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس لیے اس نے ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو راستہ تجویز کیا ہے وہ ان کے حالات کے عین مطابق ہے۔ اس راستے پر چلنے سے انسان آہستہ آہستہ منزل مقصود کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اسلام کی مثال اس باپ کی سی ہے جو بچے کی تربیت کے وقت اس کی جسمانی نشوونما اور ساخت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ وہ کبھی اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور اس سے کبھی یہ امید نہیں رکھتا کہ وہ بچپن کی حالت میں جوانوں کی طرح کام کرے گا۔ تربیت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ باپ کبھی تو اپنے بچے کی معصوم خواہشات کا احترام کرتے ہوئے انہیں قبول کر لیتا

ہوں اور میرا اعتقاد ہے کہ اگر آج بھی دنیا کو محمدؐ کی خوبور کھنے والے کسی شخص کی خدمات میسر آجائیں تو بنی نوع انسان کی تمام مشکلات یکسر کافور ہو سکتی ہیں اور زمین میں امن و امان اور خوش بختی کا دور دورہ ہو سکتا ہے۔ آج زمانے کو انہیں چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔

”انیسویں صدی عیسوی میں کارلائل اور گبن جیسے جلیل القدر مفکرین نے اسلام کو حقائق و انصاف کی کسوٹی پر پرکھا اور جو نتائج اخذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیے ان کی بنا پر یورپ والوں کے نقطہ نظر میں تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوئی اور انہوں نے اسلام پر ہمدردانہ نظر سے غور و فکر کرنا شروع کیا۔ موجودہ بیسویں صدی میں تو اسلام کے متعلق اہل یورپ کے نقطہ نظر میں بہت زیادہ تبدیلی آچکی ہے اور نفرت و عداوت کی جگہ اسلام کی محبت نے لے لی ہے۔ اس رفتار کو دیکھتے ہوئے کچھ تعجب نہیں کہ اگلی صدی تک اسلام پورے طور پر اہل یورپ کے دلوں میں گھر کر جائے اور اسے وہ نجات کا ذریعہ سمجھ کر جوق در جوق اس میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔

’میری اپنی قوم اور یورپ کے دیگر ممالک کے متعدد اشخاص اسلام قبول کر چکے ہیں اور اب یہ بات بلا شک و شبہ کہی جاسکتی ہے کہ یورپ کے کلیئہ اسلام قبول کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔“^۱

برنارڈ شا کے علاوہ دنیا کے اور بھی بڑے بڑے مفکرین نے اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے متعلق انہیں خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جن سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہیں کہ انسانی ضمیر آہستہ آہستہ تکمیل کے مدارج طے کر رہا ہے اور یہ مقدر ہو چکا ہے کہ جلد یا بدیر دنیا آلات و مصائب کے چکر سے نجات حاصل کر کے قرار واقعی امن و سکون حاصل کر لے۔ اس کے آثار ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ زمین کی طنائیں کچھ چکی ہیں۔ باشندگان ارض کو میل ملاپ

سے حصہ پالے لیکن باقی حصے بدستور ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈھکے رہیں تو مناقشات اور جنگ و جدل کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس صورت حال کا مداوا کرنے کے لیے ہر زمانے میں ایسے انسان پیدا ہوتے رہیں گے جو ابو بکرؓ کے نقش قدم پر چل کر انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا کام انجام دیں گے اور جس طرح والدین اور استاد ہر ممکن طریقے سے اپنے بچوں اور شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی بنی نوع انسان کی تربیت کے لیے مناسب حال طریقے استعمال کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔

انسانی ضمیر نے حد کمال کو پہنچنے کے لیے اب تک جو ترقی کی ہے اس میں بڑا اثر اسلامی تعلیمات کا ہے اور آئندہ بھی وہ ترقی کی منازل اسی وقت طے کر سکے گا جب وہ اسلام کی پیش کردہ تعلیمات کو اپنالے۔ یہ وقت یقیناً آئے گا اور زمین کا گوشہ گوشہ اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گا۔

ہم یہ بات محض خوش اعتقادی کی بنا پر نہیں کہہ رہے بلکہ مغربی مفکرین بھی غور و فکر کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ چنانچہ ذیل میں ہم مشہور انگریز ادیب جارج برنارڈشا کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جسے پڑھنے سے ہماری رائے کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ برنارڈشا لکھتا ہے:

”محمدؐ کے پیش کردہ دین کو ادیان عالم میں بہت ہی بلند مرتبہ حاصل ہے۔ دیگر ادیان کے برعکس اس دین میں دائماً زندہ رہنے کی حیرت انگیز قوت موجود ہے۔ اس کی وجہ، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اپنے اندر مختلف طریقہ ہائے حیات کو سمونے کی اہلیت اور بنی نوع انسان کے ہر طبقے کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے..... کہ یورپ میں بھی اسے روز بہ روز مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ جہالت و تعصب کے باعث ازمنہ وسطیٰ میں اسلام کو انتہائی بھیانک صورت میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا اور انہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام یسوع مسیح کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن میں محمدؐ کو انسانیت کا نجات دہندہ سمجھتا

”اللہ کی ہزاروں برکتیں اور رحمتیں ہوں اس مقدس اور پاک باز انسان پر جس نے اپنی ساری عمر رسول اللہؐ کی رفاقت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کر دی۔ وہ ضعیف تھا لیکن دین کی راہ میں اس نے عدیم المثال استقامت کا ثبوت دیا۔ وہ غریب تھا لیکن اللہ کے راستے میں اپنا ایک ایک پیسہ خوش دلی سے خرچ کر دیا۔ اس کے راستے میں سنگ گراں حائل تھے مگر اسے پائے استقلال میں خفیف سی بھی جنبش پیدا نہ ہوئی اور وہ اسلام کی کشتی کو خوفناک طوفانوں اور مہیب چٹانوں سے صحیح سلامت نکال کر لے گیا۔“

ابوبکرؓ کے کارناموں کو آنے والی کوئی بھی نسل فراموش نہ کر سکے گی اور قیامت تک ان پر سلام بھیجنے والے پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم بھی ان کی مقدس اور مطہر روح پر ہزاروں سلام بھیجتے ہوئے ان کا مبارک تذکرہ ختم کرتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم میں پھر صدیق اکبر فاروق اعظم اور خالدؓ سیف اللہ جیسے صف شکن اولوالعزم اور پہاڑ کی مانند مستقل مزاج انسان پیدا کر دے جن کی اس وقت اسلام کی کشتی کو کھینچنے کے لیے اشد ضرورت ہے۔



کی جو سہولتیں آج میسر ہیں ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئیں، چھاپا خانوں کی بدولت کتابوں کی اشاعت وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے اور کبھی علم و فن اور مذہب و ملت کے متعلق کتابوں کا دستیاب ہونا دشوار امر نہیں رہا۔ صحافت، جو خیالات و عقائد کی اشاعت کا سب سے موثر ذریعہ ہے، عروج پر ہے۔ ریڈیو اور ٹیلیفون کے ذریعے سے سات سمندر پار کی خبریں پل بھر میں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ سب سامان اس یوم موعود کو نزدیک تر لانے کے لیے کیے جا رہے ہیں جب ساری دنیا کا ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی دین جو فضا میں آج جنگ کے نعروں سے گونج رہی ہیں وہ کل امن و سلامتی کے ترانوں سے معمور ہوں گی اور جہاں اس وقت تعصب اور جہالت کی گھنگھور گھنائیں چھا رہی ہیں وہاں آفتاب اسلام طلوع ہو کر ہر قسم کی تاریکی دور کر دے گا۔

اس صبح درخشاں کا ظہور کب ہوگا اور آفتاب سعادت کب جلوہ دکھائے گا؟ گو ہمارے ظاہری اندازوں کے مطابق یہ وقت ابھی دور ہے پھر بھی اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ یہ دن ہمارے لیے قریب تر آجائے۔ اس دن انسان اپنے اوج کمال کو پہنچ جائے گا۔ عدل و انصاف، رحم و شفقت، برو تقویٰ سے زمین بھر جائے گی۔ ہر شخص اپنے بھائی کا خیر خواہ ہوگا۔ تمام اقوام بھائیوں کی طرح ایک دوسرے سے پیش آئیں گی۔ منافقت کا جذبہ بالکل مفقود ہو جائے گا۔ کوئی قوم دوسری قوم پر للچائی ہوئی نظر نہ ڈالے گی بلکہ ترقی کی راہ میں چھوٹی بڑی اقوام ایک دوسری کے دوش بہ دوش گا مزن نظر آئیں گی۔

اس دور کا انسان جب پچھلے زمانے پر نظر دوڑائے گا تو اسے جنگ و جدل، قتل و غارت، خونریزی و سفاکی، عیاری و مکاری اور ظلم و تعدی کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آئے گا۔ وہ حیرت و استعجاب سے بنی نوع انسان کے ان کارناموں کو دیکھے گا جو انہوں نے شخصی مفاد اور ذاتی اقتدار کی خاطر انجام دیئے اور یہ کارنامے انجام دیتے ہوئے انہوں نے اخوت و محبت، عدل و انصاف اور رحمت و شفقت کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سنگ دلی اور نا انصافی کو شعار بنا لیا۔ اپنے آباء و اجداد کی یہ کارستانیاں دیکھ کر اس کا دل بے اختیار ان پر نفرین بھیجنے کو چاہے گا لیکن یکا یک اس کی نظر ابو بکرؓ کے نہایت مختصر مگر انتہائی درخشاں دور حکومت پر پڑے گی اور وہ مبہوت ہو کر پکارا اٹھے گا: